

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نَعْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ وَعَلٰی عٰلِهِ السَّلَامِ وَنُحَدِّثُکُمْ



وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

جلسہ سالانہ (صحافت) نمبر

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ (سورة التکویر)

ترجمہ: اور جب صحیفے نشر کئے جائیں گے

”دیکھو میرے دوستو! اخبار شائع ہو گیا“

.....الہام حضرت مسیح موعود علیہ السلام.....




04/2002 Al-Nahl Vol 13 No 1 A Quarterly Publication of Majlis Ansarul-Ul-Uloom, U.S.A.



حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الرابعیہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز



حضرت حافظ مرزا ناصر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ



حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ



حضرت حاجی حکیم مولوی نور الدین صاحب خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ



# جماعت احمدیہ کی سو سالہ صحافت کا تابناک دور

نوٹ: جماعت احمدیہ کی سو سالہ صحافت کے ابتدائی مدیران میں سے جن کی تصاویر دستیاب ہو سکی ہیں ذیل میں شائع کی جا رہی ہیں



حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب درویش  
ایڈیٹر رسالہ مسلم ٹائمز لندن



حضرت سید محمد سرور شاہ صاحب  
ایڈیٹر رسالہ تعلیم الاسلام و ریویو آف ریلیجنز قادیان




حضرت مولوی محمد علی صاحب ایم اے  
ایڈیٹر رسالہ ریویو آف ریلیجنز (انگریزی) قادیان



حضرت مفتی محمد صادق صاحب  
ایڈیٹر اخبار البدر قادیان



حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی  
ایڈیٹر اخبار الحکم و احمدی خاتون قادیان



مولانا عطاء اللہ صاحب کلیم مرحوم  
ایڈیٹر اخبار گائیڈنس (گھانا - مغربی افریقہ)



حضرت شیخ محمد یوسف صاحب  
ایڈیٹر رسالہ نور قادیان



حضرت شیخ عبدالقادر صاحب سابق سوداگر مل  
ایڈیٹر رسالہ التبلیغ ربوہ




حضرت مولانا ابوالعطاء صاحب جالندھری مرحوم  
ایڈیٹر رسالہ فرقان (قادیان)، الفرقان (ربوہ) والبشری (فلسطین)



حضرت بھائی عبدالرحمن صاحب قادیانی  
پرنٹر و پبلشر اخبار بدر قادیان



محترم ملک صلاح الدین صاحب درویش  
ایڈیٹر رسالہ اصحاب احمد قادیان




حضرت اقدس مرزا بشیر الدین محمود (خلیفۃ المسیح الثانی علیہ السلام) صاحب  
ایڈیٹر رسالہ تشہید الادھم و اخبار الفضل قادیان



محترم صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب  
نگران رسالہ درویش قادیان



محترم رشید احمد صاحب چودھری  
سابق ایڈیٹر الفضل انٹرنیشنل لندن



محترم مولانا نسیم سیفی صاحب مرحوم  
ایڈیٹر رسالہ انٹل ربوہ (موجودہ ایڈیٹر عبدالسیف خان صاحب)



محترم عبدالکرم صاحب طاہر  
انچارج عربی ڈیسک و سابق ایڈیٹر رسالہ الفتوی




محترم نصیر احمد صاحب قمر  
ایڈیٹر ہفت روزہ الفضل انٹرنیشنل لندن



محترم مولانا محمد صدیق امرتسری صاحب مرحوم  
ایڈیٹر رسالہ "The African Creasent" سیرالیون



محترم جناب کمال یوسف صاحب  
ایڈیٹر رسالہ ایکٹو اسلام و اخبار احمدیہ سویڈن



محترم ثاقب زیروی صاحب مرحوم  
ایڈیٹر ہفت روزہ لاہور



## تیرا ب سب سے زیادہ معزز ہے جس نے قلم کے ذریعہ سکھایا

میرے اندر ایک آسمانی روح بول رہی ہے جو میرے لفظ لفظ اور حرف حرف کو زندگی بخشی ہے

اڈیٹروں کا فرض ہونا چاہئے کہ وہ سچائی کو دنیا میں پھیلاویں نہ جھوٹ کو

**ترجمہ:** حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ پر سورۃ الجمعہ کی آیت و آخرین منهم لما يلحقوا بهم نازل ہوئی میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں جب آپ نے جواب مرحمت نہیں فرمایا تو میں نے تین مرتبہ دریافت کیا اور حضرت سلمان فارسی بھی ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت سلمان پر رکھ کر فرمایا اگر ایمان ثریا کے قریب بھی ہو جائے گا اپنی دوری کے اعتبار سے تو ان میں سے کچھ لوگ یا ایک آدمی اسے وہاں سے لے آئے گا:

شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے منقول ہے کہ:-

”لِلَّهِ عِزٌّ وَجَلَّ بِهَا كُنُوزٌ لَيْسَتْ مِنْ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ وَلَكِنْ بِهَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ عَرَفُوا اللَّهَ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ وَهُمْ أَنْصَارُ الْمَهْدِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ“  
(کفایت الطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب صفحہ 92-491 از امام محمد بن یوسف شافعی المطبعة الحیدریہ نجف 1390ھ)

**ترجمہ:** اللہ عزوجل کے ہاں سونے چاندی کے علاوہ اور بھی خزانے ہیں اور وہ مرد مومن ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کا حقیقی عرفان حاصل ہوگا اور وہ مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے انصار ہوں گے

### ارشادات حضرت مسیح موعود علیہ السلام

”اس زمانہ میں خدا تعالیٰ نے چاہا ہے کہ سیف (تلوار) کا کام قلم سے لیا جائے اور تحریر سے مقابلہ کر کے مخالفوں کو پست کیا جائے..... اس وقت جو ضرورت ہے وہ یقیناً سمجھ لو سیف کی نہیں بلکہ قلم کی ہے“  
(ملفوظات جلد اول صفحہ 59)

”میں نے تصد کیا ہے کہ اب قلم اٹھا کر پھر اس کو اس وقت تک موقوف نہ رکھا جائے جب تک کہ خدا تعالیٰ اندرونی اور بیرونی مخالفوں پر کامل طور پر حجت پوری کر کے حقیقت عیسویہ کے حربہ سے حقیقت دجالیہ کو پاش پاش نہ کرے۔“  
(نشان آسمانی صفحہ 28۔ روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 208)

”سچائی کی فتح ہوگی اور اسلام کے لئے پھر اس تازگی اور روشنی کا دن آئے گا جو پہلے وقتوں میں آ چکا ہے اور وہ آفتاب اپنے پورے کمال کے ساتھ پھر چڑھے گا جیسا کہ پہلے چڑھ چکا ہے“  
(فتح اسلام۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 10)

”میرے اندر ایک آسمانی روح بول رہی ہے۔ جو میرے لفظ لفظ اور حرف حرف کو زندگی بخشی ہے“  
(ازالہ اوہام۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 208)

وَأَوْحَىٰ إِلَيَّ رَبِّي وَوَعَدَنِي أَنَّهُ سَيَنْصُرُنِي حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَمْرِي مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا تَتَمَوَّجُ بِخُورِ الْحَقِّ حَتَّىٰ يُعْجِبَ النَّاسَ حُبَابَ غَوَارِبِهَا. (لُجَّةُ النُّورِ صفحہ 72 طبع اول فروری 1910ء مطبع ضیاء الاسلام قادیان)

یعنی میرے رب نے میری طرف وحی بھیجی اور وعدہ فرمایا کہ وہ مجھے مدد دے گا یہاں تک کہ میرا کلام مشرق و مغرب میں پہنچ جائے گا اور راستی کے دریا موج میں آجائیں گے یہاں تک کہ اس کی موجوں کے حباب لوگوں کو تعجب میں ڈال دیں گے۔

”اڈیٹروں کا فرض ہونا چاہئے کہ وہ سچائی کو دنیا میں پھیلاویں نہ جھوٹ کو۔ اس لئے ہم بار بار کہتے ہیں کہ ایسے گندے اور ناپاک اخبار دنیا کو بجائے فائدہ کے نقصان پہنچاتے ہیں اور جھوٹ جو ایک نہایت پلید اور ناپاک چیز ہے اس کو دنیا میں رائج کرتے ہیں“

(نزل المسح صفحہ 16 روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 392)



### ارشاد باری تعالیٰ

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝ (سورة العلق آیت 2 تا 6)

**ترجمہ:** پڑھا اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ اس نے انسان کو ایک چمٹ جانے والے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھا اور تیرا ب سب سے زیادہ معزز ہے جس نے قلم کے ذریعہ سکھایا۔ انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔

وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۝ مَا أَنْتَ بِمُجْنُونٍ ۝ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۝ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ ۝ (سورة القلم آیت 2 تا 5)

**ترجمہ:** ن۔ تم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں تو اپنے رب کی نعمت کے طفیل مجنون نہیں ہے۔ اور یقیناً تیرے لئے ایک لاتناہی اجر ہے اور یقیناً تو بہت بڑے خلق پر فائز ہے۔

بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُوتَىٰ صُحُفًا مُنْتَشِرَةً ۝ (المدثر: 52)

**ترجمہ:** بلکہ ان میں سے ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ وہ بکثرت پھیلائے جانے والے صحیفے (اپنے موقف کی اشاعت کے لئے) دیا جاتا۔

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ (التكوير: 11)

**ترجمہ:** اور جب صحیفے نشر کئے جائیں گے۔

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامَ وَالْبَحْرِ يَمْدُءُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِذْتَ كَلِمَاتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. (لقمان: 27)

**ترجمہ:** اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر سب قلمیں بن جائیں اور سمندر (روشنائی ہو جائے اور) اس کے علاوہ سات سمندر بھی اس کی مدد کریں تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ یقیناً اللہ کامل غلبہ والا (اور) صاحب حکمت ہے۔

### ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزَلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخَنزِيرَ وَيَضَعُ الْجُزْيَةَ وَيَفِيضُ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةَ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. (صحيح بخاری پارہ 13 كتاب الانبياء باب نزول عيسى بن مريم)

**ترجمہ:** آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے قریب ہے کہ ابن مریم تم میں نازل ہوں عدل و حکم ہو کر۔ وہ صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر یعنی سور کو مار ڈالیں گے اور جزیہ موقوف کریں گے اور مال اس بہتات سے ہوگا کہ کوئی اس کو قبول نہ کرے گا۔ ان کے زمانہ میں ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُوشِكُ مِنْ عَاشٍ مِنْكُمْ أَنْ يَلْقَىٰ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ إِمَامًا مَهْدِيًّا حَكَمًا عَدْلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخَنزِيرَ وَيَضَعُ الْجُزْيَةَ وَتَضَعُ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا (مسند احمد بن حنبل جلد 2 صفحہ 411)

**ترجمہ:** حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو اس وقت زندہ ہو وہ عیسیٰ بن مریم کو پائے گا جو امام مہدی ہوں گے اور حکم عدل ہوں گے (یعنی امت کے فرقوں کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلہ کرنے والے ہوں گے) اور صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ کو موقوف کر دیں گے (اور ان کے زمانہ میں) لڑائی اپنے اوزار رکھ دے گی یعنی مذہبی جنگوں کا خاتمہ ہو جائے گا:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ ”وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ“ قَالَ قُلْتُ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يُرَاجِعْهُ حَتَّى سَأَلْتُ ثَلَاثًا وَفِينَا سَلْمَانَ الْفَارِسِيُّ وَضَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ ثُمَّ قَالَ لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ أَوْ رِجُلٌ مِنْ هَؤُلَاءِ (بخاری كتاب التفسير باب الجمعة)



# میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اخبار بدر کو بہتر سے بہتر کام کرنے کی توفیق بخشے

اس اخبار کے چلانے والوں کو ظاہری اور باطنی علوم عطا کرے جس سے وہ قوم اور ملک کی صحیح راہنمائی کر سکیں

تقسیم ملک کے بعد اخبار بدر کی اشاعت پر سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعودؑ کا تاریخی پیغام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ..... اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِیْمِ  
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ

وَعَلٰی عِبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ  
خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ

————— و ا ل ن ا ص —————

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

برادران جماعت احمدیہ ہندوستان!

اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے خاص تصرف کے ماتحت ہندوستان کی جماعتیں اب پاکستان اور ہندوستان کے نام سے دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ سیاسی طور پر تقسیم ہو چکی ہیں بلکہ بین المملکتی اختلافات کی وجہ سے آپس میں میل جول بھی بہت ہی محدود رہ گیا ہے۔ جس کی وجہ سے ہندوستان کی جماعتیں پاکستان میں شائع شدہ لٹریچر سے خواہ وہ موقت الشیوع ہو یا مستقل ہو بہت حد تک محروم رہ گئی ہیں۔ ان حالات میں یہ ضروری تھا کہ قادیان سے ایسے لٹریچر شائع کرنے کی تدبیر کی جاتی جو کہ آسانی کے ساتھ ہندوستانی جماعتوں تک پہنچ سکتا۔ چنانچہ اس بات کے مد نظر میں نے صدر انجمن احمدیہ قادیان کو بار بار ہدایت کی کہ وہ کم سے کم ایک ہفتہ واری اخبار قادیان سے جاری کرنا شروع کریں تاکہ قادیان اور ہندوستان کی دوسری جماعتوں میں اتصال و اتحاد پیدا ہو۔ مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ بدر کے نام سے ایسے اخبار کے جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور وہ عنقریب شائع ہونے والا ہے۔ یہ مضمون میں اسی اخبار کے لئے بھجوا رہا ہوں۔

سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس اخبار کو بہتر سے بہتر کام کرنے کی توفیق بخشے اور اس اخبار کو چلانے والوں کو ظاہری اور باطنی علوم عطا کرے جن سے وہ قوم اور ملک کی صحیح راہنمائی کر سکیں۔ اور جماعت احمدیہ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس اخبار کو خرید کر اخبار کی اشاعت کو وسیع سے وسیع کرتے چلے جائیں اور ملک کے ہر گوشہ میں اسے پھیلا دیں۔ یہاں تک کہ یہ اخبار روزانہ ہو جائے اور وسیع الاشاعت ہو جائے۔ اس اخبار کا نام بدر رکھا گیا ہے اور یہ نام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا پسندیدہ تھا۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے رویا اور کشف شائع کرنے میں ایک زمانہ میں اس اخبار کو خاص اہمیت حاصل ہو گئی تھی کیونکہ مفتی محمد صادق صاحب ہی اس کے ایڈیٹر تھے۔ اور مفتی محمد صادق صاحب ہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پرائیویٹ سیکرٹری کا کام کرتے تھے۔ اس لئے انہیں الہامات کے جلد سے جلد حاصل کرنے کا موقع دوسروں سے زیادہ مل جاتا تھا میں امید کرتا ہوں کہ اب ان الہامات کی تشریح اور تفسیر اور ان کا مقصد اور مدعا بتانے اور شائع کرنے میں یہ اخبار پیش پیش رہے گا۔


برادران۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وقت ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں کے لئے بڑا نازک ہے اور جماعت کے لئے خصوصاً نازک ہے مگر ہم ایک ایسے خدا کے بندے ہیں اور اس پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں جس کے ایک اشارہ سے دنیا میں پیدا ہوتی اور مٹی میں ابھرتی اور گر تھی اور حکومتیں قائم ہوتی اور تباہ ہوتی ہیں۔ پس ہمارے حوصلے دوسرے لوگوں کے حوصلوں کی طرح نہیں ہونے چاہئیں جن کا کام خدا نے کرنا ہے انہیں ایسے حالات کی طرف نگاہ کرنا جائز ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگ خدا کا ہتھیار ہیں آپ لوگ خدا کی تدبیر ہیں آپ لوگ وہ نیا بیج ہیں جو خدا تعالیٰ نے دنیا میں بکھیرا ہے نہ خدا کا ہتھیار کند ہو سکتا ہے نہ خدا کی تدبیر ضائع ہو سکتی ہے نہ خدا کے پھینکے ہوئے بیجوں کو کیڑا کھا سکتا ہے۔ پس اپنی نظریں آسمان کی طرف رکھو اور زمین کی طرف مت دیکھو۔ یہ نہ دیکھو کہ تمہارے دائیں بائیں کون ہے بلکہ یہ دیکھو کہ تمہارے سر پر کس کا سایہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا تمہارے ہاتھوں میں ہے اور فرشتوں کی فوجیں تمہارے پیچھے ہیں۔ سچائی اور حق اور انصاف کو تم نے قائم کرنا ہے۔ نیکی اور تقویٰ کو تم نے دنیا میں پھیلا نا ہے۔ آئندہ دنیا کی زندگی اور اس کی ترقی تمہارے ساتھ وابستہ ہے۔ اور کائنات کی حرکت تمہارے اشاروں پر تیز یا سست ہونے والی ہے۔ پس اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو تبلیغ کو وسیع کرو زیادہ سے زیادہ بچتی یک رنگی اور اتحاد پیدا کرو اپنے مرکز کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرو اور ایسا کبھی نہ ہونے دو کہ تمہیں قادیان آنے کی فرصت حاصل ہو اور تم اس سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔

دنیا تم پر ہنس رہی ہے اس لئے کہ تم پارہ پارہ ہو چکے ہو لیکن خدا کے فرشتے آسمان پر تمہارے لئے ہنس رہے ہیں اس لئے کہ تم فاتح کامیاب اور کامران ہو۔ اندھا جو کچھ بیان کرتا ہے وہ قابل اعتبار نہیں بیجا جو کچھ دیکھتا ہے وہ صحیح ہے۔ پس خدا کی باتوں پر یقین رکھو اور لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھرو ہو گا وہی جو خدا چاہتا ہے خواہ اس امر کے راستہ میں مشکلات ایک پہاڑ ہی کیوں نہ ہوں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہو اور تم کو ایسے طریق پر کام کرنے کی توفیق دے کہ خدا کے فضلوں کی بارش تم پر ہو اور ہمیشہ ہوتی رہے۔ آمین۔

(اخبار بدر 7 مارچ 1952)

حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح الرابع ایدہ اللہ تعالیٰ کی صحت اللہ تعالیٰ کے فضل سے پہلے سے بہتر ہے احباب پیارے آقا کی صحت و تندرستی اور درازی عمر کے لئے دعائیں کرتے رہیں۔ ❀





Postal Reg. No. PB\0258\2002

The Weekly **BADR** Qadian

13/20 شوال 1422 ہجری 18/25 فتح 1381 ہش 18/25 دسمبر 2002ء

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ  
ہفت روزہ بدر قادیان ادارہ 18/25 دسمبر 2002ء

### ظلمت میں چمکتی ہوئی روشنی

## جماعت احمدیہ کی سو سالہ صحافت

اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و احسان ہے کہ اس نے اس سال ادارہ بدر کو سو سالہ صحافت کے لیے اور عالمگیر سفر کی ایک جھلک اپنے قارئین کی خدمت میں پیش کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ جماعت احمدیہ کی صحافت کی سو سالہ سنہری تاریخ ہے جس کو سینے کیلئے کئی ضخیم کتب بھی ناکافی ہوں گی، ہم نے تو بس یہ کوشش کی ہے کہ اس کی ایک جھلک اس رنگ میں پیش کریں کہ اہل علم حضرات کو اس کی ایک پیاس سی لگ جائے اور وہ جستجو کر کے ان بیش بہا موتیوں کی تلاش کر سکیں۔ اس سال اس نمبر کے شائع کرنے کا باعث یہ بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں جاری ہونے والے انگریزی رسالہ "ریویو آف ریلیجنز" کو پورے سو سال مکمل ہو چکے ہیں یہ مبارک ماہنامہ جنوری 1902 میں انگریزی میں پھر مارچ 1902 میں اردو میں بھی شروع ہو گیا تھا اور نہایت کامیابی سے اور آب و تاب کے ساتھ ہر ماہ تشنگانِ روحانیت کو عالمگیر طور پر سیراب کر رہا ہے۔ الحمد للہ۔

اسی طرح اخبار "البدر" جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں 1902 میں شروع ہوا تھا اس کی اشاعت پر بھی سو سال مکمل ہو چکے ہیں۔ پھر ایک وقفہ سے تقسیم ملک کے 5 سال بعد بدر پھر 1952 میں مرکز احمدیت قادیان سے شائع ہونا شروع ہوا اس طرح تقسیم ملک کے بعد اخبار بدر نے اپنے پچاس سال مکمل کر لئے ہیں اس دوران بدر نے بھی بالخصوص ہندوستان کے اندر قارئین میں ایک نمایاں مقام بنایا ہے۔ اس اعتبار سے کہ بدر 50 سال سے ہر ہفتہ خلیفہ وقت کے بصیرت افروز خطبات جمعہ اور خطبات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا رہا ہے۔ اسی طرح خلفاء وقت کی روحانیت سے بھرپور مجالس عرفان، علماء کرام کے پرمغز مضامین، مرکزی اعلانات، رپورٹیں اور حالت حاضرہ پر تبصرے اس کے صفحہ قرطاس پر آپ پڑھتے ہیں۔

ایک وقت جبکہ روزنامہ الفضل ربوہ پر پابندی تھی اور الفضل انٹرنیشنل بھی ابھی شائع ہونا شروع نہیں ہوا تھا بدر کو اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی کہ حضور انور کے خطبات جمعہ احباب جماعت کے سامنے پیش کرے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و احسان ہے کہ پوری دنیا میں جماعتی رسائل باوجود طرح طرح کی مشکلات اور زکاؤں کے گزشتہ سو سال سے دینی و ملی خدمات سرانجام دیتے چلے آ رہے ہیں اس تعلق میں خاص طور پر پاکستان سے چھپنے والے اخبارات کا کردار اہم و آفرین رہا ہے کہ پاکستان میں باوجود حکومت کے ظالمانہ آرڈیننس اور ناجائز سختیوں کے پھر بھی ان اخبارات نے نہ صرف صبر کے دامن کو نہ چھوڑا بلکہ ہر مشکل وقت میں احباب جماعت کا حوصلہ بڑھانے اور ان کے درمیان باہم رابطے کا ایک مثالی کردار ادا کیا ہے۔ ایسے ادوار میں روزنامہ الفضل ربوہ نے تو اپنا کردار ادا کیا ہی ہے، ماہنامہ انصار اللہ، خالد، تحفہ الاذہان، مصباح، وغیرہ بھی پیچھے نہیں رہے بلکہ لاہور سے چھپنے والا مرحوم ناقد زیروی کا ہفت روزہ لاہور بھی اس سلسلہ میں قابل رشک خدمات بجالاتا رہا ہے۔

ان تمام اخبارات و رسائل پر حکومت پاکستان کی طرف سے طرح طرح کی پابندیاں لگائی گئیں ان کی آزادی قلم کے گلے کو گھونٹا گیا ان کی تحریروں پر پہرے بٹھائے گئے مذہبی جذبات سے کھیلا گیا مقدمے کئے گئے طرح طرح سے تنگ کیا گیا لیکن یہ سب تکالیف انہوں نے نہایت خندہ پیشانی سے امام وقت کی ہدایات کے سائے تلے برداشت کیں۔ ان سب کے علاوہ احمدی اخبارات و رسائل کی عرصہ سو سال میں باقی اخبارات سے ہٹ کر اپنی اعلیٰ امتیازی خصوصیات بھی رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان اخبارات نے کبھی اخلاق کے دامن کو نہیں چھوڑا کبھی تمنائے زر میں اخلاق سے گری ہوئی گھٹیا صحافت نہیں کی اور نہ کبھی انصاف کے دامن کو چھوڑا۔ بہت سے اخبارات اٹھے انہوں نے

## سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا ہم نے

منظوم کلام سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی معبود علیہ السلام

ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے کوئی مذہب نہیں ایسا کہ نشاں دکھلائے ہم نے اسلام کو خود تجربہ کر کے دیکھا اور دینوں کو جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا تھک گئے ہم تو انہیں باتوں کو کہتے کہتے آزمائش کے لئے کوئی نہ آیا ہر چند آؤ لوگو کہ یہیں نور خدا پاؤ گے آج ان نوروں کا اک زور ہے اس عاجز میں جب سے یہ نور ملا نورِ بیبیر سے ہمیں مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت ربط ہے جان محمد سے مری جاں کو مدام اس سے بہتر نظر آیا نہ کوئی عالم میں صفِ دشمن کو کیا ہم نے نجات پامال نور دکھلا کے تیرا سب کو کیا ملزم و خوار شانِ حق تیرے شائل میں نظر آتی ہے دلیرا مجھ کو قسم ہے تیری یکتائی کی دیکھ کر تجھ کو عجب نور کا جلوہ دیکھا ہم ہوئے خیر ام تجھ سے ہی اے خیر رسل آدمی زاد تو کیا چیز فرشتے بھی تمام قوم کے ظلم سے تنگ آ کے مرے پیارے آج

کوئی دین محمدؐ سا نہ پایا ہم نے یہ ثمر باغِ محمدؐ سے ہی دکھایا ہم نے نور ہے نور اشو دیکھو سنایا ہم نے کوئی دکھلائے اگر حق کو چھپایا ہم نے ہر طرف دعوتوں کا تیر چلایا ہم نے ہر مخالف کو مقابلن پہ بلایا ہم نے لو تمہیں طور تسلی کا بتلایا ہم نے دل کو ان نوروں کا ہر رنگ دلایا ہم نے ذات سے حق کی وجود اپنا ملایا ہم نے اس سے یہ نور لیا بارِ خدایا ہم نے دل کو وہ جامِ لبالب ہے پلایا ہم نے لاجرم غیروں سے دل اپنا چھڑایا ہم نے سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا ہم نے سب کا دل آتش سوزاں میں جلایا ہم نے تیرے پانے سے ہی اس ذات کو پایا ہم نے آپ کو تیری محبت میں بھلایا ہم نے نور سے تیرے شیاطین کو جلایا ہم نے تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے شورِ محشر ترے کوچہ میں مچلایا ہم نے

(منقول از آئینہ کلمات اسلام صفحہ 224 مطبوعہ 1893)

اخلاقیات کو قائم کرنے اور انصاف کو برقرار رکھنے کے بڑے بڑے دعوے کے لیکن یا تو وہ راستے میں دم توڑ گئے اور با پھر وقت کے عفریت کے روبرو اپنی گردن جھکا دینے میں ہی انہوں نے اپنی عافیت سمجھی۔

ہندو پاک کے علاوہ براعظم یورپ اور افریقہ میں بھی مجموعی طور پر احمدی اخبارات و رسائل نے عیسائی دنیا کو اسلام کے روح پرور پیغام اور عافیت بخش سائے کی طرف لانے کیلئے ایک ممتاز مقام حاصل کیا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ احمدیہ صحافت کی جان سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وہ ملفوظات و مکتوبات اور کتب روحانیہ کی تحریرات ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے لکھیں اور جن کے متعلق آپ کا فرمان ہے کہ ان کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ خدا کی تائید و نصرت سے لکھا گیا ہے اس تعلق میں آپ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ میرے ماننے والے جو اس علم سے استفادہ کرتے ہیں قیامت تک حجت و برہان کی رو سے دوسرے کے منہ بند کر دیں گے پس احمدیہ صحافت کی جان اور اس کے غلبہ کی اصل نشانی دراصل خدا سے تائید یافتہ وہی علم کلام ہے جو ابتداء میں ایک نہایت بیش قیمت روحانی بیج کی شکل میں احمدیہ صحافت میں پھیلا گیا اور آج سو سال کے بعد اب یہ بیج خلافت احمدیہ کے زیر سایہ لہلہاتے کھیتوں کی شکل میں پوری دنیا میں اپنی دشان دکھا رہا ہے۔ دوسرے اسلامی فرقے بے شک اسلامی تعلیمات پیش کرنے کے مدعی تو ہیں لیکن آج کے اس دور میں قرآن مجید کی ایسی تفسیر جو موجودہ دور کے تقاضوں کے عین مطابق ہو اور جو مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگوں کو بھی ہر میدان میں تسلی دے سکے وہ صرف اور صرف اُس علم کلام کا ہی کام ہے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس دور میں دنیا کے سامنے رکھا۔

حال ہی کے دنوں میں جہاد کے تعلق میں باقی مسلمان فرقے تو اسلامی ترجمانی سے نہ صرف محروم رہے بلکہ اپنے سابقہ عقائد کے پیش نظر بغلیں جھانکنے لگے اس موقع پر تمام دنیا کے پریس میں نہایت شان کے ساتھ جہاد کی حقیقی تفسیر کے لئے اور مسلمانوں کی صحیح ترجمانی کے لئے وہی علم کلام نہایت شان کے ساتھ سامنے آیا جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آج سے سو سال قبل اپنے روحانی خزانوں میں پیش فرمایا تھا۔

اور یہ سب انشاء اللہ آپ پڑھیں گے اس صحافت نمبر میں جو اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ کرے کہ یہ نمبر اس تعلق میں مزید جماعتی خدمات کو آگے لانے کے لئے ایک پیش خیمہ بن جائے۔ منیر احمد خادم



دعا دل کے گداز سے ہوتی ہی فائدہ ہوتا ہے۔ مگر اس کا علاج بھی دعا ہے۔

سخت معاندین بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس آتے تو آپ انتہائی تلطّف سے خبر گیری کرتے اور ضروریات پوری فرماتے۔

(روایات صحابہؓ کی روشنی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت کے چند دلکش پہلو)

اختتامی خطاب جلسہ سالانہ برطانیہ ۲۰۰۲ء فرمودہ سیدنا امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الرابعیہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز  
۲۸ جولائی ۲۰۰۲ء مطابق ۲۸/۱۳/۱۳۸۱ھ ہجری شمسی بمقام اسلام آباد۔ ٹلفورڈ (برطانیہ)

(خطاب کا یہ متن ادارہ بدد، اپنی ذمہ داری پر شائع کر رہا ہے)

لے اور اس قوم کے کان اور دل کھول دے ہمیں وہ وقت دکھا کہ باطل معبودوں کی پرستش دنیا سے اٹھ جائے اور زمین پر تیری پرستش اخلاص سے کی جائے اور زمین تیرے راست باز اور موحد بندوں سے ایسی بھر جائے جیسا کہ سمندر پانی سے بھرا ہوتا ہے اور تیرے رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور سچائی دلوں میں بیٹھ جائے۔ (آمین) اے میرے قادر خدا مجھے یہ تبدیلی دنیا میں دکھا اور میری دعائیں قبول کر جو ہر یک طاقت اور قوت تجھ کو ہے۔ اے قادر خدا ایسا ہی کر۔ آمین ثم آمین

(حقیقۃ الوحی - روحانی خزائن جلد ۲۲ صفحہ ۶۰۲)

اجتماعی دعا اور روح پرور نظارے

آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں اور اللہ کرے کہ جلسہ کی روحانی برکات کا فیض ہمیشہ آپ کو پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔

(اس کے بعد حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے دعا کروائی۔ حضور ایدہ اللہ کی حالات اور صحت کی کنزوری کی وجہ سے سارے جلسہ کے ماحول میں ایک غم کی کیفیت طاری تھی اور آنکھیں انگٹا رہیں۔ مختصر سی دعا کرانے کے بعد حضور نے فرمایا:)

”اب آپ لوگ اپنے نعروں کا شوق بے شک پورا کر لیں“ (حاضرین جلسہ نے خوب کھل کر نعرے لگائے اور سارا جلسہ گاہ نعرہ ہائے تکبیر سے گونج اٹھا۔)

اس کے بعد حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے فرمایا کہ ”اس جلسے میں مجموعی حاضری ۱۹،۴۰۰ ہے۔ ۷۴ ممالک کی نمائندگی ہوئی ہے۔ بیرونی ممالک میں سب سے زیادہ حاضری جرمنی، دوسرے نمبر پر پاکستان اور تیسرے نمبر پر امریکہ کی ہے اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔“

(اس کے بعد حضور ایدہ اللہ کچھ وقت کے لئے مستورات کی جلسہ گاہ میں تشریف لے گئے۔ اور جلسہ گاہ کا ماحول بہت دیر تک نعرہ ہائے تکبیر اور لا اِلهَ اِلَّا اللّٰہ کے پاکیزہ ورد سے گونجتا رہا۔)

وقت آپ کے خلاف دشمنی کرنے میں مشغول رہتے تھے اور کوئی دقیقہ فروگذاشت کا نہ چھوڑتے تھے وہ بھی جب آپ کے آستانہ پر آئے اور دستک دی تو میں نے دیکھا کہ آپ ننگے سر ہی تشریف لے آئے اور دیکھتے ہی نہایت تلطّف اور مہربانی سے اس کے سلام کا جواب دے کر پوچھتے: آپ اچھے تو ہیں؟۔ اور اس کے سارے گھر کا حال پوچھ کر آپ فرماتے آپ کیسے آئے؟ پھر وہ اپنی ضرورت کو پیش کرتا تو آپ پوچھتے کتنی ضرورت ہے۔ آپ اس کی ضرورت سے زیادہ لا کر دیتے اور فرماتے اگر ضرورت ہو تو اور لے جاویں۔ (رجسٹر روایات صحابہ نمبر ۱ صفحہ ۷۲)

دعا میں دل نہ لگنے کا علاج

حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب بقا پوری بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے عرض کیا کہ حضور بعض اوقات دعا کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا اور جب تک دل سے دعا نہ کی جاوے کیا حاصل؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ”یہ سچ ہے کہ دعا دل کے گداز سے ہوتی ہی فائدہ ہوتا ہے مگر اس کا علاج بھی دعا ہے۔ دعا کرتے رہو آخر دل بھی متاثر ہو جائے گا۔ جیسا کہ جب شرابی نہیں ہوتا تو شراب ہی پیتا ہے۔ آخر پیتے پیتے نشہ آ ہی جاتا ہے۔ یہی حالت دعا کی ہے۔“

(رجسٹر روایات صحابہ نمبر ۸ صفحہ ۷۲)

دعا کی تحریک

اب اس مختصر خطاب کے آخر پر تمام جماعت عالمگیر کے لئے، اسیران راہ مولیٰ کے لئے اور شہداء احمدیت کے ورثاء کے لئے دعا کی تحریک کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اس تقریر کو ختم کرتا ہوں۔

”خدا تعالیٰ بہت سی روحمیں ایسی پیدا کرے کہ ان نشانوں سے فائدہ اٹھائیں اور سچائی کی راہ کو اختیار کریں اور بغض اور کینہ کو چھوڑ دیں۔ اے میرے قادر خدا میری عاجزانہ دعائیں سن

مسیح موعود کے آگے ناٹھ کے وزیر کی طرف سے ایک خط پیش کیا کہ راجہ کی خواہش ہے کہ حضور گورکھی زبان میں کوئی کتاب تصنیف فرمائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دریافت کیا کہ خط خود راجہ صاحب نے لکھا ہے یا اس کے وزیر نے۔ حضرت مولوی صاحب نے جواب دیا کہ خط وزیر کی طرف سے آیا ہے۔ حضرت مسیح موعود نے سن فرمایا کہ خدا کے مامورین میں کبریائی بھی ہوتی ہے اسے لکھ دیں کہ اگر راجہ کو ضرورت ہو تو بذات خود خط لکھے پھر ممکن ہے توجہ کی جائے۔“

(رجسٹر روایات صحابہ نمبر ۲ صفحہ ۳۱)

صبر و تحمل کا بے مثل مظاہرہ

حضرت مولوی محمد ابراہیم صاحب بقا پوری نے ۱۹۰۵ء میں بیعت کی سعادت حاصل کی۔ آپ ہندوؤں کی بدزبانی پر حضرت مسیح موعود کے صبر کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایک دفعہ جلسہ سالانہ پر جمعہ کی نماز کے لئے مسجد اقصیٰ کے اندر و باہر بھر جانے کی وجہ سے کچھ مدت اس مکان کی چھت پر کھڑے ہو گئے جو ایک ہندو کا تھا جو اب مسجد میں ملا لیا گیا ہے۔ اس بوڑھے ہندو نے غلیظ گالیاں دینا شروع کیں کہ تمام یہاں شور باکھانے کے لئے آجاتے ہوں۔ نماز جمعہ کے بعد حضور علیہ السلام نے خدام کو حکم دیا کہ اس کے کونٹے پر سے اتر کر مسجد میں ہی نمازیوں میں گھس آئیں اور عصر کی نماز ادا کریں۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے تقریر فرمائی جس میں فرمایا کہ قادیان کے لوگوں نے اس قدر نشان دیکھے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا عذاب الہی سے بچ جاوے لیکن یہ لوگ نہیں بچ سکتے۔“

(رجسٹر روایات صحابہ نمبر ۸ صفحہ ۶۸)

شدید معاندین سے مثالی حسن سلوک

حضرت شیخ محمد اسماعیل صاحب سر سادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کا یہ حال تھا کہ قادیان کے جو لوگ ہر

تشدید، تعوذ اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے فرمایا: گزشتہ چند سالوں سے میں جلسہ سالانہ کے تیسرے دن کی تقریر میں رجسٹر روایات صحابہؓ سے بعض دلچسپ اور ایمان افروز واقعات آپ کے سامنے بیان کرتا رہا ہوں جن میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ نے اپنے اپنے رنگ میں بڑی سادہ زبان میں بغیر کسی تصنع اور بناوٹ کے آپ کی پاکیزہ سیرت کو نمایاں کیا ہے۔ انہی میں سے چند نمونے آج کے اس خطاب کے لئے بھی چنے ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔

میں نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنا ہے

حضرت مولوی نور الدین صاحبؒ ایک روایت اس طرح بیان کرتے ہیں کہ مسیح موعود نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو میں نے جب حضرت مسیح موعود سے ذکر کیا کہ علماء اس دعویٰ کو تسلیم نہیں کریں گے تو فرمایا کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنا ہے خواہ علماء مانیں یا نہ مانیں۔

(رجسٹر روایات صحابہ نمبر ۳ صفحہ ۳۸)

لوگوں کی توبہ ہی غنیمت ہے

حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حضرت سید محمود عالم صاحب آف بہار آڈیٹر صدر انجمن احمدیہ بعض روایات بیان فرماتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ حضرت مولوی نور الدین صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں نے حضرت مسیح موعود سے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ حضور لوگوں سے بہت مختصر الفاظ میں بیعت لیتے ہیں۔ مجھ سے توبیعت کے وقت بہت کچھ اقرار لیا تھا۔ حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ میں تو ان کا اپنے ہاتھ پر توبہ کرنا بھی غنیمت سمجھتا ہوں۔ زیادہ اقرار کیا ہوں۔

(رجسٹر روایات صحابہ نمبر ۳ صفحہ ۳۷)

راجہ صاحب خود خط لکھیں

حضرت سید محمود عالم صاحب بہار مزید ایک روایت یوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت مولوی نور الدین صاحب نے حضرت



# سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قلمی جہاد

(مکرم مولانا اعطاء الحبيب صاحب راشد۔ امام مسجد فضل لندن)

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (سورة الصف آیت ۱۰)

## غلبہ اسلام کی آسمانی تقدیر

عالمگیر غلبہ اسلام اللہ تعالیٰ کی غالب تقدیر کا ایک حصہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہی مضمون بیان ہوا ہے کہ خواہ مشرک کتنا بھی ناپسند کریں، خدا تعالیٰ کی تقدیر برحق لازمی طور پر پورا ہو کر رہے گی۔ یہ غلبہ ہمارے آقا، ہادی و مولیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے زمانہ کے دورِ آخرین میں مقدر تھا۔ اور آپ نے بشارت دی تھی کہ جب آپ کا ایک غلام، امام مہدی اور مسیح موعود کے طور پر آئے گا تو اس کے ہاتھوں اس کا ظہور ہوگا۔

بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اس خدمت پر مامور کیا تو آپ نے اس آسمانی مہم کا آغاز کیا۔ ظاہر ہے کہ روحانی غلبہ روحانی ہتھیاروں ہی سے ہو سکتا ہے۔ پس آپ نے دلیل و برہان، دعا اور قلمی جہاد کے ذریعہ اس کام کا آغاز کیا۔ آج مجھے اسی قلمی جہاد کے بارے میں کچھ تفصیل عرض کرنی ہے۔

## اسلامی جہاد کا حقیقی مفہوم

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عظیم الشان کارناموں میں سے ایک کارنامہ مسلح جہاد کی حقیقی وضاحت ہے۔ غیر مسلموں نے اسلام کو بدنام کرنے اور لوگوں کو مذہب اسلام سے برگشتہ کرنے کے لئے یہ تہوہ رپیش کیا کہ اسلام جبر و اکراہ کا مذہب ہے جو دین کی اشاعت کے لئے ہر قسم کے ظلم و ستم کو جائز قرار دیتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس غلط تہوہ رکی نہ صرف پر زور تردید فرمائی بلکہ جہاد کے بارے میں صحیح نظر یہ بار بار بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔

آپ نے فرمایا:

”یہ خیال کہ آنحضرت ﷺ یا آپ کے صحابہ نے کبھی دین پھیلانے کے لئے لڑائی کی تھی یا کسی کو جبراً اسلام میں داخل کیا تھا سخت غلطی اور ظلم ہے۔ یہ اعتراض کہ گویا اسلام نے دین کو جبراً پھیلانے کے لئے تلوار اٹھائی ہے نہایت بے بنیاد اور قابل شرم الزام ہے۔ کیا اس مذہب کو ہم جبر کا مذہب کہہ سکتے ہیں جس کی کتاب قرآن میں صاف طور پر یہ ہدایت ہے کہ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ یعنی دین میں داخل کرنے کے لئے جبر جائز نہیں۔ کیا ہم اس بزرگ نبی کو جبر کا الزام دے سکتے ہیں جس نے مکہ معظمہ کے تیرہ برس میں اپنے تمام دوستوں کو دن رات یہی نصیحت دی کہ شرک کا مقابلہ مت کرو اور صبر کرتے رہو۔ ہاں جب دشمنوں کی بدی حد سے گزر گئی اور دین اسلام کے منا

دینے کے لئے تمام قوموں نے کوشش کی تو اس وقت غیرت الہی نے تقاضا کیا کہ جو لوگ تلوار اٹھاتے ہیں وہ تلوار سے ہی قتل کئے جائیں ورنہ قرآن شریف نے ہر گز جبر کی تعلیم نہیں دی۔“

(مسیح ہندوستان میں، دیباچہ، روحانی خزائن جلد ۱۵ صفحہ ۱۲۳۱)

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے آقا و مطاع، امن و سلامتی کے شہنشاہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی کامل متابعت میں یہ اعلان فرمایا کہ اسلام امن و سلامتی کا علمبردار ہے، عالمگیر امن کے قیام کے لئے ایسی شاندار تعلیمات پر مشتمل ہے جس کی کوئی نظیر دنیا کے کسی مذہب میں نہیں پائی جاتی۔ آپ نے فرمایا کہ ان استثنائی حالات کے علاوہ جبکہ تلوار اٹھانے والوں کے خلاف دفاعی طور پر قتال کی اجازت دی گئی ہے، اسلام نے جس جاری و ساری جہاد کی تعلیم دی ہے اس میں سب سے اعلیٰ اور افضل جہاد، جہاد بالنفس ہے جو ہر مسلمان مرد اور عورت پر ہر آن فرض ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عظیم الشان جہاد۔ جسے قرآن مجید نے جہاد کبیر قرار دیا ہے وہ قرآن مجید اور اسلامی تعلیمات کو ساری دنیا میں پھیلاتے چلے جانے کا جہاد ہے۔ تبلیغ اسلام کا یہ مقدس جہاد جو جماعت احمدیہ کا طرزہ امتیاز ہے۔ ساری دنیا کو روحانی آب حیات پہنچانے کا نام ہے اور ظاہر ہے کہ اس جہاد میں کسی جبر و اکراہ، کسی لڑائی یا خونریزی کا ذرہ برابر بھی دخل نہیں۔ یہ تو دلوں کو جیتنے کا جہاد ہے۔ اسی پر امن جہاد کا غلغلم، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی شان سے بلند فرمایا اور بار بار اس امر کی وضاحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا:

”میں نے خدائے تعالیٰ سے الہام پا کر اس بات کا عام طور پر اعلان کیا ہے کہ وہ حقیقی اور واقعی مسیح موعود جو درحقیقت مہدی بھی ہے جس کے آنے کی بشارت انجیل اور قرآن میں پائی جاتی ہے اور احادیث میں بھی اس کے آنے کے لئے وعدہ دیا گیا ہے وہ میں ہی ہوں مگر بغیر تلواروں اور بندوٹوں کے۔ اور خدائے مجھے حکم دیا ہے کہ نرمی اور آہستگی اور حلم اور غربت کے ساتھ۔ خدا کی طرف لوگوں کو توجہ دلاؤں۔ مجھے اُس نے بھیجا ہے کہ تائیں امن اور حلم کے ساتھ دنیا کو سچے خدا کی طرف رہبری کروں اور اسلام میں اخلاقی حالتوں کو دوبارہ قائم کروں۔“

(مسیح ہندوستان میں، روحانی خزائن جلد ۱۵ صفحہ ۱۲۳)

## قلمی جہاد کا آسمانی حربہ

آپ نے یہ بھی واضح فرمایا کہ آپ کو عطا ہونے والا غلبہ اسلام کا یہ روحانی ہتھیار اور یہ آسمانی حربہ دراصل قلمی جہاد ہے جس سے ادیان باطلہ کو شکست دے کر اسلام کے روحانی غلبہ کو قائم کیا جائے گا۔

آپ نے فرمایا:-

”میری تعلیم یہی ہے کہ یہ وقت تلوار چلانے کا وقت نہیں ہے بلکہ اس زمانہ میں پر زور تقریروں اور دلائل ساطعہ اور تہجج باہرہ اور دعاؤں کے ساتھ جہاد کرنا چاہئے۔“

(حاشیہ ضمیمہ برائین احمدیہ حصہ پنجم روحانی خزائن جلد ۲۱ صفحہ ۳۳)

نیز فرمایا:-

”سچی بات یہی ہے کہ مسیح موعود اور مہدی کا کام یہی ہے کہ وہ لڑائیوں کے سلسلہ کو بند کرے گا اور قلم، دعا۔ توجہ سے اسلام کا بول بالا کرے گا۔“

(لیکچر لدھیانہ صفحہ ۳۱۔ روحانی خزائن جلد ۲۰ صفحہ ۲۷۹)

آپ نے یہ بھی فرمایا:

”پادریوں کے مقابلے میں.... ہماری جنگ ان کے ہم رنگ ہے۔ جس قسم کے ہتھیار لے کر میدان میں وہ آئے ہیں اسی طرز کے ہتھیار ہم کو لے کر نکلتا چاہئے اور وہ ہتھیار ہے قلم۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کا نام سلطان القلم رکھا اور میرے قلم کو ذوالفقار علی فرمایا۔“

(الحکم جلد ۵ نمبر ۲۲۔ ۱۷ جون ۱۹۰۱ء بحوالہ تذکرہ صفحہ ۷۷)

قلمی جہاد کی ضرورت کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا:-

”اس زمانہ میں خدائے تعالیٰ نے چاہا ہے کہ سیف (تلوار) کا کام قلم سے لیا جائے اور تحریر سے مقابلہ کر کے مخالفوں کو پست کیا جائے۔ اس وقت جو ضرورت ہے وہ یقیناً سمجھ لو سیف کی نہیں بلکہ قلم کی ہے۔“

(ملفوظات جلد اول صفحہ ۵۹)

ایک طرف آپ نے قلمی جہاد کی اہمیت اور افادیت کو اجاگر فرمایا اور اس کے ساتھ ہی غلبہ اسلام کی اس آسمانی مہم کو مکمل کرنے کے لئے کمر ہمت کس لی۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:-

”میں نے تصد کیا ہے کہ اب قلم اٹھا کر پھر اس کو اُس وقت تک موقوف نہ رکھا جائے جب تک کہ خدائے تعالیٰ اندرونی اور بیرونی مخالفوں پر کامل طور پر حجت پوری کر کے حقیقت عیسویہ کے حربہ سے حقیقت دجالیہ کو پاش پاش نہ کرے۔“

(نشان آسمانی صفحہ ۲۸۔ روحانی خزائن جلد ۴ صفحہ ۲۰۸)

## برگزیدہ مسیح محمدی قلمی جہاد کے میدان میں

یہ عزم صمیم لے کر، اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے سایہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام قلمی جہاد کے اس فیصلہ کن معرکہ میں داخل ہوئے اور زمانہ گواہ ہے کہ آپ نے اس میدانِ مقابلہ میں اپنی ساری قوتیں صرف کر ڈالیں، نہ صرف اسلام کا شاندار دفاع کیا بلکہ اسلام کی عظمت اور برتری کو اس شان سے قائم فرمایا کہ ادیان باطلہ پسپائی پر مجبور ہو گئے۔ آپ نے اس معرکہ حق و باطل میں قلمی جہاد کا حق ادا کر دیا اور لازماً ایک فتح نصیب جرنیل کے طور پر کامیاب

دکامران ہوئے۔ آپ نے برحق فرمایا:-

”صف دشمن کو کیا ہم نے نجات یا مال سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا ہم نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ میں اسلام کی نفاذ ثانیہ کے آسمانی نقیب کے طور پر قائم فرمایا۔ آپ کی بعثت کا مقصد وحید تھی الذین و تقسیم الشریعہ کے الفاظ میں بیان ہوا ہے۔ یعنی احیائے دین اسلام اور قیام شریعت محمدیہ۔ سچے اور خالص اسلام کو دنیا کے سامنے از سر نو پیش کرنا اور محمد مصطفیٰ ﷺ کے لئے دین کو سب ادیان پر غالب کرنا آپ کی بعثت کا مقصد تھا۔ آپ نے فرمایا:-

”یہ عاجز تو محض اس غرض کے لئے بھیجا گیا ہے کہ تا یہ پیغام خلق اللہ کو پہنچا دے کہ دنیا کے مذاہب موجودہ میں سے وہ مذہب حق پر اور خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہے جو قرآن کریم لایا ہے اور دارالنجات میں داخل ہونے کے لئے دروازہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ہے۔“

(حجۃ الاسلام صفحہ ۱۲-۱۳۔ روحانی خزائن جلد ۶ صفحہ ۵۲-۵۳)

نیز فرمایا:

”خدا تعالیٰ نے اس زمانہ کو تاریک پاکر اور دنیا کو غفلت اور کفر اور شرک میں غرق دیکھ کر ایمان اور صدق اور تقویٰ اور راستبازی کو زائل ہوتے ہوئے مشاہدہ کر کے مجھے بھیجا ہے تاکہ وہ دوبارہ دنیا میں علمی اور عملی اور اخلاقی اور ایمانی سچائی کو قائم کرے اور تا اسلام کو ان لوگوں کے حملے سے بچائے جو فلسفیت اور نیچریت اور اباحت اور شرک اور دہریت کے لباس میں اس الہی باغ کو کچھ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔“

(آئینہ کلمات اسلام۔ روحانی خزائن جلد ۵ صفحہ ۲۵)

حضرت مسیح پاک علیہ السلام کی مقدس زندگی کا ایک دن اس بات پر گواہ ہے کہ اسلام کے اس بطل جلیل نے اپنی بعثت کے مقصد کی خاطر جان کی بازی لگادی اور خداداد طاقت و قوت کا ایک ایک ذرہ اس راہ میں ہمیشہ وقف کئے رکھا۔ آپ نے اس فرض کو ایک عبادت سمجھ کر ادا کیا۔ آپ کی ساری زندگی اسی مقدس جہاد میں صرف ہوئی۔ آپ نے اپنی کتب، اشتہارات، تقاریر، مناظرات، مباحثات اور گفتگو کے ذریعہ اسلام کی سچی اور حقیقی تصویر دنیا کے سامنے پیش کی۔ اسلام کے حسین چہرے پر، مرد و زمانہ کے سبب جو بدنامی داغ لگ گئے تھے آپ نے ایک ایک کر کے انہیں دور فرمایا۔ غلط فہمیوں اور تعصبات کے پردوں کو ایک ایک کر کے چاک کیا، غلط عقائد اور غلط تشریحات کی اصلاح کی اور یہ سب کام اس شوکت، عظمت اور تحدی کے ساتھ کئے کہ دیکھتے ہی دیکھتے اہل دنیا کے خیالات تبدیل ہونے لگے۔

کچھ سعادت مند اللہ کے بندے تو وہ تھے جو اس مقدس انسان کا صرف چہرہ دیکھ کر ایمان لے آئے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ کچھ وہ تھے جو دلائل پڑھ کر یاسن کر فوراً آپ کے قدموں میں آ بیٹھے۔ ابتداء میں تھوڑے تھے پھر ان کی تعداد بڑھنے لگی۔ ایک قطرہ اُس کے فضل سے دریا بن گیا۔



اکثریت ان لوگوں کی تھی جنہوں نے اس فرستادہ کو تسلیم نہ کیا اور اہل دنیا کی پرانی ریت کے مطابق انکار کی راہ اختیار کی لیکن عجیب بات یہ ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مقدس قلمی جہاد کی عظمت شان دیکھنے کے مخالفت اور انکار کے باوجود انہی مکفرین کے دانشور طبقہ کو اور ان کے عمائدین کو تسلیم کرنا پڑا کہ جو عقائد اور نظریات قرآن مجید کو بنیاد بناتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیش فرمائے ہیں وہی درست اور سچے اسلامی عقائد ہیں۔ معاندین احمدیت کے یہ اعتراضات جو سو سالہ تاریخ احمدیت پر پھیلے پڑے ہیں دراصل اقرار ہیں اس بات کا کہ جس فرستادہ کا معلم خود خدا تھا اور جو بدستان محمدؐ کا ایک ادنیٰ شاگرد اور غلام تھا وہی حق و صداقت کا علمبردار اور اپنی ہر بات میں سچا تھا۔

### خیالات کی تبدیلی کی چند مثالیں

جہاں تک مثالوں کا تعلق ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس قلمی جہاد اور خدا داد علم کلام میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ بطور نمونہ چند مثالیں اشارہ ذکر کرتا ہوں۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے وقت جمہور مسلمانوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں۔ مسیح پاک علیہ السلام نے قرآن مجید کی تیس آیات اور متعدد احادیث کی روشنی میں اس عقیدہ کا ابطال ثابت کیا۔ آپ کے مسلسل قلمی جہاد کے نتیجے میں اب یہ حالت ہے کہ غیر احمدیوں سے اس موضوع پر بات ہو تو ایک کثیر تعداد یہ جواب دیتی ہے کہ ہمارے آباء کا یہ عقیدہ ہوتا ہو لیکن ہم تو اس عقیدہ کے قائل نہیں۔ وفات مسیح کے قائل علماء کی فہرست اتنی طویل ہے کہ ساری بیان نہیں کی جاسکتی۔ علامہ رشید رضا، علامہ محمود شلتوت مفتی ازہر، سرسید احمد خان، مولانا ابوالکلام آزاد، علامہ اقبال، علامہ عنایت اللہ مشرقی، غلام احمد پرویز اور بے شمار دیگر علماء اس فہرست میں شامل ہیں۔

قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا لفظی الہام تسلیم کرنے کے باوجود مسلمان یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ قرآن مجید کی متعدد آیات منسوخ ہو چکی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پہلی بار ذکے کی چوٹ یہ اعلان فرمایا کہ قرآن کا ایک لفظ ایک حرف بلکہ ایک شے تک بھی منسوخ نہیں۔ اب حالت یہ ہے کہ نہ صرف مسلمانوں کا تعلیم یافتہ نوجوان طبقہ اس عقیدہ سے بیزار ہو چکا ہے بلکہ عقیدہ نسخ فی القرآن کے رد میں ان کے اپنے علماء کتابیں لکھ رہے ہیں۔

جہاد کے بارہ میں مسلمان بھی بد قسمتی سے یہ عقیدہ اپنا چکے تھے کہ گویا اسلام کے نزدیک تلوار کے ذریعہ دین اسلام کی اشاعت جائز ہے۔ ان کے علماء یہی عقیدہ اپنی کتابوں میں لکھ رہے تھے۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے اس میدان میں بھی قلمی جہاد کی عظمت اور شوکت سے کیا کہ خیالات کا رخ پلٹ کر رکھ دیا۔ تشدد پسند نام نہاد علماء کو چھوڑ کر عصر حاضر کے تعلیم یافتہ

مسلمان اس بات کے قائل ہو چکے ہیں کہ مذہب اسلام کو پھیلانے کی خاطر طاقت کے استعمال یا خونریزی کا کوئی بھی مذہبی یا عقلی جواز نہیں ہے۔ علامہ اقبال جیسے مفکر نے تسلیم کیا ہے۔

”جوع الارض کی تسکین کے لئے جنگ کرنا دین اسلام میں حرام ہے۔ علیٰ ہذا القیاس دین کی اشاعت کے لئے تلوار اٹھانا بھی حرام ہے“ (اقبال، ص ۲۰۲-۲۰۳) یا جوع و ما جوع کی حقیقت، عربی زبان کا ام الالسنہ ہونا، قرآن مجید اور سائنس میں تضاد کا نہ ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صلیبی موت سے نجات پا کر کشمیر آنا اور سرینگر میں قبر مسیح کا وجود، الغرض بے شمار مذہبی امور ایسے ہیں جن پر حضرت مسیح پاک علیہ السلام کی بیان فرمودہ تشریحات کا لوہا بالآخر خرافین کو بھی ماننا پڑا ہے۔ اور یہ سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ خیالات میں یہ انقلابی تبدیلی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قلمی جہاد کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ صرف اسی پر موقوف نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات اور آپ کے پاکیزہ اشعار کو اپنی کتب اور رسائل میں من و عن نقل کرنا اور آپ کی تحریرات اور اشعار کو اپنے نام سے شائع کرنا بھی غیر احمدیوں میں اس حد تک رواج پا گیا ہے کہ اس کی فہرست بھی بہت طویل ہے۔ کیا یہ سب آپ کے قلمی جہاد کا اعجاز نہیں؟

### قلمی جہاد کا انداز اور ایمان افروز کیفیت

ہمارے حبیب آقا، سید و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے دل میں اشاعت اسلام اور غلبہ دین ہدی کی جو تڑپ تھی اس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے کہ: فَكَفَّلْنَاكَ بِنَجْعِ نَفْسِكَ الْآيَةَ كُنُوزًا مُّؤَمِّنِينَ کہ تو اس غم میں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے پر تلا ہوا ہے کہ یہ لوگ اسلام قبول کیوں نہیں کرتے۔ کچھ ایسی ہی کیفیت آپ کے خادم اور ہمارے مخدوم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تھی۔ آپ نے فرمایا:۔

دیکھ سکتا ہی نہیں میں ضعف دین مصطفیٰ مجھ کو کرائے میرے سلطان کا میاب و کامگار حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خدمت اسلام کی اس سچی تڑپ اور درد کے ساتھ ساری زندگی قلمی جہاد کا سلسلہ جس فداکارانہ انداز میں جاری رکھا اس کی کیفیت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ دنیائے اس ہمہ وقت جہاد کا جو ایمان افروز نقشہ دیکھا اس کی کیفیت کچھ یوں ہے کہ ایک طرف دل سے اٹھنے والی یہ بے تاب دعائیں اور دوسری طرف خدمت اسلام کی تڑپ آپ کو اس قدر بے قرار کر دیتی کہ راتوں کو سونا بھی مشکل ہو جاتا۔ اس کیفیت میں امام الزماں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی خدا داد صلاحیتوں کو کولتینہ خدمت اسلام کی خاطر وقف کر دیا۔ حیات مستعار کا ایک ایک لمحہ اور طاقت کا ایک ایک ذرہ اس راہ میں قربان کر دیا۔ قلمی جہاد کے سلسلہ میں اتنی محنت فرماتے کہ بعض اوقات آپ پر انتہائی ضعف کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ جس مختصر عمارت میں آپ کا وصال ہوا اس بیماری کے دوران بھی آپ دن رات اپنی آخری

کتاب ”پیغام صلح“ کی تصنیف میں مصروف رہے۔ اور بالآخر اسی قلمی جہاد کی حالت میں آپ نے وصال یار کشمیریں جام پیا۔

آپ کا زندگی بھر جاری رہنے والا جہاد کوئی معمولی جہاد نہ تھا۔ آپ نے ۲۸ سال کے عرصہ میں ۹۰ سے زائد کتابیں تصنیف فرمائیں۔ اشتہارات کی تین جلدیں ہیں۔ آپ کی زبان مبارک سے بیان ہونے والے شیریں کلمات کو عشاق نے بڑی عقیدت سے قلمبند کیا اور یوں وہ بھی اس قلمی جہاد میں شامل ہو گئے۔ ان ملفوظات کی دس جلدیں ہیں۔ آپ نے جو

مکاتیب اپنے دست مبارک سے لکھے اور بعد ازاں کتابی شکل میں شائع ہوئے ان کی سات جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ یہ عظیم الشان علم کلام علم و معرفت کا ایک قلم بے کراں ہے۔ اس عظیم قلمی جہاد کا ایک شیریں ثمر ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا۔ علام الغیوب خدا نے عرش بریں سے آپ کو سلطان القلم کا خطاب عطا فرمایا۔ جس سے بڑھ کر کوئی سند تصور نہیں کی جاسکتی۔ سخامت کے لحاظ سے بھی تجزیہ بہت دلچسپ ہے۔ یہ قلمی جہاد اٹھارہ ہزار پانچ سو اکتتر صفحات اور کم و بیش اٹھتر لاکھ الفاظ پر پھیلا ہوا ہے۔ الفاظ بھی کسی دنیاوی مصنف کے الفاظ نہیں بلکہ ایک مامور من اللہ کی تحریر جس کے متعلق آپ نے خود فرمایا۔

”میرے اندر ایک آسمانی روح بول رہی ہے۔ جو میرے لفظ لفظ اور حرف حرف کو زندگی بخشتی ہے۔“ (ازالہ اوہام۔ روحانی خزائن جلد ۳ صفحہ ۴۰۳)

یہ ہے وہ زندگی بخش قلمی جہاد جس کا اعزاز حضرت مسیح پاک علیہ السلام کو عطا ہوا۔۔

ایں سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس قدر کثرت سے پر معارف زندگی بخش اور انقلاب آفریں تحریرات لکھنے والا کوئی اور شخص اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا!

اس قلمی جہاد کے سلسلہ میں یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ یہ سارا علمی جہاد اس جری اللہی حلال الانبیاء سلطان القلم حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مجاہدانہ حالت میں کیا کہ اکثر و بیشتر آپ بالکل یکجا و تنہا ہوتے۔ خود ہی اپنے دست مبارک سے لکھتے، کبھی بیٹھے ہوتے، کبھی لیٹے لیٹے اور بسا اوقات اس حالت میں کہ چلتے چلتے قلم پکڑے کاغذ پر لکھتے جاتے۔ ایک دو ات ایک دیوار کے طاقچے میں رکھی ہوتی۔ اس میں قلم ڈبو کر لکھتے جاتے اور دوسری طرف جا کر دوسری دو ات میں قلم ڈبو لیتے۔ بہت سی کتابیں اس حالت میں لکھیں کہ آپ بیمار تھے۔ ناسازی طبع کے باوجود قلمی جہاد کا سلسلہ جاری رکھتے۔ اس تیزی سے لکھتے کہ بعض ضخیم کتب صرف چند ہفتوں میں تالیف کیں۔ مضمون لکھ کر کاتب کو بھجاتے یا خود لے جاتے۔ خود ہی پروف پڑھتے۔ پریس میں چھپوانے کے لئے جاتے اور پھر اشاعت کے انتظامات میں بھی اپنے احباب کے ساتھ شامل ہوتے۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ اس مجاہد اعظم کے شب و روز کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی۔ اس

### جاری و ساری چشمہ فیض

اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو یوں نوازا کہ مسیح محمدی علیہ السلام کو جانثار اور فدا کار حواری کثرت سے عطا فرمائے جو آپ کے اس قلمی جہاد میں آپ کے مدد و معاون ثابت ہوئے اور ہر خدمت کو اپنی سعادت سمجھتے ہوئے ہمیشہ آپ کے قدموں میں پڑے رہتے تھے۔ دوسری طرف خدائے ذوالجنت نے اس قلمی جہاد کو غیر معمولی تاثیرات سے نوازا۔ ایک ایسے ثمر آور سرسبز درخت کی طرح جو شیریں ثمرات سے لد جاتا ہے۔ آپ کے قلمی جہاد کے ثمر سدا بہار ہیں۔ یہ آپ کی زندگی تک محدود نہیں رہے بلکہ ان کے فیضان کا دامن ابدالاً آباد تک پھیلا ہوا ہے۔ ہر قوم اس چشمہ سے پانی پی رہی ہے اور قیامت تک عوام الناس اور بادشاہ سب اس سے برکت حاصل کرتے رہیں گے۔

سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علم کلام کو اپنی قوت تاثیر اور جذب و کشش کے اعتبار سے بھی ایک امتیازی شان حاصل ہے۔ آپ قلم کے بادشاہ تھے اور آپ کی تحریرات پڑھتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا خدائے رحمن نے مناسب اور موزوں الفاظ کو آپ کے تابع فرمان بنا دیا ہے۔ بحمل الفاظ برجستہ تہرہ اور مناسب حال تراکیب و امثال آپ کے کلام میں اس کثرت سے نظر آتی ہیں کہ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ خدایا یہ کسی انسان کی تحریر ہے یا کوئی نوشتہ آسمانی ہے!۔

### قلمی جہاد کا عظیم شاہکار۔ براہین احمدیہ

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا سارا اثر چرخی آپ کے قلمی جہاد کا شاہکار ہے۔ بطور نمونہ میں صرف دو کتب کا ذکر کروں گا۔ ”براہین احمدیہ“ اور ”اسلامی اصول کی فلاسفی“

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قلمی جہاد کا باقاعدہ آغاز 1880 میں ہوا جب آپ نے براہین احمدیہ تصنیف فرمائی۔ یہ کتاب آپ کے قلمی جہاد کا آغاز بھی ہے اور نقطہ معراج بھی۔ یہ کتاب کیا ہے، ایک عظیم الشان معجزہ، ایک ایسا علمی اور اعجازی کارنامہ جس نے ہندوستان کی مذہبی دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا۔ وہ زمانہ اسلام کے لئے بے حد کس مہر سی کا زمانہ تھا۔ دیگر مذاہب کی طرف سے اسلام پر تابوتوں کا حملہ ہو رہے تھے۔ اسلام ہر طرف سے زخم میں آیا ہوا تھا اور اس دور کے مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنے عقائد اور اعمال کی خرابی کی بناء پر ایک جسد بے جان کی طرح تھے۔ اول تو کسی کو اسلام کے دفاع کا خیال تک



تھا اور جو اس صورت حال سے پریشان تھے ان میں نافع کی طاقت اور سکت باقی نہ تھی۔ ایک عجیب تاریک رات تھی جو عالم اسلام پر چھائی ہوئی تھی۔ ایسی کے عالم میں، جان بلب مریض کی طرح موت کی گھڑیوں کو گنا جا رہا تھا۔ اس حالت میں رحمت خداوندی جوش میں آئی اور صادق الوعد خدا نے حیائے اسلام کے لئے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو امام مہدی اور مسیح موعود کے طور پر مبعوث فرمایا۔ آپ نے دل شکستہ مسلمانوں کو یہ نوید سنائی:-

”یقیناً سمجھو کہ نصرت کا وقت آ گیا ہے اور یہ کاروبار انسان کی طرف سے نہیں اور نہ کسی انسانی منصوبے نے اس کی بنیاد ڈالی۔ بلکہ یہ وہی مسیح صادق ظہور پذیر ہو گئی ہے جس کی پاک نوشتوں میں پہلے سے خبر دی گئی تھی..... سو شکر کرو اور خوشی سے اچھلو جو مسیح تمہاری زندگی کا دن آ گیا“

(ازالہ اوہام۔ روحانی خزائن جلد ۳ صفحہ ۱۰۴)

آپ نے براہین احمدیہ تصنیف فرمائی اور اس میں زندہ خدا، زندہ رسول اور زندہ کتاب کو اس شوکت اور جلال سے پیش فرمایا کہ مسلمانوں کے دل کھل اٹھے اور ہمسایان اسلام کی صفوں میں کھلبلی پڑ گئی۔ آپ نے پروردگار کے ساتھ اپنے موقف کو اس تحدی کے ساتھ پیش کیا کہ مخالفین اسلام کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے اور انہیں اس بات کے لالے پڑ گئے کہ وہ اپنے مذاہب کا دفاع کس طرح کریں۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: ”آپ سب صاحبوں کو قسم ہے کہ ہمارے مقابلہ پر ذرا توقف نہ کریں۔ افلاطون بن جاوین۔ بیکن کا اوتار دھاریں، ارسطو کی نظر اور فکر لاویں، اپنے مصنوعی خداؤں کے آگے استمداد کے لئے ہاتھ جوڑیں۔ پھر دیکھیں جو ہمارا خدا غالب آتا ہے یا آپ لوگوں کے اللہ باطلہ“ (براہین احمدیہ جلد دوم روحانی خزائن جلد اول صفحہ ۵۷، ۵۸)

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس عظیم الشان کتاب میں قرآن مجید کے کلام الہی اور ایک مکمل کتاب ہونے اور اس کے بے نظیر ہونے اور آنحضرت ﷺ کے اپنے دعویٰ نبوت و رسالت میں صادق ہونے کو ناقابل تردید دلائل سے ثابت کیا۔ اس ضمن میں آپ نے 300 دلائل پیش فرمائے اور سب مخالفین کو بڑے جلالی انداز میں یہ چیلنج کیا کہ:-

”اگر کوئی صاحب منکرین میں سے مشارکت اپنی کتاب کی فرقان مجید سے ان سب براہین اور دلائل میں جو ہم نے دربارہ حقیقت فرقان مجید اور صدق رسالت حضرت خاتم الانبیاء ﷺ اسی کتاب مقدس سے اخذ کر کے تحریر کی ہیں اپنی الہامی کتاب میں سے ثابت کر کے دکھلا دے یا اگر تعداد میں ان کے برابر پیش نہ کر سکے تو نصف ان سے یا ثلث ان سے یا ربع ان سے یا خمس ان سے نکال کر پیش کرے یا اگر بکلی پیش کرنے سے عاجز ہو تو ہمارے ہی دلائل کو نمبر وار توڑ دے تو ان سب صورتوں میں بشرطیکہ تین منصف قبولہ فریقین بالاتفاق یہ رائے ظاہر کر دیں کہ ایفاء شرط جیسا کہ چاہیے تھا ظہور میں آ گیا میں مشتہر ایسے

مجیب کو بلا عذرے و حیلے اپنی جائیداد قیمتی دس ہزار روپیہ پر قبضہ و دخل دے دوں گا“۔

(براہین احمدیہ جلد اول۔ روحانی خزائن جلد ۱ صفحہ ۲۸۲، ۲۸۳)

ایک اندازہ کے مطابق اس وقت حضرت مسیح پاک علیہ السلام کی جائیداد کی کل مالیت دس ہزار روپیہ تھی۔ آپ کا یقین اور وثوق دیکھئے اور اسلام، قرآن مجید اور رسول اکرم ﷺ کے لئے آپ کی غیرت دیکھئے کہ آپ نے اپنی کل جائیداد اس مقابلہ میں انعام کے طور پر پیش کر دی مگر کون تھا جو اس چیلنج کو قبول کرتا اور اسلام کے بطل عظیم کے مقابل پر میدان مقابلہ میں اترنے کی جرات کر سکتا؟

حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے اس چیلنج کے بارے میں پہلے سے لکھ چھوڑا تھا کہ:-

”یہ اشتہار مخالفین پر ایک ایسا بڑا بوجھ ہے کہ جس سے سبکدوشی حاصل کرنا قیامت تک ان کو نصیب نہیں ہو سکتا“۔ (براہین احمدیہ جلد اول۔ روحانی خزائن جلد ۱ صفحہ ۱۰۴)

براہین احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قلمی جہاد کا وہ بے نظیر شاہکار ہے جس کو الہام الہی میں ذوالفقار علی قرار دیا کہ یہ حضرت علی کی تلوار کی طرح باطل شکن کتاب ہے۔ اس کا نام ایک کشف میں قطبی رکھا گیا کہ گویا یہ کتاب آسمان ہدایت پر قطب ستارہ کی طرح چمکے گی اور گمراہی کی ظلمت میں دین حق کی راہ دکھانے والی ثابت ہوگی۔

براہین احمدیہ کی اشاعت پر مسلمانوں میں جو عید کا سماں پیدا ہوا اور جس طرح مسلم عمائدین نے اسکو سراکھوں پر لیا اور اس کی دل کھول کر تعریف کی، اس کے ذکر کے بغیر یہ بات نامکمل رہے گی۔ آج کے نادان اور بے بصیرت، نام نہاد علماء، حضرت مسیح پاک علیہ السلام کے عظیم علم کلام پر حرف گیری کرتے ہوئے زبان درازی کرتے ہیں۔ ذرا دیکھئے کہ جب مسیح موعود علیہ السلام نے براہین احمدیہ تصنیف فرمائی جو آپ کی ۹۰ سے زائد کتب میں سے پہلی کتاب ہے تو اس وقت کے جدید علماء اور عمائدین نے کیا کہا تھا۔

مشہور عالم دین مولانا ذریعہ حسین صاحب نے کہا: ”براہین احمدیہ جیسی اسلام میں کوئی کتاب تالیف نہیں ہوئی“ (بحوالہ تحفہ گلزار دیہ روحانی خزائن جلد ۱ صفحہ ۱۳۰)

مولوی محمد حسین صاحب بنالوری نے اپنے اخبار میں اس کتاب پر طویل تبصرہ کیا جس میں لکھا:-

”ہماری رائے میں یہ کتاب اس زمانہ میں اور موجودہ حالت کی نظر سے ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں شائع نہیں ہوئی.....“

پھر مزید لکھا کہ:-

”مؤلف براہین احمدیہ نے مسلمانوں کی عزت رکھ دکھائی ہے“۔ اور آخر میں کہا کہ:-

”ہمارے ان الفاظ کو کوئی ایشیائی مبالغہ سمجھے تو ہمیں کم سے کم ایک ایسی کتاب بتا دے جس میں جملہ فرقہ گانے مخالفین اسلام..... سے اس زور و شور سے مقابلہ پایا جاتا ہو“۔ (اشادہ جلد ۱ صفحہ ۲۸۸)

الغرض یہ معرکہ الآراء کتاب آپ کے قلمی جہاد میں ایک سنہری سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے جس نے

ایک طرف دل شکستہ مسلمانوں کو امید کا پیغام دیا اور اسلام کی عظمت شان کو بدلائل اجاگر کیا اور دوسری طرف مخالفین اسلام کو میدان مقابلہ میں بری طرح چھبھاڑ کر غلبہ اسلام کی راہ کو ہموار کر دیا۔

### اسلامی اصول کی فلاسفی

اسلام کا دیگر ادیان پر غلبہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے اس دورِ آخرین میں مقدر کر رکھا تھا یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کام بھی تھا اور آپ کے دل کی آرزو اور تمنا بھی۔ آپ انہی مواقع کی تلاش میں رہتے، ان سے بھرپور استفادہ کرتے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیشہ آپ کا پلا بھاری رہتا اور اسلام کو فوقیت نصیب ہوتی۔ ان فتوحات کا دائرہ آپ کی ساری حیات طیبہ پر محیط ہے۔

ایک عظیم الشان یادگاری اور سنہری موقع وہ تھا جب آپ کو ایک ہی مجلس میں دیگر سب مذاہب کے مقابل پر اسلام کی برتری اور فوقیت اس انداز میں پیش کرنے کی توفیق عطا ہوئی کہ آپ کا مضمون سننے کے بعد ہر کس و ناکس کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے کہ ”مضمون بالارہا“۔ میری مراد حضرت مسیح پاک علیہ السلام کی معرکہ الآراء کتاب ”اسلامی اصول کی فلاسفی“ سے ہے جو ایک لیکچر کی صورت میں جلسہ اعظم مذاہب لاہور میں پیش کی گئی۔ اس اجلاس میں سب مذاہب کے نمائندگان نے پانچ سوالوں کے جوابات اپنے اپنے مذہب کی تعلیمات کے مطابق دئے۔

حضرت مسیح پاک علیہ السلام کو اسلام کی نمائندگی میں تقریر کی دعوت ملی تو آپ فوراً تیار ہو گئے۔ ناسازی طبع کے باوجود آپ نے مضمون مکمل فرمایا اور اسی دوران اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی کہ ”مضمون بالارہا“ آپ نے کامل یقین اور اعتماد کے ساتھ یہ خبر فوراً شائع فرمادی اور بالآخر وہی ہوا جو قدر و قدر خدا نے پہلے سے بتا دیا تھا۔

یہ عظیم الشان واقعہ ۱۸۹۶ء کا ہے۔ یہ کوئی معمولی اجلاس نہ تھا۔ سارے ملک میں اس کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ سب مذاہب کے نمائندگان اس میں شامل تھے۔ وسیع ہال اپنی تمام تر وسعت کے باوجود ناکافی ثابت ہوا۔ تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ بعض نے تو کھڑے ہو کر لیکچر سنا۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام کا مضمون ابھی بہت سابق تھا کہ مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ لوگوں کے اصرار پر وقت بڑھایا گیا۔ پھر بھی مکمل نہ ہوا تو جلسہ کے پروگرام میں ایک دن کا اضافہ کیا گیا۔ مضمون مکمل ہونے پر جو تاثرات بیان ہوئے اور بعد ازاں اخبارات میں جو تبصرے شائع ہوئے ان میں سے چند نمونے پیش کرتا ہوں۔

☆ کلکتہ کے اخبار ”جزل و گوہر آصفی“ نے لکھا:-

”صرف ایک حضرت مرزا غلام احمد صاحب رئیس قادیان تھے جنہوں نے اس میدان مقابلہ میں اسلامی پہلوانی کا پورا حق ادا فرمایا..... خدا کے زبردست ہاتھ نے مقدس اسلام کو گرنے سے بچالیا بلکہ اس کو اس مضمون کی بدولت ایسی فتح نصیب فرمائی کہ مخالفین

تو موافقین، مخالفین بھی سچے فطرتی جوش سے کہہ اٹھے کہ یہ مضمون سب سے بالا ہے، بالا ہے“۔

(۲۳ جنوری ۱۸۹۷ء)

☆ اخبار ”چودھویں صدی“ راولپنڈی نے لکھا:-

”عمر بھر ہمارے کانوں نے ایسا خوش آئند لیکچر نہیں سنا..... مرزا صاحب کے لیکچر کے وقت خلقت اس قدر آ کر گری جیسے شہد پر کھپیاں“ (یکم فروری ۱۸۹۷ء)

☆ ”سول اینڈ ملٹری گزٹ“ نے لکھا:-

”سب مضمونوں سے زیادہ توجہ اور زیادہ دلچسپی سے مرزا غلام احمد قادیانی کا مضمون سنا گیا..... لوگوں نے اس مضمون کو ایک وجد اور محویت کے عالم میں سنا“۔

☆ تھیوسوفی کلب بک نوٹس کے مطابق :-

”یہ کتاب محمد (ﷺ) کے مذہب کی بہترین اور سب سے زیادہ دلکش تصویر ہے“۔

حضرت مسیح پاک علیہ السلام کے عظیم علم کلام اور قلمی جہاد کا یہ شاہکار لیکچر ”اسلامی اصول کی فلاسفی“ کے نام سے کتابی شکل میں شائع ہوا اور اب تک دنیا کی 52 زبانوں میں اس کا ترجمہ شائع ہو چکا ہے۔

حق یہ ہے کہ یہ ایک ایسی زندہ اور زندگی بخش کتاب ہے جو لاکھوں بلکہ کروڑوں متلاشیان حق اور عشاق اسلام کے دل و دماغ کو منور کر چکی ہے۔ اور یہ سلسلہ تابد جاری رہے گا۔ اس کتاب کی تاثرات کا ایک نمونہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انگریز احمدی، واقف زندگی، مبلغ اسلام، الحاج بشیر احمد صاحب آرچرڈ مرحوم نے اس عاجز سے ذکر کیا کہ وہ قرآن مجید کے علاوہ ہمیشہ اس کتاب کو زیر مطالعہ رکھتے ہیں اور پچاس سے زائد بار اس کتاب کو پڑھا ہے اور ہر بار ایک نیا لطف اور حظ اٹھایا!

### آفاقی اور عالمگیر قلمی جہاد

سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قلمی جہاد کی ایک امتیازی شان یہ ہے کہ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی غلامی کی برکت سے آپ کے جہاد کا دائرہ عالمگیر تھا۔ باوجود مالی وسائل نہ ہونے کے، باوجود اس بات کے کہ آپ ایک ایسی ہستی میں رہتے تھے جو گمنامی کے لحاظ سے مثل غار تھی جہاں طباعت، اشاعت اور ترسیل کی سہولتیں ابتداء میں موجود نہ تھیں اور ابتداء میں آپ کے مساعدين کی تعداد بھی نہ ہونے کے برابر اور بعد میں بھی بہت ہی محدود تھی ان سب موانع کے باوجود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتب اور اشتہارات کو اکناف عالم میں پھیلا دیا۔ بلاذریہ کے علاوہ امریکہ، برطانیہ، افریقہ اور دنیا کے دور دراز ملکوں میں حق و صداقت کی آواز کو ہر ممکن طریق سے پہنچایا۔ اصل کتب بھی ارسال کیں اور تراجم بھی۔ دسی بھی اور بذریعہ ڈاک بھی۔ عوام الناس کے لئے بھی اور خواص کے نام بھی۔ الغرض آپ نے اس میدان میں بھی سچی تبلیغ فرمائی اور پیغام حق پہنچانے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا قلمی جہاد کوئی عارضی اور وقتی جہاد نہیں بلکہ زندہ و تابندہ اور جاری و ساری



جہاد ہے جس کا سلسلہ آپ کے وصال سے منقطع نہیں ہوا۔ آپ کی تحریرات زندہ تحریرات ہیں اور زندگی بخش بھی۔ ہدایت اور روشنی سے بھری ہوئی تحریرات کا فیضان زمان و مکان کی حدود سے بالا ہے اور آج سو سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد بھی آپ کے قلمی جہاد کے شاہکار آسمان ہدایت پر ستاروں کی طرح جگمگاتے ہیں۔ آج اکناف عالم میں پھیلے ہوئے احمدی مبلغین انہی کتابوں سے نور حاصل کرتے اور اسی نور سے دنیا کو منور کر رہے ہیں۔ یہ قلمی جہاد عالمگیر ہے اور ہر آن پھیلنے اور بڑھنے والا جہاد ہے جس کا دائرہ ہر آن وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے جو کتب تحریر فرمائیں وہ اکناف عالم میں بار بار چھپ رہی ہیں۔ دنیا کی مختلف زبانوں میں ان کے تراجم ہو چکے ہیں جو شائع ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کتابوں کا فیضان اس رنگ میں بھی جاری ہے کہ جو دلائل ان کتابوں میں بیان ہوئے ہیں وہی آج مبلغین اور داعیان الی اللہ کے ہاتھوں میں ایک ہتھیار کے طور پر ہیں جن کو استعمال کر کے وہ فتوحات پر فتوحات حاصل کر رہے ہیں۔ حق یہ ہے کہ حضرت مسیح پاک علیہ السلام کا یہ قلمی جہاد ایک سدا بہار درخت کی طرح ہے جو شرق و غرب میں ہر موسم میں فتوحات کے تازہ پھل عطا کر رہا ہے۔

قلمی جہاد کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نے اردو کے علاوہ اُمّ اللّٰبسنۃ یعنی عربی میں بھی بیسیوں سے زائد کتابیں لکھیں اور فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے ایسی بلند پایہ کتب کہ عرب کے علماء اور فضلاء بھی ان کی عظمت کے قائل ہیں۔ آپ نے غیر عرب ہوتے ہوئے عرب علماء کو مقابل پر بلایا بالخصوص قرآن مجید کے معارف اور تفسیر کے بیان میں آپ نے ساری دنیا کو مقابلہ کا چیلنج دیا۔ کوئی آپ کے مقابل پر آنے کی جرأت نہ کر سکا۔ آپ کو اعجازی رنگ میں عربی کا علم اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمایا۔ ایک رات میں عربی زبان کے چالیس ہزار مادوں کے علم سے نوازا۔ اور پھر خطبہ الہامیہ کا اعجازی نشان دکھایا۔ ان عربی کتب کے ذریعہ آپ نے بلاد عربیہ میں براہ راست تبلیغ کا اعزاز حاصل کیا جو آپ کے قلمی جہاد کا ایک منفرد اور امتیازی کمال ہے۔

### ملکہ و کٹوریہ کو تبلیغ اسلام

اپنے آقا و سولی، نبی مقتدی، حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے نقوش یا کی پیروی کرنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی روح کی غذا تھا۔ اس کی ایک ایمان افروز مثال یہ ہے کہ ہادی برحق، رسول پاک ﷺ نے باوجود آسمی ہونے کے اپنے وقت کے عظیم ترین حکمرانوں کو تبلیغی خطوط کے ذریعہ دعوت اسلام دی اور اس طرح قلمی جہاد کی مبارک سنت قائم فرمائی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس مبارک اسوہ پر عمل کرتے ہوئے، انگریزی زبان نہ جاننے کے باوجود، اپنے وقت کی ایک عظیم ترین حکمران ملکہ و کٹوریہ، قیصرہ ہند و انگلستان کو دعوت اسلام دی اور بڑی شان کے ساتھ اپنے فریضہ انجام دیا۔ اسکی تفصیل یہ ہے کہ ۱۸۹۶ء میں

جب ملکہ و کٹوریہ کی ڈائمنڈ جوبلی بڑی دھوم دھام سے منائی جا رہی تھی آپ نے اس موقع پر تبلیغ اسلام کا ایک خوبصورت اور موثر طریقہ نکالا کہ آپ نے ملکہ معظمہ کے نام ایک تفصیلی مکتوب لکھا جو بعد ازاں ”تحفہ قیصریہ“ کے نام سے شائع ہوا۔ دنیا کے لوگ تو ان مواقع پر رسماً مبارکباد کے پیغامات پر اکتفا کرتے ہیں اور اپنے بیانات میں مبالغہ یا مدحت سے کام لیتے ہیں لیکن مامور زمانہ، حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے نہ صرف ملکہ کو پر خلوص مبارکبادی بلکہ دلی دعاؤں کے ساتھ ”اَسْلِمُ تَسْلِمُ“ کے اسوہ مبارک کی متابعت میں بڑی جرأت اور دلیری کے ساتھ، اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ ادب کے تقاضوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے اسلام کا پیغام اور دیگر ادیان پر اسکی فضیلت کو واضح الفاظ میں بیان فرمایا۔ عیسائیت کے بنیادی عقائد پر حاکمہ کرتے ہوئے ان کی کمزوری اور غلطی کو خوب واضح کیا اور فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ آج کل جو کچھ عیسائیت کے بارہ میں سکھایا جا رہا ہے یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی حقیقی تعلیم نہیں ہے۔ آپ نے حضرت مسیح علیہ السلام کے حقیقی مقام کی وضاحت کرتے ہوئے ذکر فرمایا کہ میں نے کشتی بیداری میں حضرت مسیح علیہ السلام سے ملاقات اور بات چیت کی ہے اور انہوں نے موجودہ عیسائی عقائد سے بیزاری اور بریت ظاہر کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے اس زمانہ میں مثیل مسیح کے طور پر بھیجا ہے اور میرے آنے کا مقصد تو حید خالص کا قیام ہے۔ آپ نے ملکہ معظمہ کو تجویز پیش کی کہ جس طرح قیصر روم نے ایک جلسے میں دلائل سننے کے بعد تو حید کا مذہب اختیار کیا تھا اسی طرح مناسب ہوگا کہ لندن میں ایک عظیم جلسہ مذاہب منعقد کیا جائے۔ آپ نے قرآن مجید کے حمان جاگ کرنے کے بعد آخر میں یہ دعا دی کہ قیصرہ ہند ملکہ معظمہ مخلوق پرستی کو چھوڑ کر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ پر اس کا خاتمہ ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے انداز بیان میں ادب و احترام کے ساتھ ساتھ ایک غیر معمولی شوکت اور جلال پایا جاتا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دو سال کے بعد ملکہ معظمہ کے نام ایک اور خط یاد دہانی کے طور پر لکھا جو ۱۸۹۹ء میں ”ستارہ قیصرہ“ کے نام سے شائع ہوا۔ اس خط میں بھی نہایت پر حکمت انداز میں اسلام کا پیغام پہنچایا گیا۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام کے یہ دونوں مکتوبات آپ کے قلمی جہاد اور دعوت الی اللہ کے شاہکار ہیں۔

### نشان نمائی کی دعوت عام

حضرت مسیح پاک علیہ السلام کے قلمی جہاد کا یہ پہلو بھی خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ آپ نے بیک وقت دنیا کے سب بڑے بڑے مذاہب کے مقابل پر جہاد کا علم بلند فرمایا۔ آپ نے چوکھی لڑائی لڑی۔ اور ان سب کے سامنے زندہ خدا، زندہ رسول اور زندہ کتاب رکھنے والے اسلام کو بڑی تحدی اور جلال کے ساتھ پیش کیا۔ ان سب کو بار بار مقابلہ کی دعوت دی کہ آؤ اور مجھ سے ان روحانی میدانوں میں مقابلہ کر لو۔ آپ نے ذاتی

مشاہدہ اور تجربہ کی بنیاد پر اس چیلنج کو بار بار دہرایا۔ نشان نمائی کی دعوت عام دی۔ قبولیت دعا میں مقابلے کی دعوت دی۔ انعامات مقرر کئے۔ اور ہر طریق سے سب کو مقابل پر آنے کی دعوت دی۔ لیکن یہ ایک عظیم تاریخی حقیقت ہے کہ کسی مذہب کا کوئی نمائندہ بھی مرد میدان بن کر مقابلہ کے لئے تیار نہ ہوا۔ اس طرح حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے ان سب پر اسلام کی برتری کو ایک بار نہیں، بار بار ثابت کر دکھایا۔

آزمائش کے لئے کوئی نہ آیا ہر چند ہر مخالف کو مقابل پہ بلایا ہم نے اس اجمال کی کسی قدر تفصیل یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے مقصد بعثت کے مطابق ایک طرف تو ہر محاذ پر اسلام کا ایسا کامیاب دفاع فرمایا کہ مخالفین نے بھی آپ کو ایک فتح نصیب جرنیل کا خطاب دیا اور دوسری طرف غیر مذاہب کو اسلام کے مقابل پر آنے کی دعوت دی اور اس میدان میں اتمام حجت کر کے ان سب کو لا جواب کر دیا۔

سب سے پہلے تو آپ نے مارچ ۱۸۸۵ء میں مذاہب عالم کو نشان نمائی کی دعوت دی۔ آپ نے ایک زور دار اشتہار اس مضمون کا شائع کیا کہ دین اسلام کی حقانیت اور قرآن مجید کی صداقت میں کسی کو شک ہو تو میں اسے دعوت عام دیتا ہوں کہ ایسا شخص طالب صادق بن کر قادیان آئے، ایک سال تک میری صحبت میں رہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی تائید سے کوئی نشان دکھایا جائے گا۔ شرط یہ ہوگی کہ نشان دیکھ کر پھر اسے اسلام قبول کرنا ہوگا۔ اگر ایک سال میں کوئی آسمانی نشان مشاہدہ نہ کریں تو دوسورویہ ماہوار کے حساب سے ہر جانہ ادا کیا جائے گا۔ بلکہ آپ نے یہ پیشکش بھی کی کہ:

”اس دوسورویہ ماہوار کو آپ اپنے شایان شان نہ سمجھیں تو اپنے حرج اوقات کے عوض یا ہماری وعدہ خلافی کا جرمانہ، جو آپ اپنی شان کے لائق قرار دیں گے ہم اس کو بشرط استطاعت قبول کریں گے۔“

(مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ ۲۱-۲۲)

اس دعوت نشان نمائی کو اردو اور انگریزی میں ترجمہ کروا کے بیس ہزار کی تعداد میں چھاپ کر، نہ صرف ہندوستان کے جملہ معروف علماء اور علمائین کو ارسال کیا گیا بلکہ ساری دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں، وزراء، مصنفین اور دینی راہنماؤں کو رجسٹری ڈاک کے ذریعہ ارسال کیا گیا۔ حتی الوسع دنیا کے کسی معروف دانشور کو نہ چھوڑا گیا۔ اس کثرت سے اس عالمگیر دعوت کی اشاعت کی گئی کہ مذہبی دنیا میں ایک زبردست زلزلہ پیدا ہو گیا۔ لیکن جس جس کو یہ دعوت ملی وہ اس کی شوکت سے مبہوت ہو کر رہ گیا اور کسی ایک شخص کو بھی دعوت قبول کرنے کی ہمت اور توفیق نہ ہو سکی۔ کون ہے جو اللہ کے شیر سے مقابلہ کی جرأت کرے؟

حضرت مسیح پاک علیہ السلام کی بعثت کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اہل دنیا پر یہ ثابت کر دیا جائے کہ اسلام ہی حقیقت میں ایک زندہ مذہب ہے، قرآن

کریم ایک زندہ کتاب ہے اور محمد رسول اللہ ﷺ ہی زندہ نبی ہیں۔ یہ مقصد اور اس کا حصول آپ کو جان سے زیادہ عزیز تھا۔ آپ ہمیشہ ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتے جن سے یہ مقصد حاصل ہو سکے۔ ہر موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے اور خود بھی ایسے مواقع پیدا فرماتے جن سے دیگر مذاہب سے مقابلہ ہو اور اس طرح اسلام کی فضیلت اور برتری ظاہر ہو سکے۔ اس کی ایک صورت آپ نے اس رنگ میں بار بار پیدا کی کہ سب مذاہب کو بار بار دعوت مقابلہ دی۔ ۱۸۸۵ء میں آپ نے قلمی جہاد کا باقاعدہ تصنیف کے ذریعہ آغاز کیا تو براہین احمدیہ کے دلائل کا جواب دینے یا دلائل کو توڑنے کی دعوت دی لیکن کوئی مقابلہ نہ کر سکا۔ ۱۸۸۵ء میں سب کو مقابل میں نشان نمائی کی دعوت دی۔ کسی کو مقابلہ کی جرأت نہ ہو سکی۔ ۱۸۹۲ء میں آپ نے اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام میں ایک بار پھر اسلام کے مقابل پر روحانی مقابلہ کی دعوت دی اور فرمایا:

”اگر کوئی سچ کا طالب ہے خواہ وہ ہندو ہے یا عیسائی یا آریہ یا یہودی یا برہمن یا کوئی اور ہے اس کے لئے یہ خوب موقع ہے جو میرے مقابل پر کھڑ ہو جائے۔ اگر وہ امور غیبیہ کے ظاہر ہونے اور دعاؤں کے قبول ہونے میں میرا مقابلہ کر سکا تو میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اپنی تمام جائیداد غیر منقولہ جو جس ہزار روپیہ کے قریب ہوگی اس کے حوالے کر دوں گا۔ جس طور سے اس کی تسلی ہو سکے اسی طور سے تادان ادا کرنے میں اس کو تسلی دوں گا۔ میرا خدا واحد، شاہد ہے کہ میں ہرگز فرق نہیں کروں گا اور اگر سزائے موت بھی ہو تو بدلہ جان روا رکھتا ہوں۔ اور اگر اب بھی میری طرف منہ نہ کریں تو ان پر خدا تعالیٰ کی حجت پوری ہو چکی“ (آئینہ کمالات ص ۲۶)

آپ کی اس دعوت کو خوب مشہور کیا گیا لیکن کسی مذہب کے ایک نمائندے نے بھی اس فیصلہ کن میدان میں قدم رکھنے کی جرأت نہ کی۔

### بار بار دعوت مقابلہ

ایک بار پھر آپ نے زندہ اور مردہ خدا میں مقابلہ کی دعوت دی تا اس ذریعہ سے اسلام کی فضیلت ثابت کرنے کی کوئی صورت پیدا ہو سکے۔ ۱۸۹۶ء میں آپ نے بذریعہ اشتہار اعلان فرمایا:

”اسلام سچا ہے۔ میں ہر ایک کو کیا عیسائی کیا آریہ اور کیا یہودی اور کیا برہمن۔ اس سچائی کے دکھانے کے لئے بلاتا ہوں۔ کیا کوئی ہے جو زندہ خدا کا طالب ہے۔ اگر دنیا کے اس سرے سے اس سرے تک کوئی عیسائی طالب حق ہے تو ہمارے زندہ خدا اور اپنے مردہ خدا کا مقابلہ کر کے دیکھ لے۔ میں سچ و حق کہتا ہوں کہ اس باہم امتحان کے لئے چالیس دن کافی ہیں۔“ (مجموعہ اشتہارات جلد ۲ صفحہ ۳۱۲)

اسی اشتہار میں آپ نے بڑی تحدی کے ساتھ پھر فرمایا:

”میں میدان میں کھڑا ہوں اور صاف صاف



کہتا ہوں کہ زندہ خدا اسلام کا خدا ہے اور زندہ خدا میرے سر پر ہے۔ کوئی ہے؟ میں پھر کہتا ہوں کہ کوئی ہے کہ اس آزمائش میں میرے مقابل پر آوے۔“ (صفحہ ۳۱۳)

آٹھ روز بعد آپ نے پھر ایک اور اشتہار دیا۔ ایسی تحدی اور جلال تھا اس لکار میں کہ مخالفین اسلام کی صفوں میں سناٹا چھا گیا اور ایک بھی مرد میدان مقابلہ کے لئے تیار نہ ہوا۔ کسی ایک کو بھی دم مارنے کی جرأت نہ ہوئی۔

یہ تو اس میدان مقابلہ کا ذکر ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سب مذاہب والوں کو مجموعی رنگ میں مقابلہ کی دعوت دی اور کوئی مقابل پر نہ آیا۔ لیکن اسلام کے اس فتح نصیب جرنیل نے اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ الگ الگ طور پر بھی ان سب مذاہب کو دعوت مقابلہ دی اور اس طرح سب مذاہب کو دلائل و براہین کے میدان میں بالکل نہتہ کر کے اسلام کی عظمت کا علم لہرایا۔ یہ داستان بہت ہی ایمان افروز ہے اور ایک ایسے جری مجاہد کا تصور آنکھوں کے سامنے ابھرتا ہے جو اس شان سے میدان جہاد میں اترتا ہے کہ ہر آن منزل پر نظر مرکوز ہے۔ کوئی خوف، لالچ، کوئی طمع اور کوئی دوسرہ اس کا راستہ نہیں روکتا، وہ عواقب سے بے نیاز آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، ہر مشکل کا حل تلاش کرتا ہوا، جانفروشی سے دشمن پر پے در پے حملے کرتا ہے، نئے سے نئے انداز اختیار کرتا ہے اور اس وقت تک دم نہیں لیتا جب تک دشمن کی ہر تدبیر اور کوشش کو ناکام بنا کر اپنی فتح کے لئے مستحکم بنیاد استوار نہیں کر لیتا۔

### تردید عیسائیت

تیرھویں صدی کے آخر پر اسلام انتہائی غربت کی حالت میں تھا۔ عیسائی پادریوں نے اسلام اور اہل اسلام کو اپنے نرغہ میں لے رکھا تھا۔ لاکھوں مسلمان، اسلام کی روشن شاہراہ کو چھوڑ کر عیسائیت کے تاریک غار میں دھکیلے جاتے تھے اور اس پر بس نہیں بلکہ عیسائی متاد جان ہنری بیروز علی الاعلان اس عزم کا اظہار بھی کر رہا تھا کہ ہم عنقریب (خاکش بدین) مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر بھی عیسائیت کا پرچم لہرا دیں گے۔

الغرض عیسائیت کی اس روز افزوں ترقی کو دیکھ کر اور بلند بانگ دعویٰ سن کر اہل اسلام ایک عاجز اور اچار انسان کی طرح چپکے پیٹھے تھے۔ کسی میں اتنی ہمت اور اتنی سکت نہ تھی کہ وہ مرد میدان بن کر باہر نکلتا اور عیسائیت کا مقابلہ کرتا۔ اسلام کی کشتی کو اعتراضات اور حملوں کے منجھار میں دیکھ کر دردمندان اسلام کے لول بارگاہ احدیت میں مدد و نصرت کے لئے ناصیہ فرما رہے تھے۔

بالآخر وہ ساعت سعد آگئی جس کے لئے لاکھوں دل بے تاب اور کروڑوں انسان چشم براہ تھے۔ قادیان کی گناہ بستی سے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک ﷺ کے عاشق صادق حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا انتخاب فرمایا اور اسلام کے غلبہ پر

ادیان باطلہ کے لئے آپ کو خلعت ماموریت سے سرفراز فرمایا۔ آپ کا دل شروع ہی سے خدمت اسلام کے بے پناہ جذبہ سے معمور تھا اور اب جبکہ خدا تعالیٰ نے اسلامی غلبہ کی مہم آپ کے ہاتھ میں دے دی تو آپ نے اس قادر و توانا کے حکم سے اور اسی کی مدد و نصرت پر بھروسہ کرتے ہوئے کشتی اسلام کے پتو اسنبال لئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حَسْرَتِي السُّدِّي فِي حُلِّي الْاَنْبِيَاءِ کا عظیم الشان خطاب عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ ایک دنیا نے دیکھا کہ انتہائی ظلمت و ضلالت اور یاس و ناامیدی کے دور میں یہی ایک پہلوان تھا جس نے اسلام کی عظمت رفتہ کو پھر سے قائم کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ وہ مسلمان جو عیسائیوں کے آگے مغلوب نظر آتے تھے اور دل چھوڑ بیٹھے تھے ان کو آپ ہی نے تسلی دیتے ہوئے پر شوکت الفاظ میں فرمایا :-

☆ ”یقیناً سمجھو کہ اس لڑائی میں اسلام کو مغلوب اور عاجز دشمن کی طرح صلح جوئی کی حاجت نہیں بلکہ اب زمانہ اسلام کی روحانی تلوار کا ہے۔ یہ پیشگوئی یاد رکھو کہ عنقریب اس لڑائی میں بھی دشمن ذلت کے ساتھ پسپا ہوگا اور اسلام فتح پائے گا“ (آئینہ کمالات اسلام۔ روحانی خزائن جلد ۵ حاشیہ صفحہ ۲۵۲)

نیز آپ نے فرمایا :-

☆ ”سچائی کی فتح ہوگی اور اسلام کے لئے پھر اس تازگی اور روشنی کا دن آئے گا جو پہلے دتوں میں آچکا ہے اور وہ آفتاب اپنے پورے کمال کے ساتھ پھر چڑھے گا جیسا کہ پہلے چڑھ چکا ہے۔“ (فتح اسلام۔ روحانی خزائن جلد ۳ صفحہ ۱۰)

آپ کے ان پر شوکت اعلانات سے ساری دنیا چونک اٹھی۔ حقیقی مسلمانوں کے دل خوشی اور مسرت سے جھوم اٹھے اور دوسری طرف عیسائی دنیا پر یہ اعلان ایک آسمانی بجلی بن کر گر ا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت سے مذہبی دنیا میں ایک نیا نقش ہویدا ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے پانسہ پلٹ گیا۔ عیسائی مذہب جو اس سے قبل اسلام کو اپنا شکار سمجھتا تھا اور اس یقین پر قائم تھا کہ مذہب اسلام اب چند دنوں کا مہمان ہے، خود مغلوب ہو گیا اور اسلام جسے ایک جسد بے جان خیال کیا جاتا تھا دیگر سب ادیان پر غالب آ گیا اور یہ خدائی وعدہ بڑی شان و شوکت اور عظمت و جلال کے ساتھ پورا ہوا کہ: ﴿هُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ عَلٰى الدِّيْنِ كُلِّهِ﴾

حضور علیہ السلام کے زمانہ میں دشمن تلوار کی بجائے قلم لے کر حملہ آور ہوا تھا۔ چنانچہ آپ نے سنت انبیاء کے مطابق اسی حربے سے دشمنوں کا جواب دیا جو انہوں نے اختیار کیا تھا۔ آپ نے اپنے قلم کو جنبش دی اور آپ کے مبارک قلم سے وہ عظیم الشان انقلاب آفریں لٹریچر پیدا ہوا جس نے مذہبی دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا اور دنیا ایک نئے رنگ میں آگئی۔ یہ وہ تبدیلی تھی جو تلوار کے ذریعہ کبھی تصور میں نہیں آ سکتی تھی۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے قلمی جہاد

میں ہمیشہ عیسائیت کی تردید پر خاص طور پر اپنی توجہ مرکوز رکھی کیونکہ اسلام کے خلاف سب سے زیادہ مزاحمت عیسائیت کی طرف سے ہی تھی۔ آپ کی نوے سے زیادہ کتب میں قریباً ہر کتاب میں یہ موضوع کسی نہ کسی رنگ میں آیا ہے۔ خاص طور پر جنگ مقدس، چشمہ مسیحی، راز حقیقت، مسیح ہندوستان میں، کتاب البریہ، ستارہ قیصریہ، سراج الدین عیسائی کے چار سوالوں کا جواب، انجام آتھم اور نور الحق میں تردید عیسائیت کا مضمون بڑی تحدی اور جلال سے بیان ہوا ہے۔

کسر صلیب کے ضمن میں آپ نے جو قلمی جہاد فرمایا وہ ہر لحاظ سے بے مثال اور عدم النظیر ہے۔ یہ قلمی جہاد سب کا سب خدا داد علم پر مبنی تھا جس کا جواب انسان کے بس کی بات نہیں۔ اس کی بنیاد قرآن مجید پر تھی جو اللہ تعالیٰ کا قلمی اور یقینی کلام ہے۔ پھر آپ نے مذہبی مقابلہ کے لئے ایسے محکم اور معقول اصول مقرر فرمائے جن پر پورا اترنا عیسائیوں کے لئے ممکن نہ تھا۔ مثلاً آپ کا بیان کردہ یہ اصول کہ اپنے ہر دعویٰ اور دلیل کا ثبوت اپنی کتاب سے دو۔ کوئی اس معقول اصول کو رد نہیں کر سکتا۔ آپ نے ہر موقع پر خود اس کی پیروی کی اور دوسری طرف عیسائی پادری کبھی بھی اس پر پورا نہیں اتر سکے۔ پھر آپ نے اس قلمی جہاد میں صرف عقلی و نقلی دلائل پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کی بنیاد مشاہدہ، ذاتی تجربہ اور نشان نمائی پر رکھی اور یہ سب امور ایسے ہیں جن میں عیسائی دنیا بالکل خالی اور تہی دست ہے۔ قلمی جہاد میں آپ کا انداز نگارش انتہائی سادہ، شیریں اور دلنشین ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک غیر معمولی تحدی اور جلال بھی پایا جاتا ہے۔ مخالفین پر آپ کی پکڑ ایسی سخت ہے کہ کوئی جائے فرار باقی نہیں رہتی۔ ایک ایک موضوع پر آپ نے دلائل کے انبار لگا دئے ہیں اور دلائل کو مختلف پیرایہ میں کھول کھول کر بیان فرمایا ہے۔ میری تحقیق کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بنیادی طور پر تثلیث کی تردید میں ۱۸ دلائل، الوہیت مسیح کی تردید میں ۲۳ دلائل، کفارہ کی تردید میں ۳۵ دلائل اور حضرت مسیح کی صلیبی موت کی تردید میں ۳۰ دلائل اپنی کتب میں بیان فرمائے ہیں۔ بعض دلائل ایسے ہیں جو آگے بے شمار منی دلائل پر مشتمل ہیں۔ یہ ایسے پر شوکت اور ناقابل تردید دلائل ہیں کہ عیسائیت کبھی بھی ان کا توڑ پیش نہیں کر سکتی۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے خود فرمایا ہے:

”ہمارے اصول عیسائیوں پر ایسے پتھر ہیں کہ وہ ان کا ہرگز جواب نہیں دے سکتے“ (ملفوظات جلد ۱۱ صفحہ ۲۱)

### قلمی جہاد کے اثرات اور نتائج

الغرض عیسائیت کے خلاف اپنے قلمی جہاد میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو عظیم الشان علم کلام پیش فرمایا وہ اپنی جلالت شان، زبردست قوت و تاثیر اور وسعت و ہمہ گیری کے اعتبار سے ایک اعجازی شان رکھتا ہے۔ یہ ہے وہ عظیم الشان زندہ

معجزہ جو اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولیٰ محمد عربی ﷺ کے غلام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قادیان میں بیٹھے ہوئے عالمگیر قلمی جہاد کیا اور اپنی تحریروں کے ذریعہ ساری دنیا میں صداقت اسلام کو روز روشن کی طرح ثابت کر دکھایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے روشن نشانات عطا فرمائے جو دنیا کے مختلف علاقوں میں بڑی شان و شوکت سے ظاہر ہوئے اور اس طرح اکناف عالم میں عیسائیت کے مقابل پر اسلام کی برتری ثابت ہوتی چلی گئی۔ ہندوستان میں ذیعی عبداللہ آتھم کی ہلاکت، لاہور کے بشپ جارج الفریڈ لیفرائے کا مقابلہ سے فرار، لندن کے مشہور پادری جان سمٹھ پکٹ کی نامرادی اور رسوا کن موت، امریکہ کے جان الیکزینڈر ڈوڈی کی رسوائی اور عبرت ناک ہلاکت اور اس قسم کے بے شمار نشانات ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کی صداقت اور عظمت پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے عیسائیت کی ناکامی اور نامرادی کا نقشہ ساری دنیا کو دکھادیا۔

درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قلمی جہاد کی عظمت کا اندازہ اس کے اثرات اور نتائج سے لگایا جاسکتا ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ عیسائیت اسلام پر حملہ آور تھی، آج اپنے دفاع پر مجبور ہو چکی ہے۔ عیسائیت کی سر زمین سمٹی جا رہی ہے اور ہر سال کثرت سے عیسائی حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں۔ عیسائی عمائدین بنیادی عقائد کے بارہ میں اپنے موقف تبدیل کر رہے ہیں۔ صلیبی موت کا عقیدہ جو عیسائیت کی بنیاد ہے اس کی تردید میں خود عیسائی پادریوں کے بیانات جاری ہو رہے ہیں۔ قبر مسیح کے بارہ میں غیر جانبدار اور عیسائی مصنفین کتابیں لکھ رہے ہیں۔ عیسائی پادری برسر عام یہ اعلان کر رہے ہیں کہ عیسائی گرجوں میں جانے والوں کی تعداد کم سے کم ہوتی جا رہی ہے اور ویسٹ منسٹر لندن کے آج بشپ نے تو حال ہی میں کھلے لفظوں میں یہ تسلیم کیا ہے کہ

"Christianity is nearly vanquished in Britain"

کہ برطانیہ سے عیسائیت قریباً قریباً نابود ہو چکی ہے۔

(بحوالہ روزنامہ نیلی گراف لندن ۶ ستمبر ۲۰۰۱)

کیا یہ سب امور اس بات کا ثبوت نہیں کہ کاسر صلیب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قلمی جہاد کی ضرب حیدری سے اب عیسائیت دنیا سے رخصت ہوتی نظر آرہی ہے۔ اس پسپائی کا آغاز حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی با برکت زندگی میں ہوا۔ جب پادری لیفرائے نے پادریوں کی فوج کے ساتھ ہندوستان پر یلغار کی تو دہلی کے مولوی نور محمد صاحب نے یہ الفاظ کہے کہ

”تب مولوی غلام احمد قادیانی کھڑے ہو گئے۔۔۔ اور اس نے لیفرائے کو اس قدر تنگ کیا کہ اس کا اپنا پیچھا



چھڑانا ہشکل ہو گیا اور اس ترکیب سے اس نے ہندوستان سے لے کر ولایت تک کے پادریوں کو شکست دے دی۔ (دیباچہ معجز نما کلاں قرآن شریف مترجم از اصح المطابع دہلی صفحہ ۳۲ مطبوعہ ۱۹۳۲ء)

حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے عیسائیت کے زوال کے بارہ میں فرمایا تھا:-

”یہ سب کچھ تدریجاً ہوگا... کچھ ہماری حیات میں اور کچھ بعد میں ہوگا۔“

(کتاب البریہ روحانی خزائن جلد ۱۳ صفحہ ۳۰۵) اور آج ہم سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے عیسائیت کی پسپائی کے زندہ گواہ ہیں۔

### ایک انٹرنیشنل شہادت

حضرت مسیح پاک علیہ السلام کی وفات پر ہندوستان کے مشہور اخبار وکیل امرتسر نے جن الفاظ میں آپ کو خراج تحسین پیش کیا وہ یادگاری الفاظ ہمیشہ تاریخ میں محفوظ رہیں گے۔ اسلام پر عیسائیت کی یلغار کو اسلام کے اس فتح نصیب جرنیل نے کس طرح پلٹا۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے اخبار نے لکھا:-

”حملوں کی یہ حالت تھی کہ ساری مسیحی دنیا اسلام کی شمع عرفان حقیقی کو سر راہ منزل مزاحمت سمجھ کر مٹا دینا چاہتی تھی اور عقل و دولت کی زبردست طاقتیں اس حملہ آور کی پشت گیری کے لئے ٹوٹی پڑی تھیں اور دوسری طرف ضعف مدافعت کا یہ عالم تھا کہ توپوں کے مقابلہ پر تیر بھی نہ تھے اور حملہ اور مدافعت دونوں کا قطعی وجود ہی نہ تھا... مسلمانوں کی طرف سے وہ مدافعت شروع ہوئی جس کا ایک حصہ مرزا صاحب کو حاصل ہوا۔ اس مدافعت نے نہ صرف عیسائیت کے ابتدائی اثر کے پرچے اڑائے... بلکہ خود عیسائیت کا طلسم دھواں ہو کر اڑنے لگا.... غرض مرزا صاحب کی یہ خدمت آنے والی نسلوں کو گراں بار احسان رکھے گی کہ انہوں نے قلمی جہاد کرنے والوں کی پہلی صف میں شامل ہو کر اسلام کی طرف سے فرض مدافعت ادا کیا اور ایسا لٹریچر یادگار چھوڑا جو اس وقت تک کہ مسلمانوں کی رگوں میں زندہ خون رہے اور حمایت اسلام کا جذبہ ان کے شعائر قومی کا عنوان نظر آئے، قائم رہے گا۔“

(اخبار وکیل امرتسر ۳۰ مئی ۱۹۰۸ء)

### قلمی جہاد کی عظمت کے اعترافات

آپ کے قلمی جہاد میں اللہ تعالیٰ نے ایسی عظمت، شوکت اور جلالت شان عطا فرمائی ہے کہ جب آپ دنیا سے بائیل مرام رخصت ہوئے تو اس وقت غیروں نے آپ کو دل کھول کر جو خراج تحسین پیش کیا اس میں آپ کی علمی خدمات اور مخالفین اسلام کے رد میں آپ کے قلمی جہاد کا خاص طور پر ذکر کیا گیا۔ بطور نمونہ صرف دو اعترافات پیش کرتا ہوں۔

☆ مولانا ابوالکلام آزاد ایڈیٹر اخبار وکیل امرتسر نے آپ کو اسلام کا ایک فتح نصیب جرنیل قرار دیتے ہوئے لکھا:-

”شخص، بہت بڑا شخص، جس کا قلم سحر تھا اور زبان جادو۔ شخص جو دماغی عجائبات کا مجسمہ تھا۔ جس

کی نظر فتنہ اور آواز حشر تھی۔ جس کی انگلیوں سے انقلاب کے تار لکھے ہوئے تھے اور جس کی دو مٹھیاں بجلی کی دو بیڑیاں تھیں۔ وہ شخص جو مذہبی دنیا کے لئے تیس برس تک زلزلہ اور طوفان رہا۔ جو شور قیامت ہو کر خفقان خواب ہستی کو بیدار کرتا رہا... دنیا سے اٹھ گیا۔ مرزا صاحب کا لٹریچر جو مسیحیوں اور آریوں کے مقابلہ پر ان سے ظہور میں آیا۔ قبول عام کی سند حاصل کر چکا ہے اور اس خصوصیت میں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اس لٹریچر کی قدر و قیمت آج جبکہ وہ اپنا فرض پورا کر چکا ہے۔ ہمیں دل سے تسلیم کرنی پڑتی ہے... آئندہ امید نہیں کہ ہندوستان کی مذہبی دنیا میں اس شان کا شخص پیدا ہو۔“ (اخبار وکیل امرتسر ۳۰ مئی ۱۹۰۸ء) دہلی کے اخبار کرن گزٹ کے ایڈیٹر مرزا حیرت دہلوی نے لکھا:-

”مرحوم کی وہ اعلیٰ خدمات جو اس نے آریوں اور عیسائیوں کے مقابلہ میں اسلام کی کی ہیں وہ واقعی بہت ہی تعریف کی مستحق ہیں۔ اس نے مناظرہ کا بالکل رنگ ہی بدل دیا۔ اور ایک جدید لٹریچر کی بنیاد ہندوستان میں قائم کر دی۔ نہ بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے بلکہ ایک محقق ہونے کے ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ کہ کسی بڑے سے بڑے آریہ اور بڑے سے بڑے پادری کو یہ مجال نہ تھی کہ وہ مرحوم کے مقابلہ میں زبان کھول سکتا... اگرچہ مرحوم پنجابی تھا۔ مگر اس کے قلم میں اس قدر قوت تھی کہ آج سارے پنجاب بلکہ بلندی ہند میں بھی اس قوت کا کوئی لکھنے والا نہیں... اس کا پر زور لٹریچر اپنی شان میں بالکل زالا ہے۔ اور واقعی اس کی بعض عبارتیں پڑھنے سے ایک وجد کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔“

(کرن گزٹ۔ دہلی۔ یکم جون ۱۹۰۸ء)

کتی جرات اور دیانتداری تھی اس زمانہ کے اہل قلم حضرات میں کہ حق بات ان کے قلموں سے ظہور میں آئی اور تاریخ کے سینہ میں ہمیشہ کے لئے نقش ہو گئی۔ یہ بیانات واشگاف الفاظ میں اس حقیقت کا اعتراف کر رہے ہیں کہ حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے ایسا عظیم الشان قلمی جہاد فرمایا کہ غیر بھی اس کی تعریف میں رطب اللسان ہیں۔

وَالْفَضْلُ مَا شَهِدْتُ بِهِ الْآغْدَاءَ

### حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اپنی

کتب کے بارہ میں ارشادات ::

حضرت مسیح پاک علیہ السلام کی طبیعت میں غیر معمولی عجز و انکسار پایا جاتا تھا۔ ذاتی تفاخر اور بڑائی کے اظہار کا شائبہ تک آپ میں نہ تھا۔ اس پس منظر میں یہ بات لائق توجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو خدمت اسلام کے لئے ایک پر جوش دل عطا فرمایا، اسے علوم و معارف کی آماجگاہ بنایا۔ پھر آپ کو اپنی جناب سے اظہار بیان کا اچھوتا اسلوب سکھایا اور آپ کو تحریر کا بادشاہ قرار دیتے ہوئے سلطان القلم کے خطاب سے نوازا تو آپ نے کسی ذاتی تفاخر کے لئے نہیں بلکہ لوگوں کی بھلائی اور خیر خواہی کی

خاطر انہیں علوم و معارف کے اس عظیم خزانہ کی طرف بار بار متوجہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا :-

”وہ خزانے جو ہزاروں سال سے مدفون تھے اب میں دیتا ہوں اگر کوئی طے امیدوار ایک اور موقع پر فرمایا :-

”یہ رسائل جو لکھے گئے ہیں تائید الہی سے لکھے گئے ہیں۔ میں ان کا نام وحی اور الہام تو نہیں رکھتا مگر یہ تو ضرور کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی خاص اور خارق عادت تائید نے یہ رسالے میرے ہاتھ سے نکلوائے ہیں۔“

(مرآ الخلفاء۔ روحانی خزائن جلد ۸ صفحہ ۲۱۶)

ایک اور موقع پر فرمایا :-

”تحریر میں مجھے وہ طاقت دی گئی کہ گویا میں نہیں بلکہ فرشتے لکھتے جاتے ہیں۔ گو بظاہر میرے ہی ہاتھ ہیں۔“ (مجموعہ اشتہارات جلد سوم صفحہ ۱۶۱) اپنی تحریرات کی اس عظمت اور اعلیٰ مقام کی وجہ سے آپ نے بار بار تاکید فرمائی ہے کہ اس روحانی خزانہ سے بھرپور استفادہ کرنا چاہئے۔ آپ نے فرمایا: ”سب دوستوں کے واسطے ضروری ہے کہ ہماری کتب کو کم از کم ایک دفعہ ضرور پڑھ لیا کریں۔“

(ملفوظات جلد ہشتم صفحہ ۸)

اور ایک موقع پر فرمایا :-

”جو شخص ہماری کتابوں کو کم از کم تین دفعہ نہیں پڑھتا۔ اس میں ایک قسم کا کبر پایا جاتا ہے۔“ (سیرت المہدی حصہ سوم صفحہ ۸۷) پھر مزید تاکید کرتے ہوئے فرمایا :-

”وہ جو خدا کے مامور اور مرسل کی باتوں کو غور سے نہیں سنتا اور اس کی تحریروں کو غور سے نہیں پڑھتا اس نے بھی تکبر سے ایک حصہ لیا ہے۔ سو کوشش کرو کہ کوئی حصہ تکبر کا تم میں نہ ہوتا کہ ہلاک نہ ہو جاؤ اور تاتم اپنے اہل و عیال سمیت نجات پاؤ۔“

(نزول المسیح روحانی خزائن جلد ۱۸ صفحہ ۲۰۳)

حضرت مسیح پاک علیہ السلام کے یہ تاکیدی الفاظ ہر احمدی کو اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلانے کے لئے بہت کافی ثابت ہونے چاہئیں۔ ہم کتنے خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں کہ روحانی خزائن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں یہ آسمانی حربہ تھا دیا گیا ہے جو ہماری فتح کا ضامن ہے۔ مسیح محمدی کے مبارک قلم سے نکلی ہوئی توے کے قریب کتب کا خزانہ ہمیں عطا ہوا ہے جو روحانی معارف سے بھرپور ہے۔ یہ ایسی دولت ہے جس کے سامنے ہفت اقلیم کے خزانے بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ

آسمانی دودھ ہے جو مسیح پاک علیہ السلام نے اپنی کتب کی صورت میں ہمارے لئے محفوظ کر دیا ہے۔ ان کتب کی عظمت کے بارہ میں آپ نے خود فرمایا ہے :-

”جہاں تک میں دور بین نظر سے کام لیتا ہوں تمام دنیا اپنی سچائی کے تحت اقدام دیکھتا ہوں اور قریب ہے کہ میں ایک عظیم الشان فتح پاؤں۔ کیونکہ میری زبان کی تائید میں ایک اور زبان بول رہی ہے اور میرے ہاتھ کی تقویت کے لئے ایک اور ہاتھ چل رہا ہے جس کو دنیا نہیں دیکھتی مگر میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے اندر ایک آسمانی روح بول رہی ہے جو میرے لفظ لفظ اور حرف حرف کو زندگی بخشتی ہے۔“

(ازالہ ابہام روحانی خزائن جلد ۳ صفحہ ۲۰۳)

### ہمارا فرض

حضرت مسیح پاک علیہ السلام کے زندہ و پائندہ قلمی جہاد کا ایک مختصر خاکہ پیش کرنے کی توفیق ملی۔ یہ سارا بیان اس پہلو سے ناتمام ہے کہ مضمون کا احاطہ مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ آخر میں میں یہی عرض کروں گا کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو قلمی جہاد کا فریضہ بہترین رنگ میں سرانجام دے دیا اور اس کا حق صحیح معنوں میں ادا کر دیا۔ اب ہم خدام احمدیت کا فرض ہے کہ ہم قلمی جہاد کے اس علم کو کبھی سرنگوں نہ ہونے دیں۔ ہمارا فرض منصبی ہے کہ جو علمی شاہکار، روحانی خزائن کے طور پر آپ نے اپنی یادگار چھوڑے ہیں ہم ان زندگی بخش کلمات کو بار بار پڑھیں، اپنے دلوں کو ان شہ پاروں سے منور کریں، اپنے ذہنوں کو ان علمی نوادرات سے جلا عطا کریں۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم یہ آب زلال ساری دنیا میں پھیلائیں کہ یہ روحانی خزانہ ساری انسانیت کی مشترکہ دولت ہے اور سب کے لئے آب حیات کا حکم رکھتا ہے۔ اس خزانہ کا فیض لانا ہی ہے۔ اسے اقصائے عالم تک پہنچانا ہمارا فرض ہے۔ آج نسل انسانیت، امن و سلامتی اور حیات نو کی تلاشی ہے اور یہی ہے وہ پیغام جو اس کی بقا اور نجات کا ضامن ہے کیونکہ یہ قرآن مجید اور احادیث نبویہ پر مبنی ہے۔ پس آؤ کہ ہم اس دولت کو دنیا میں عام کر دیں۔ ملک ملک اور قریہ قریہ اس کو پھیلاتے چلے جائیں۔ خدا کرے کہ ہم اس فرض کو احسن رنگ میں ادا کرنے والے ہوں اور آخرت میں سرخروئی ہمارا مقدر بن جائے۔ آمین۔



☆ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ☆

اطع اَبَاكَ

☆ اپنے باپ کی اطاعت کر ☆

آٹو ٹریڈرز

Auto Traders

16 میگولین کلکتہ 700001

دکان: 248-5222'248-1652'243-0794

رہائش: 237-0471'237-8468

طالب دعا یکے از جماعت احمدیہ ممبئی



# اخبارات و رسائل کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نصائح

﴿مکرم مولانا محمد حمید کوثر صاحب استاذ جامعہ احمدیہ قادیان﴾

دنیا میں شائع ہونے والے کروڑوں اخبارات و رسائل مختلف موضوعات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ مثلاً سیاسی اخبارات، مذہبی، طبی، سائنسی اخبارات و رسائل وغیرہ۔ پھر ان میں سے ہر ایک کے مقاصد بھی الگ الگ ہیں۔ ان میں سے اکثر اخبارات و رسائل کی اشاعت کا مقصد تجارت اور مالی منفعت ہوتا ہے۔ وہ اپنے اخبارات و رسائل میں ایسے مضامین و خبریں شائع کرتے ہیں جو کہ پبلک و عوام کے مزاج و مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ اخبار والوں کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ وہ خبر کس حد تک سچی ہے اور کس حد تک جھوٹی اور بناوٹی۔

بعض اخبارات و رسائل کا مقصد اپنے خیالات دوسروں تک پہنچانا ہوتا ہے اور دوسروں کو ان کے عقائد و خیالات سے برکشتہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کیلئے وہ جھوٹ اور کذب بیانی کے بھرپور استعمال سے بھی گریز نہیں کرتے۔ چنانچہ دوسری جنگ عظیم میں جرمنوں کا وزیر پروپیگنڈا گوٹلبرگ جھوٹے پروپیگنڈے میں اپنی نظیر آپ تھا۔ اس کا نظریہ تھا کہ خوب جھوٹ بولو اور اس جھوٹ کو پورے زور کے ساتھ بار بار بولو تاکہ لوگ جھوٹ کو ہی سچ سمجھنے لگیں۔ موجودہ دور میں اخبارات و رسائل کی اکثریت کا دار و مدار جھوٹ پر ہے اس کے ذریعہ وہ عوام میں اپنے اخبار کو مقبول بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔

سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی بہت سے مسلمان کہلانے والے علماء اور مذہبی لیڈر گوٹلبرگ سے بھی کہیں زیادہ جھوٹ بولنے اور لکھنے کے عادی تھے۔ اور انہی علماء کے بارے میں سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خبردار کیا تھا کہ عَلَمَاؤُهُمْ شَرُّ مَنْ تَحْتَ اَدْنِيمِ السَّمَاوِ اس زمانے میں ان کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا:-

تَكُونُ فِي اُمَّتِي فِرْعَوْنٌ فَيَسْبِرُ النَّاسَ اِلَى عَلَمَانِهِمْ فَاِذَا هُمْ فِرْدَوْهٌ وَخَنَازِيرٌ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک زمانہ اضطراب اور انتشار کا آئے گا لوگ اپنے علماء کے پاس راہنمائی کی امید سے جائیں گے تو وہ انہیں بندروں اور سوروں کی مانند پائیں گے۔

موجودہ دور میں مسلمانوں کے اکثر علماء پر یہ حدیث صادق آتی ہے۔ جھوٹ بولنا غلط بیانی ان کی عادت بن چکا ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے مخالفین کی اس قبیح عادت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

”ہمارے ظالم طبع مخالفوں نے طرح طرح کے افتراءوں سے کام لیا ہے۔ اور اس قدر جھوٹ کی نجاست کھائی ہے کہ کوئی نجاست خور جانور اس کا

مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ ہمیں تعجب ہے کہ کہاں تک ان لوگوں کی نوبت پہنچ گئی کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے اور سمجھتے ہوئے نہیں سمجھتے“

(نزول المسیح صفحہ 9 روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 387)

اپریل 1902 میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک کتاب بنام ”دافع البلاء و معیار اهل الاصطفاء“ شائع فرمائی۔ اس زمانے میں طاعون پنجاب میں شدید تباہی و ہلاکت پھیل رہی تھی ہر کوئی خوفزدہ تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی اس کتاب میں یہ پیشگوئی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ قادیان کو طاعون جارف سے محفوظ رکھے گا۔ چنانچہ آپ تحریر فرماتے ہیں:-

”طاعون کی قسموں میں سے وہ طاعون سخت بربادی بخش ہے جس کا نام طاعون جارف ہے۔ یعنی جھاڑو دینے والی جس سے لوگ جا بجا بھاگتے اور کتوں کی طرح مرتے ہیں یہ حالت انسانی برداشت سے بڑھ جاتی ہے پس اس کلام الہی میں یہ وعدہ ہے کہ یہ حالت کبھی قادیان پر وارد نہیں ہوگی“

(روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 225)

یہ پیشگوئی انتہائی صفائی اور عظیم شان کے ساتھ پوری ہوئی اسی عرصہ میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کی جماعت میں شامل ہونے والوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا۔ اس پیشگوئی کے پورا ہونے نے دشمنوں اور حاسدوں کے سینوں میں غیظ و غضب کی آگ بھڑکا دی۔ انہوں نے ہر طرح کی کوششیں کیں کہ اس پیشگوئی کے پورا ہونے کو کسی طرح مشتبہ بنا دیا جائے۔ چنانچہ اخبار پیسہ اور دوسری اخبارات کے ایڈیٹروں نے یہ شائع کیا کہ مرزا صاحب نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ قادیان کے نزدیک طاعون نہیں آئے گی اور ایک کیس نہیں ہوگا حالانکہ قادیان میں سات کیس ہو چکے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اخبار پیسہ کے جھوٹ کا جواب دیتے ہوئے تحریر فرمایا:

**اول:** ”ایسی تحریریں جو محض جھوٹ اور افتراء ہیں یعنی ایسے لوگوں کی نسبت خواہ مخواہ جھوٹی خبریں موت کی شائع کی گئیں جو اب تک زندہ موجود ہیں۔ نہ بیمار ہوئے نہ ان کو طاعون ہوئی۔ یہ اول درجہ کا جھوٹ ہے جس کے ارتکاب سے پیسہ اخبار نے بے ایمانی کا بڑا حصہ لیا“ (نزول المسیح صفحہ 12)

**دوم:** دوسرا طریق افتراء کا جو پیسہ اخبار نے اختیار کیا ہے وہ یہ کہ صرف فرضی نام لکھ کر ظاہر کرتا ہے کہ یہ لوگ قادیان میں طاعون سے مرے ہیں حالانکہ ان ناموں کا کوئی انسان قادیان میں نہیں مرا“ (نزول المسیح صفحہ 15)

**سوم:** تیسرا طریق افتراء کا جو پیسہ اخبار نے

اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ بعض آدمی فی الحقیقت مرے تو ہیں مگر وہ کسی اور حادثہ سے مرے ہیں نہ طاعون سے، اور اس نے محض چالاک اور شرارت سے طاعون کی اموات میں داخل کر دیا“ (ایضاً)

بظاہر تو یہ باتیں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اخبار پیسہ کو مخاطب کر کے تحریر فرمائیں لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ تین طریق ہیں جو اکثر صحافی اپنے اخبارات کی شہرت اور فروخت کے لئے اختیار کرتے ہیں۔ اول تو خبر ہی بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ہوگی۔ یا فرضی نام و واقعات کے ذریعہ سچائی کا خون کیا جائے گا۔ تیسرا یہ کہ حادثے اور واقعہ کی شکل و صورت مسخ کر کے اپنے مفاد و مرضی کے مطابق ڈھال لیا جاتا ہے۔ ایسے تکلیف دہ اور افسوسناک حالات میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اخبار کے ایڈیٹروں اور صحافیوں کو نصیحت کرتے ہوئے تحریر فرمایا:-

”ایڈیٹروں کا فرض ہونا چاہئے کہ وہ سچائی کو دنیا میں پھیلا دیں نہ جھوٹ کو۔ اس لئے ہم بار بار کہتے ہیں کہ ایسے گندے اور ناپاک اخبار دینا کو بجائے فائدہ کے نقصان پہنچاتے ہیں اور جھوٹ جو ایک نہایت پلید اور ناپاک چیز ہے اس کو دنیا میں رائج کرتے ہیں“

(نزول المسیح صفحہ 16 روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 392)

”اب ہم نصیحتا کہتے ہیں کہ آئندہ پیسہ اخبار ایسے افتراءوں اور قابل شرم جھوٹوں سے باز آجائے ورنہ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ جھوٹ ہمیشہ ہضم ہو سکیں اور افسوس کہ بعض امرتسر کے سلفہ طبع بھی اپنے اشتہاروں میں پیسہ اخبار کے نقش قدم پر چلے ہیں“

کیا اخبار کا یہی فرض ہوتا ہے کہ ہر ایک روایت بغیر تفتیش اور تنقید کے شائع کر دی جائے ہمیں تو کچھ انگریزی قانون کا حال معلوم نہیں اگر گورنمنٹ نے اپنے قانون میں اخبار نویسوں کو یہ اجازت دے رکھی ہے کہ ایسے بے اصل جھوٹ جن سے دلوں کو آزار اور صدمہ پہنچتا ہے بے دھڑک شائع کر دیا کریں تو کوئی چوں و چرا کی جگہ نہیں ورنہ گورنمنٹ پبلک پر احسان کرے گی اگر ایسے گندے اور ناپاک اور دلآزار جھوٹوں کے شائع کرنے کی وجہ سے پیسہ اخبار سے باز پرس کرے“ (نزول المسیح صفحہ 16)

اگر گورنمنٹ کو اس ہماری تحریر میں شبہ ہو تو اپنے کسی افسر کو قادیان میں بھیج کر تحقیق اور تفتیش کر لیں کہ کیا یہ تحریر واقعی ہے یا غیر واقعی“

(نزول المسیح صفحہ 16)

مذکورہ بالا چار اقتباسات سے صحافتی دنیا اور عوام الناس کے لئے جو راہنما اصول سامنے آتے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔

(1) ایڈیٹروں، صحافیوں، نامہ نگاروں اور اصحاب القلم و القلم والقرطاس کا یہ فرض اول اور پہلا مقصد

ہونا چاہئے کہ اپنے قلم کے ذریعہ سچائی اور حقیقت کو دنیا میں پھیلائیں۔ اس بات سے قطع نظر کہ اس سچائی کے لکھنے اور شائع کرنے سے ان کی اخبار پر اس کا کیا اثر پڑے گا۔

(2) جھوٹی خبریں فرضی اور من گھڑت رپورٹیں و تحریریں ہرگز اپنے اخبارات و رسائل میں شائع نہ کریں اس سے عوام و قارئین کو سخت نقصان پہنچے گا۔ خاص طور پر قوم کی اگلی نسل اور بچے جھوٹ بولنے اور لکھنے کے عادی ہو جائیں گے۔

(3) ہر صحافی اور نامہ نگار کو یہ بات ابھی طرح سمجھ لینی چاہئے کہ اسے جھوٹ زیادہ دن ہضم نہ ہو سکے گا اور آہستہ آہستہ اس صحافی اور نامہ نگار کے بارے میں عوام یہ تاثر لے لیں گے کہ یہ انتہائی جھوٹا اور دروغ گو انسان ہے اس اخبار کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔

(4) موجودہ دور میں اکثر اخبارات، اشتہارات اور اعلانات کی آمد پر چلتے ہیں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ان کو بھی یہی نصیحت ہے کہ حقیقت پر مبنی اشتہارات شائع کریں۔

(5) ایڈیٹروں صحافیوں کو جو رپورٹیں و خبریں جھوٹی جائیں انہیں چاہئے اس کی تحقیق و تفتیش کر لیا کریں ورنہ ان کے اخبار کا معیار گر جائے گا اور لوگ اس پر اعتبار کرنا چھوڑ دیں گے۔

(6) ہر حکومت کو چاہئے کہ ایسا ادارہ قائم کرے جو غلط اور بے بنیاد خبریں شائع کرنے والے کو سزا دیں۔

(7) آزادی صحافت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بے بنیاد اور جھوٹی خبریں شائع کر کے عوام میں ایک ہیجان پیدا کر دیا جائے یا کسی شخصیت کی عزت کو خاک میں ملادیا جائے یا امن عام کو ختم کر دیا جائے۔

(8) عوام اور قارئین کو اتنا ہاشور ہونا چاہئے کہ اگر کوئی غلط اور بے بنیاد خبر شائع ہو تو وہ حکومت کے ادارے کو لکھیں اور وہ ادارہ اس کی تحقیق کروائے اور اگر غلطی ثابت ہو تو صحافی اور اخبار والے کو سزا دی جائے

اگر ان اصولوں پر عمل کیا جائے تو دنیا میں سچائی اور حقیقت ترقی کرے گی جس کے نتیجے میں حقیقی علم دنیا میں پھیلے گا۔ جس کو بنیاد بنا کر اصلاح اور ترقی کے منصوبے اور پروگرام بنائے جاسکیں گے۔

سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی جماعت کے صحافیوں اور مصنفین کو یہاں تک نصیحت فرماتے تھے کہ مخالف کو لازمی جواب دے کر اس کو منہ بند نہ کروانا چاہئے۔ اس ضمن میں ایک واقعہ درج ذیل ہے۔

1885ء میں جب سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نشان نمائی کی دعوت کا اشتہار شائع فرمایا۔ اس وقت حضرت مولانا نور الدین صاحب بھروی رضی اللہ عنہ (جو 1908 میں خلیفۃ المسیح الاول منتخب ہوئے) ریاست جموں کے شاہی طبیب کی حیثیت سے جموں میں مقیم تھے یہیں آپ کو یہ اشتہار ملا اور آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زیارت کے لئے جموں



## جس سے ہے ناطہ بیعت اس سے عشق کرتے ہیں، وفا کرتے ہیں

ہم	گدا	جب	بھی	صدا	کرتے	ہیں
در	افلاک	کھلا	کرتے	ہیں	ہیں	ہیں
جس	سے	ہے	ناطہ	بیعت	اس	سے
عشق	کرتے	ہیں	وفا	کرتے	ہیں	ہیں
ہم	گلے	پہن	کے	طوق	طاعت	ہیں
پا	یہ	زنجیر	چلا	کرتے	ہیں	ہیں
آل	احمد	سے	محبت	کرتے	ہیں	ہیں
رسم	اجداد	ادا	کرتے	ہیں	ہیں	ہیں
ہم	میں	وہ	جذب	جنوں	ہے	جس
سنگ	دشام	پڑا	کرتے	ہیں	ہیں	ہیں
زخ	عاصی	کے	وضو	کی	خاطر	ہیں
اشک	آنکھوں	سے	ڈھلا	کرتے	ہیں	ہیں
پھر	جلا	کر	تیری	یادوں	کے	چراغ
دل	کے	آنگن	میں	ضیاء	کرتے	ہیں
اک	تمنا	لئے	عمر	خضر	کی	دل
ہم	ترے	حق	میں	دعا	کرتے	ہیں

﴿مبارک احمد ظفر لندن﴾

”اگر میں دن میں جو دسمبر 1902 کی دسویں کے دن کی شام تک ختم ہو جائے گی انہوں نے اس قصیدہ اور اردو مضمون کا جواب چھاپ کر شائع کر دیا تو یوں سمجھو کہ میں نیست و نابود ہو گیا اور میرا سلسلہ باطل ہو گیا۔ اس صورت میں میری تمام جماعت کو چاہئے کہ مجھے چھوڑ دیں اور قس قس تعلق کریں“

ثناء اللہ امرتسری یا اس کا کوئی ہمنوا اس کا جواب نہ لکھ سکا۔ یہ ہے سچائی اور حقیقت پر مبنی صحافت اور مضمون نگاری جس کو تا سید ربانی حاصل تھی۔ حقیقت یہی ہے کہ سچائی اپنے آپ کو خود منوالیتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ آج صحافتی دنیا میں جھوٹ دھوکے بازی، مبالغہ، تضییع، ریا کاری کا دور دورہ ہے لیکن سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے صحافتی دنیا کو سچائی اختیار کرنے کا پیغام دیا۔ سچ لکھنے اور صدق پھیلانے کا راستہ دکھایا۔ صداقت اور حقیقت عقلموں کو نور بخشی ہے اور قارئین کو نئی راہیں تلاش کرنے میں مدد دیتی ہے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے قلم کاروں، صحافیوں کو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حق و سچ اور حقیقت پر مبنی راہنما اصولوں اور سنہری تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور یہی اکیسویں صدی کی صحافت کا تقاضا ہے۔ آمین۔



یہ قصیدہ ”مد“ کے مناظرے کے واقعات پر مشتمل تھا اس لئے اس کا زمانہ محدود معین تھا اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ قصیدہ دو سال پہلے لکھ کر رکھا ہوا تھا بلکہ یہ قصیدہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مع ترجمہ صرف پانچ دن میں تحریر فرمایا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ثناء اللہ امرتسری کو یہ عربی قصیدہ بھجواتے ہوئے تحریر فرمایا:

”اگر وہ اسی میعاد میں یعنی پانچ دن میں ایسا قصیدہ معاد اسی قدر اردو مضمون کے جواب کے جو وہ بھی ایک نشان ہے بنا کر شائع کر دیں تو میں بلا توقف دس ہزار روپیہ ان کو دیدوں گا۔ چھپوانے کے لئے ایک ہفتہ کی ان کو مہلت دیتا ہوں۔ یہ کل بارہ دن ہیں اور دو دن ڈاک کے بھی ان کا حق ہے“

”دیکھو میں آسمان اور زمین کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں کہ آج کی تاریخ سے اس نشان پر حصر رکھتا ہوں۔ اگر میں صادق ہوں اور خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ میں صادق ہوں تو کبھی ممکن نہیں ہوگا کہ مولوی ثناء اللہ اور ان کے تمام مولوی پانچ دن میں ایسا قصیدہ بنا سکیں اور اردو مضمون کا رد لکھ سکیں۔ کیونکہ خدا تعالیٰ ان کی قلموں کو توڑ دے گا اور ان کے دلوں کو غمی کر دے گا“

(عجاز احمدی صفحہ 36-37)

اس انعامی چیلنج کے علاوہ حضور نے دس ہزار روپیہ کا ایک الگ انعامی اشتہار بھی دیا جس میں اصل میعاد سے چھ دن کی مزید توسیع کا یہ اعلان فرمایا کہ:-

سامنے یہ تجویز رکھی کہ ہم دونوں 70 دن کے اندر اندر اپنی اپنی جگہ فصیح و بلیغ عربی زبان میں سورہ فاتحہ کی تفسیر شائع کریں۔ اور اگر تین غیر جانبدار علماء و ادیب و اہل زبان یہ فیصلہ دیں کہ پیر صاحب کی تفسیر فصاحت و معارف کے اعتبار سے زیادہ بہتر اور اعلیٰ ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پیر صاحب کو پانچ صد روپے انعام دیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیر صاحب کو عربی علماء سے تفسیر لکھنے کے سلسلہ میں مدد لینے کی بھی اجازت مرحمت فرمائی نیز یہ بھی تحریر فرمایا کہ اگر فریقین میں سے کوئی 15 دسمبر 1900 سے لیکر 25 فروری 1901 تک تفسیر لکھ کر شائع نہ کر سکا تو وہ جھوٹا اور کاذب قرار پائے گا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 23 فروری 1901 کو اعجاز اسحق کے نام سے فصیح و بلیغ عربی میں سورہ فاتحہ کی تفسیر شائع فرمادی اور پیر مہر علی شاہ نے اس اشتہار کے جواب میں کسی قسم کی تفسیر شائع نہ کی اور اپنے کذب پر مہر ثبت کر دی۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کتاب ”اعجاز اسحق“ کی چند کاپیاں عرب ممالک کے بعض اخبارات کو بھجوائیں۔ قاہرہ کے مشہور اخبار ”مناظر“ اور ”ہلال“ نے اس کی فصاحت و بلاغت کی تعریف کی اور اول الذکر اخبار نے تو یہاں تک لکھا کہ بلاشبہ اس کتاب کی فصاحت و بلاغت معجزے کی حد تک پہنچ گئی ہے اور علماء ہرگز اس کے مقابل پر تفسیر لکھنے پر قادر نہیں ہو سکیں گے۔

اس واضح فتح و کامیابی کو معاند احمدیت ثناء اللہ امرتسری نے اس طرح مشتبہ اور بے اثر بنانے کی کوشش کی کہ 29 اور 30 اکتوبر 1902 کو بمقام ”مد“ ہونے والے مباحثہ میں انہوں نے اعلان کیا کہ ”اعجاز اسحق“ جیسی تفسیر میں بھی لکھ سکتا ہوں۔ یہ تفسیر دو سال میں لکھی گئی ہے مجھے بھی دو سال کا وقت چاہئے۔

علمی اور صحافتی و ادبی دنیا میں ایسی بہت کم مثالیں ملیں گی جن میں واضح اور اظہر من الشمس حقیقت پر پردہ ڈالنے کی مذموم کوششیں ثناء اللہ امرتسری کی طرح کی گئی ہوں۔ مقصد یہ تھا کہ عوام الناس کی نظر میں اس تفسیر کی اہمیت ختم ہو جائے یا کم ہو جائے اور وہ اس سے استفادہ نہ کر سکیں۔

ایسی صورت حال کی اصلاح کے لئے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اصحاب القلم اور صحافیوں کے لئے جو اصول اپنے طریق کار اور طرز عمل سے پیش کیا اس نے حقیقت پر عناد و تعصب کے پردے ڈالنے کی کوششوں کو کلیتہً ناکام بنا دیا۔

جیسا کہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ مورخہ 29 اور 30 اکتوبر 1902 کو بمقام ”مد“ میں مباحثہ ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مباحثے کے واقعات پر مشتمل اور اپنی صداقت کے دلائل پر مبنی ایک معرکہ الآراء عربی قصیدہ مع اردو ترجمہ 15 نومبر 1902 کو ساڑھے تین ہزار کی تعداد میں طبع کروایا اور اگلے روز مولوی ثناء اللہ امرتسری کو اس کی کاپیاں بھجوائیں کیونکہ

سے قادیان تشریف لائے۔ قادیان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک دفعہ مولانا نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کی راہ میں مجاہدہ کیا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جواب فرمایا:-

مجاہدہ یہی ہے کہ عیسائیوں کے مقابل پر ایک کتاب لکھو۔ آپ نے عرض کیا کہ بعض سوال اس قسم کے ہوتے ہیں جن میں الزامی جواب ہی دشمن کو خاموش کرتا ہے لہذا اگر ان کے بعض اعتراضات میں صرف الزامی جواب دیا جائے تو کیا آپ اس طریق کو پسند فرمائیں گے۔ فرمایا بڑی ہی بے انصافی ہوگی اگر ایک بات جسے انسان خود نہیں مانتا دوسرے کو منوانے کے واسطے تیار ہو۔ ہاں اگر کوئی ایسا مشکل سوال آپ کی راہ میں آجائے جس کا جواب ہرگز آپ کی سمجھ میں نہ آسکے تو مناسب طریق یہ ہے کہ آپ یہ سوال نہایت خوشخط اور جلی قلم سے لکھ کر اپنی نشست گاہ کے سامنے جہاں ہمیشہ نظر پڑتی رہے لٹکا دیا کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ پر فضل سے فیضان نازل فرمائے اور یہ عقدہ حل ہو جائے۔

حضرت مولانا فرماتے تھے اس طریق دعا کا میں پہلے ہی قائل تھا کہ مجھے اس کی مضبوط چٹان پر حضرت اقدس نے کھڑا کر دیا۔

(تاریخ احمدیت جلد دوم صفحہ 24)

یہ صحافت اور مضمون نگاری کا نہایت اعلیٰ درجہ کا اصول ہے کہ اگر کسی کے جواب میں مضمون لکھا جائے تو مخالف کو اس رنگ میں بھجوی اور الزامی جواب نہ دیا جائے جس سے اس کی زبان تو بند ہو جائے مگر اس کا دل و دماغ مطمئن نہ ہو۔

سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے اسوہ طیبہ و مبارک طرز تحریر و بیان سے ایک بات اور سمجھائی کہ اگر کوئی صحافی یا مصنف کوئی اچھی بات یا مفید مضمون لکھتا ہے تو اس سے خود بھی فائدہ اٹھانا چاہئے اور اپنے زیر اثر اصحاب و دوستوں کو بھی اس سے استفادہ کی تلقین کرنی چاہئے مگر انفس کو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں بعض علماء کا یہ رویہ بن گیا تھا کہ جو کچھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام افادہ عوام کے لئے تحریر فرماتے وہ اس کو مشتبہ بنانے کی کوششیں کرتے وہ اپنی پوری طاقت اس میں صرف کر دیتے کہ عوام کسی طرح حضرت اقدس کے مضمون سے استفادہ نہ کر سکیں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے طرز تحریر سے ہمیں سکھایا کہ اگر کسی سچی بات کے لکھنے پر کوئی مخالف اس کو مشتبہ بنانے کی کوششیں کرے تو اس کو جواب دینے کے لئے ایسا ٹھوس اور مدلل طریق و اسلوب اختیار کرنا چاہئے جس سے اس کی سابقہ مضمون کو مشتبہ بنانے کی کوششیں ناکام ہو جائیں چنانچہ اس کی مثال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سے کچھ اس طرح ملتی ہے۔

حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے 15 دسمبر 1900 کو بذریعہ اشتہار پیر مہر علی شاہ گولڑی کے

# KASHMIR JEWELLERS

## کشمیر جیولرز

Mrs & Suppliers of  
**GOLD & DIAMOND JEWELLERY**

چاندی و سونے کی انگوٹھیاں  
خاص احمدی احباب کیلئے

**Main Bazar Qadian (Pb.)**

Ph. (S) 01872-21672 (R) 20260 Fax. 20063  
E-mail. kashmirsons@yahoo.com



# صحافت سے متعلق حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایات و ارشادات

## اور آپ کے دور میں شائع ہونے والے اخبارات و رسائل

مکرم مولانا برہان احمد ظفر صاحب ناظر نشر و اشاعت قادیان

### قرآن

کریم میں خدا تعالیٰ نے آخری زمانہ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کے زمانہ کی جہاں بہت سی نشانیاں بیان کی ہیں۔ اُن میں سے ایک یہ بھی بیان فرمائی ہے واذالصحف بنشرت یعنی آخری زمانہ میں کثرت سے صحیفے شائع ہونگے۔ آج قرآن کریم کی اس پیشگوئی کو پورا ہوتے ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔

جس زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ فرمایا اور آپ مخالفین اسلام پر دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت ثابت کر رہے تھے۔ اس زمانہ میں آپ خود ہی لکھتے اور شائع کروانے کے لئے امر تر یا دوسرے شہروں کی طرف جاتے۔ پروف ریڈنگ بھی خود ہی فرمایا کرتے تھے۔ جہاں باقی دنیا میں اشاعت اور صحافت کی اپنی ایک دوڑ جاری تھی وہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی اخبارات و اشتہارات کے ذریعہ خدائی دعوت میں مصروف تھے۔ لیکن فرق یہ تھا کہ آپ کا اپنا تھوڑا سا پریس تھا۔ اور نہ ہی کوئی اخبار۔ پھر وہ زمانہ بھی جلد ہی آ گیا کہ شمع محمدی کہ پروانے آہستہ آہستہ اس شمع کے گرد جمع ہونے شروع ہوئے جو قادیان کی ایک چھوٹی سی بستی میں روشن ہوئی تھی۔

خدا تعالیٰ نے چند سالوں کے اندر اندر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس بستی میں بھی ایسا نظام جاری فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی صحبت کے فیض سے یہاں بھی صحافت کے چمکتے ستارے نمودار ہوئے۔ جنہوں نے دنیا میں ایک جدید صحافت کی بنیاد ڈالی۔ اشاعت کتب، اخبارات و رسائل کے آلات اس بستی میں قائم ہوئے۔ وہ لوگ جن کو حضور علیہ السلام نے یہ خدمت سپرد کی چند سالوں میں فن صحافت کے استاد بن گئے۔ پھر کیا تھا قادیان کی چھوٹی سی بستی دیکھتے ہی دیکھتے صحافت کا مرکز بن گئی۔ کئی اخبارات و رسائل یہاں سے شائع ہونے شروع ہوئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں اسلام پر جہاں عیسائی حملہ آور تھے وہاں آریہ سماج اور برہمن سماج والے بھی اسلام پر شدید حملے کر رہے تھے۔ یہ حملے جہاں کتابوں کی کثیر اشاعت کے ذریعہ ہو رہے تھے وہاں مختلف اخبارات و رسائل بھی اس کام میں اُن کے مدد و معاون بنے ہوئے تھے۔ ایسے موقع پر لازم تھا کہ اُن کا جواب بھی اشاعت کتب اور اخبارات و رسائل کے ذریعہ دیا جاتا۔ اسی بات کے مد نظر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں ہی جماعت احمدیہ کے ذریعہ جہاں اسلام کے حق میں اور مخالفین کے اعتراضات کے جواب میں بہت سی کتب شائع ہوئیں وہاں مختلف اخبارات کا

بھی اجراء ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں پھر حضرت خلیفۃ المسیح الاولؒ کے زمانہ میں بھی بعض اخبارات جاری تھے اُن کے ہوتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح الثانیؒ نے ایک نئے اخبار کی اشاعت کی ضرورت سمجھی۔ جیسے جیسے جماعت کی ترقی ہوتی گئی ویسے ویسے اس کی ضرورت کا احساس ہوتا گیا۔ تاکہ جماعت میں ہزاروں اور لاکھوں مخلص تعلیم یافتہ پیدا ہوں اور ساری دنیا میں ہونے والی علمی ترقی سے لوگ استفادہ کریں اور علم میں دوسروں سے فائق اور لائق ہوں۔ اس طرح وہ رسومات جو تعلیم کے بگاڑ کے نتیجہ میں لوگوں میں شامل ہو جاتی ہیں اُن کی اسلامی تعلیم کی روشنی سے اصلاح کی جائے اور بدعات و بد رسومات سے بچا جاسکے۔

اسی طرح وہ قومیں جو اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد نہیں رکھتیں وہ ترقی نہیں کر سکتیں اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ اخبارات کے ذریعہ اُن کی قربانیوں کا تذکرہ کیا جائے تاکہ اُن واقعات کو پڑھنے والے ایک نئے جذبہ جوش کو اپنے اندر محسوس کرتے ہوئے اُن قربانیوں کو زندہ رکھیں۔

افراد جماعت کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں وہ دینی میدان میں علم حاصل کریں وہاں دُنیا کے حالات سے بھی آگاہ ہوں اس کے لئے بھی اخبارات ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس طرح اخبارات و رسائل ہی وہ ذریعہ ہیں جن سے جماعتی ترقی کے سلسلہ میں لوگوں کو آگاہ کیا جاسکتا ہے۔ دشمنان اسلام کو اُن کے اعتراضات کے دندان شکن جواب دینے کا کردار بھی اخبارات ہی ادا کرتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانیؒ نے ۱۹۱۳ء میں ہی ان تمام وجوہ کی بنا پر ایک نئے اخبار کے جاری کرنے کی ضرورت کو محسوس فرمایا تھا۔ اس تجویز کو حضرت خلیفۃ المسیح الاولؒ نے نہ صرف منظور فرمایا بلکہ آپ نے تحریر فرمایا:

”ہفتہ وار پبلک اخبار کا ہونا بہت ہی ضروری ہے جس قدر اخبار میں دلچسپی بڑھسکی خریدار خود بخود پیدا ہونگے۔ ہاں تائید الہی حُسن نیت اخلاص اور ثواب کی ضرورت ہے۔ زمیندار، ہندوستان، پیسہ میں اور کیا اعجاز ہے وہاں تو صرف دلچسپی ہے اور یہاں ذمہ داری الہیہ کی امید بلکہ یقین تو کلاً علی اللہ کام شروع کریں۔“

(ضمیمہ اخبار بدر ۵ جون ۱۹۱۳ء صفحہ ۱۹) اس پر حضرت ہرزہ بشیر الدین محمود احمدؒ (جو ۱۹۱۳ء میں خلافت کی مسند پر متمکن ہوئے) نے افضل کے نام سے ایک نئے اخبار کا اجراء فرمایا۔ آپ نے اس اخبار کو جب جاری فرمایا تو لکھا:

بھروسہ رکھتے ہوئے اس سے نصرت و توفیق چاہتے ہوئے میں افضل جاری کرتا ہوں۔ اپنے ایک مقتدا اور راہنما اپنے مولا کے پیارے بندے کی طرح اس بحر نایب اکبار میں افضل کی کشتی کے چلانے کے وقت اللہ تعالیٰ کے حضور بصد عجز و انکسار یہ دُعا کرتا ہوں کہ بسم اللہ مجریہا و مُرسنہا ان ربی لغفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اور اس کی برکت سے اس کا چلنا اور لنگر ڈالنا ہو۔ تحقیق میرا رب بڑا بخشنے والا اور رحیم ہے۔ اے میرے قادر مطلق خدا، اے میرے طاقتور بادشاہ، اے میرے رحمان، رحیم مالک

اے میرے رب، میرے مولا، میرے ہادی، میرے رازق، میرے حافظ، میرے ستار، میرے بخشہار، ہاں اے میرے شہنشاہ جس کے ہاتھوں میں زمین و آسمان کی کنجیاں ہیں۔ اور جس کے اذن کے بغیر ایک ذرہ اور ایک پتہ نہیں ہل سکتا جو سب نفعوں اور نقصانوں کا مالک ہے۔ جس کے ہاتھ میں سب چھوٹوں اور بڑوں کی پیشانیاں ہیں۔ جو پیدا کرنے والا اور مارنے والا ہے۔ جو مار کر پھر جلائے گا اور ذرہ ذرہ کا حساب لے گا۔ جو ایک ذلیل بوند سے انسان کو پیدا کرتا ہے۔ جو ایک چھوٹے سے بیج سے بڑے بڑے درخت اگاتا ہے۔ ہاں اے میرے دلدار میرے محبوب خدا تو دلوں کا واقف ہے۔ اور میری نیوتوں اور ارادوں کو جانتا ہے۔ میرے پوشیدہ رازوں سے واقف ہے۔ میرے حقیقی مالک۔ میرے سخی اور تجھے علم ہے کہ محض تیری رضا حاصل کرنے کے لئے اور تیرے دین کی خدمت کے ارادہ سے یہ کام میں نے شروع کیا ہے۔ تیرے پاک رسول کے نام کے بلند کرنے اور تیرے مامور کی سچائیوں کو دُنیا پر ظاہر کرنے کے لئے یہ ہمت میں نے کی ہے۔ تو میرے ارادوں کا واقف ہے۔ میری پوشیدہ باتوں کا راز دار ہے۔ میں تجھی سے اور تیرے ہی پیارے چہرے کا واسطہ دے کر نصرت و مدد کا امیدوار ہوں۔ (روزنامہ افضل مورخہ ۲۸ دسمبر ۱۹۳۹ء ص 77 کالم 2-1) حضرت خلیفۃ المسیح الثانیؒ کے اس اقتباس سے ہی آپ کے جذبہ خدمت دین کی عکاسی ہوتی ہے کہ اخبارات کے ذریعہ آپ کس طرح کی خدمت دین کی اترپ رکھتے تھے۔ آپ ہمیشہ ہی نوجوان نسل کو صحافت کی اہمیت بتاتے رہے۔ اور اُن کو اس راہ پر قدم رکھنے کی طرف توجہ دلاتے رہے۔ انجمن اشاعت اسلام لاہور نے جب جماعت احمدیہ قادیان کے عقائد اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات و عقائد کو بدل کر اور بگاڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کیا تو اس کے بالمقابل آپ نے نوجوانوں کو ایک رسالہ

جاری کرنے کی طرف توجہ دلائی وہ رسالہ جب ”فرقان“ کے نام سے جاری ہوا تو آپ نے فرمایا۔ ”میری تحریک پر بعض نوجوانوں نے لاہور کی انجمن احمدیہ اشاعت اسلام کی طرف سے جو ہماری نسبت اور سلسلہ احمدیہ جس کا مرکز قادیان ہے کے عقائد کی نسبت بدظلیاں پھیلاتے ہیں اُن کا جواب دینے کے لئے ایک ماہواری رسالہ کا اجراء کیا ہے۔ میں اس رسالہ کی پہلی اشاعت کے لئے یہ سطور بطور تعارف لکھ کر دے رہا ہوں اور صرف اس قدر کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی نیوتوں کو نیک کر کے کام کرو۔ کبر، ریا اور نخوت سے آزاد ہو کر کام کرو۔ خدا تعالیٰ پر توکل کر کے کام کرو۔ اس صورت میں خدا تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تم اس جنگ سے فاتح لوگوں گے۔ خدا تعالیٰ تمہاری مدد کرے۔

والسلام خاکسار مرزا محمود احمد (22 فرغ 1320 ہش 22 دسمبر 1941ء) (فرقان جلد نمبر 1 صفحہ 1) حضرت خلیفۃ المسیح الثانیؒ جہاں نوجوانوں کو صحافت میں داخل ہو کر دین۔ ملک و قوم کی خدمت کرنے کی طرف توجہ دلاتے تھے وہاں انہیں ہمیشہ ہی اس سلسلہ میں اُن کے فرائض کی طرف بھی توجہ دلایا کرتے ایک مرتبہ آپ نے ”اسلامی اخبارات کے لئے دستور العمل“ کے عنوان سے ایک مضمون تحریر فرمایا جس میں آپ نے صحافت سے جڑے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا۔

”پس برادران و عزیزان و بزرگان! اخبار میں وہ مضمون دو جس میں نفسانی خواہشات، سوئے ظن، تفرقہ و امراء پر اعتراض اور اس میں ناقبت اندیشی، خود غرضی، طبع دین الہی سے بیخبری، نفاق جو بد عہد یوں سے پیدا ہوتا ہے۔ اور حکام کی نا اہلی، ترک افشاء سلام (خصوصاً ہندوستان میں تو یہ دُعا معیوب یقین کی گئی) ترک جمعہ و جماعات، امراء میں عادات بدی نے کہاں نوبت پہنچائی ہے کا علاج ہو۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔“

یہ وہ اصول ہیں جنہیں ایک صحافی کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اگر ہر صحافی ان اصولوں پر قائم رہتے ہوئے حقیقی اور سچی بات کہے اور حقائق کو سامنے لائے تو دُنیا کا فساد امن میں تبدیل ہو سکتا ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی ہی میں خدا تعالیٰ کے فضل سے قادیان سے چار اخبارات و رسائل جاری ہو گئے تھے بعد میں حضرت خلیفۃ المسیح الاولؒ کے زمانہ میں بھی جاری رہے کہ ایک اور اخبار کا اضافہ ہوا لیکن حضرت خلیفۃ المسیح الثانیؒ کے زمانہ میں تو گویا صحافت کی دُنیا میں بہار آگئی اور کئی اخبار اور رسائل قادیان اور قادیان سے باہر کئی شہروں سے جاری ہوئے۔ ان کا ذکر اختصار سے کرتا ہوں۔

### الحکم:

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں ہی حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانیؒ نے یہ اخبار جاری کیا۔

### البدر:



اگر ایک بازو اٹھم تھا تو دوسرا بازو اٹھانے البدر کے نام سے پیدا کر دیا۔ مولوی محمد افضل صاحب مرحوم نے جو کہ نہایت ہی صالح بزرگ انسان تھے اور افریقہ سے آئے تھے، اس اخبار کو ۱۹۰۲ء میں جاری کر کے اٹھم کا ہاتھ بنا دیا۔

### ریویو آف ریلیجنز:

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں تمام مذاہب میں مذہبی جوش پیدا ہو چکا تھا۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام مذاہب پر نظر کرنے کی غرض سے یہ رسالہ 1902ء میں جاری ہوا۔

### بدر:

1905ء میں البدر کے ایڈیٹر صاحب کی وفات ہو گئی اس کے بعد یہ اخبار البدر کی جگہ بدر کے نام سے شائع ہونا شروع ہوا۔ یہ سلسلہ جدید مکرم میاں معراج اور خطبات کا خلاصہ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعض کتب کے انگریزی تراجم بھی اس میں شائع ہوا کرتے تھے۔

### مصباح:

یہ رسالہ خواتین کے لئے جاری ہوا تھا۔ اس کی پہلی اشاعت ۱۵ دسمبر ۱۹۲۶ء کو ہوئی یہ رسالہ پہلے پندرہ روزہ تھا۔ بعد میں ماہوار رسالہ کی صورت میں جاری رہا۔ اس وقت بھی یہ رسالہ عورتوں کی تعلیم و تربیت کے لئے باقاعدہ ربوہ سے شائع ہوتا ہے۔ اور اپنا فریضہ بخوبی سرانجام دے رہا ہے۔

### احمدیہ گزٹ:

صدر انجمن احمدیہ اور نظارتوں کی سہولت کے لئے یہ رسالہ ۱۹۲۶ء میں جاری کیا گیا تھا۔ یہ رسالہ مہینے میں دو بار چھپا کرتا۔ بعد میں اس کی ضرورت کو محسوس نہ کرتے ہوئے اس کو چند سالوں بعد بند کر دیا گیا۔ اور اس ضرورت کو افضل پورا کرتا رہا۔

### جامعہ احمدیہ:

جامعہ احمدیہ کے نام سے جامعہ کے طلباء نے ایک رسالہ جاری کیا جس میں بہت ہی تحقیقی اور علمی مضامین شائع ہوتے تھے۔

### تعلیم الاسلام:

تعلیم الاسلام ہائی اسکول سے بھی ایک رسالہ اس نام سے جاری ہوا جس کے چلانے کی ذمہ داری تعلیم الاسلام ہائی اسکول کے طلباء کے سپرد تھی۔

### احمدی خاتون:

یہ رسالہ مستورات کے لئے جاری ہوا تھا جو کہ ماہانہ تھا اس کا اجراء اٹھم کے دفتر سے ہی ہوا کرتا تھا۔

### تفسیر القرآن:

حضرت مولانا سید محمد سرور شاہ صاحب کی تفسیر تفسیر القرآن کے نام سے شائع ہوتی تھی۔ اس کا کام رسالہ ریویو آف ریلیجنز کے ساتھ ساتھ چلا کرتا تھا۔

### المبشر:

نوجوانوں میں علمی اور ادبی شعور پیدا کرنے کی غرض سے یہ رسالہ جاری کیا گیا۔ اس میں تاریخی

کرتا رہا۔ اور بہت ہی مفید مضامین اس میں شائع ہوتے رہے۔

### الفضل:

اس اخبار کے اجراء کے سلسلہ میں خاکسار پہلے لکھ آیا ہے۔ یہ اخبار شروع میں ہفت روزہ تھا بعد میں ہفتہ میں دو بار تین بار کبھی چار بار بھی شائع ہوتا پھر وہ وقت بھی آیا کہ روزانہ شائع ہونا شروع ہوا پہلے دستی پریس پر شائع ہوتا تھا بعد میں نئی ایجادات کے ساتھ ساتھ اعلیٰ آفنیٹ پریس پر چھپنے لگا۔ اس وقت بھی خدا کے فضل سے یہ اخبار ربوہ سے روزانہ شائع ہوتا ہے جبکہ افضل ہفتہ وار کی صورت میں جو کہ افضل انٹرنیشنل کے نام سے جانا جاتا ہے لندن سے جاری ہے۔ جس میں حضور انور کے تازہ تازہ خطبات شائع ہوتے ہیں

### فاروق:

محترم میر قاسم علی صاحب جب قادیان ہجرت کر کے تشریف لے آئے تو آپ نے قادیان سے فاروق کے نام سے ایک اخبار ۱۹۱۶ء میں جاری فرمایا۔ یہ اخبار منہ پھٹ دشمنان سلسلہ احمدیہ کے اعتراضات کا دندان شکن جواب دیتا رہا۔

### صادق:

حضرت مفتی محمد صادق صاحب نے ۱۹۱۶ء میں اس اخبار کو جاری فرمایا۔ الحق جو کہ دہلی سے شائع ہوتا تھا جو عیسائیوں کے اعتراضات کا جواب دیا کرتا تھا اور جبکہ بدر بھی کچھ عرصہ کے لئے بند ہو چکا تھا اس وجہ سے محترم مفتی صاحب نے اس اخبار کو جاری کیا اور یہ اخبار ہر دو اخباروں کا قائم مقام بن کر عیسائی دنیا میں تہلکہ مچاتا رہا۔

### سن رائزر:

حضرت خلیفۃ المسیح الثانی کے زمانہ میں ہی ۱۹۲۸ء میں یہ اخبار انگریزی زبان میں شائع ہونا شروع ہوا اس کے ایڈیٹر حضرت ملک غلام فرید صاحب ایم اے تھے اس میں نہایت ہی مفید اور اعلیٰ قسم کے مضامین شائع ہوتے رہے۔ اس کی اشاعت بہت بڑی تھی اس میں اسلامی کلچر پر مضامین چھپا کرتے۔ یہ اخبار لاہور سے چھپا کرتا تھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی کی تقاریر الدین احمد صاحب آف لاہور کی سعی سے شروع ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت مفتی محمد صادق کو جو تعلیم الاسلام ہائی اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھے اس اخبار کا مدیر مقرر فرمایا۔

### تشجیذ الاذہان:

حضرت خلیفۃ المسیح الثانی نے نوجوان نسل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ رسالہ ۱۹۰۶ء میں جاری فرمایا۔ اس رسالہ کا نام حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تشجیذ الاذہان تجویز فرمایا تھا۔ اگرچہ یہ رسالہ نوجوانوں کا سمجھا جاتا تھا لیکن یہ اندرون خانہ کے کلمات طیبات اور بعض دیگر خصوصی معارف کے لئے نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوا اس میں بڑے ہی معرکتہ الآراء مضامین شائع ہوتے رہے۔ اس میں اسلام اور احمدیت کے متعلق بہت سے اہم مسائل شائع ہوتے رہے۔ یہ

رسالہ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی کی دین تھا۔ کچھ عرصہ کے لئے اس رسالہ کو ریویو آف ریلیجنز میں مدغم کر دیا گیا۔ بعدہ یہ رسالہ آپ ہی کے عہد خلافت میں ربوہ سے پھر جاری ہوا۔

### نور:

مکرم سردار محمد یوسف صاحب کی کوشش سے یہ رسالہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول کے زمانہ میں جاری ہوا جو کہ اپنی مخصوص طرز تحریر سے بہت مقبول ہوا۔ اس اخبار نے سکھوں کی اپنی ہی مسلمہ کتب سے اسلام کی حقانیت دکھانے اسی طرح آریوں کے اعتراضات کا جواب دینے میں بخوبی اور خوش اسلوبی کام سرانجام دیا۔ یہ رسالہ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی کے دور میں بھی بخوبی خدمت سرانجام دیتا رہا۔

### الحق دہلی:

مکرم میر قاسم علی صاحب دہلی سے یہ اخبار نکالا کرتے تھے۔ ان دنوں عیسائیوں اور دیانند مت کھنڈن سجادوں کے ساتھ مناظرات کا سلسلہ جاری تھا۔ یہ اخبار اس روداد کو بڑی خوش اسلوبی سے پیش کیا کرتا تھا جو کہ اس کی نہایت درجہ مقبولیت کا باعث تھی۔ پھر جس زمانہ میں احمدیہ بلڈنگ سے اخبار پیغام شائع ہونا شروع ہوا تو یہ اخبار افضل اخبار کی خوب معاونت واقعات بھی درج کئے جاتے تاکہ نوجوان نسل صحیح تاریخ سے واقف ہو سکے۔ اور ایک عرصہ تک اس رسالہ کا اہتمام شیخ محمود احمد صاحب عرفانی کرتے رہے۔

### تعلیم الدین:

یہ رسالہ حضرت حکیم عبداللطیف صاحب گجراتی منشی فاضل نے جاری کیا تھا۔ اس رسالہ میں کئی مفید امور درج ہوا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس رسالہ نے قرآن کریم کا ترجمہ سکھانے کا کام بڑے احسن رنگ میں سرانجام دیا۔

### رفیق حیات:

یہ رسالہ کئی لحاظ سے بڑا ہی معلوماتی تھا۔ اسمیں بڑے ہی مفید مضامین شائع ہوا کرتے تھے۔ لیکن کچھ عرصہ چلنے کے بعد یہ بند ہو گیا۔

### البشری انگریزی:

مکرم چودھری غلام محمد صاحب بی اے سیالکوٹی تعلیم الاسلام اسکول میں استاد تھے آپ نے قادیان میں ایک انگریزی پریس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ایک دستی پریس لگائی۔ اور ساتھ ہی البشری نام کا ایک اخبار بھی جاری کیا۔

یہ وہ رسائل تھے جو کہ قادیان سے شائع ہوا کرتے تھے لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سے رسائل تھے جو حضرت خلیفۃ المسیح الثانی کے زمانہ میں باہر کے ممالک میں جاری ہوئے۔ ان میں سے چند کا ذکر کرتا ہوں۔

### مسلم سن رائزر:

حضرت مفتی محمد صادق صاحب نے امریکہ سے مسلم سن رائزر کے نام سے رسالہ جاری کیا۔ یہ رسالہ انگریزی زبان میں شائع ہوتا تھا۔ بعد میں صوفی مطبع

الرحمن صاحب بنگالی ایم اے اس رسالہ کو چلاتے رہے۔

### مسلم ٹائمز:

حضرت مولوی عبدالرحیم صاحب دروایم اے امام مسجد لندن نے یہ رسالہ جاری کیا اور ایک عرصہ تک اس کے مدیر کے فرائض سرانجام دیتے رہے۔ اس میں بہت ہی عمدہ مضامین شائع ہوا کرتے تھے۔

### مسلم پیر الٹ:

یہ رسالہ بھی لندن سے جاری ہوا اور ایک لمبا عرصہ یہاں سے جاری رہنے کے بعد جب رسالہ ریویو آف ریلیجنز وہاں سے شائع ہونا شروع ہوا تو پھر اس رسالہ کو اس میں مدغم کر دیا گیا۔

### الاسلام:

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان کے افراد و صاحبزادگان اس رسالہ کو نکالا کرتے تھے۔ اور یہ رسالہ بھی ایک عرصہ تک پیغام و ہدایت پہنچانے کا کام سرانجام دیتا رہا۔

### البشارۃ الاسلامیہ:

حضرت مولانا جلال الدین صاحب شمس مبلغ سلسلہ نے عربی زبان میں فلسطین سے یہ رسالہ جاری کیا جو کہ کبابیر سے شائع ہوا کرتا تھا۔

### البشری:

اس نام سے بھی سہ ماہی رسالہ نکلا کرتا تھا۔ جس کو مولوی ابوالعطاء صاحب جالندھری نے ماہانہ کر دیا۔ اس کے نام کی حکمت میں تورات کی پیشگوئی کو بیان کیا گیا۔ اسی مناسبت سے یہ نام رکھا گیا تھا۔ یہ رسالہ آج بھی جاری ہے اور تعلیم و تربیت کے علاوہ تبلیغ کا کام بھی سرانجام دے رہا ہے۔

### الاسلام:

حضرت مولوی رحمت علی صاحب نے ساٹرا سے الاسلام کے نام سے ایک اخبار جاری کیا۔ جو کہ ساٹرا میں تبلیغی و تربیتی امور سرانجام دیتا رہا۔

### مسیح:

سیلون سے مسیح کے نام سے ایک رسالہ جاری ہوا تھا جو کہ تامل زبان میں نکلا کرتا تھا بعد میں اس کی جگہ ایک رسالہ دون کے نام سے بھی نکلتا رہا۔

### دق احمدی:

اس نام سے ایک رسالہ ڈھا کہ بنگال سے جاری ہوا اور آج بھی یہ رسالہ جاری ہے۔ جس کے ذریعہ بنگال کے لوگوں میں احمدیت کی تبلیغ جاری ہے۔ الحمد للہ۔

### البشری:

یہ رسالہ بنگلہ زبان میں کلکتہ سے شائع ہونا شروع ہوا جو کہ آج بھی جاری ہے یہ رسالہ ماہانہ ہے۔ اور بنگال کے احمدیوں کی ضرورتوں کو تعلیمی لحاظ سے اور غیر احمدیوں میں تبلیغی لحاظ سے کام سرانجام دے رہا ہے۔



# جماعت احمدیہ کے ابتدائی اخبار الحکم والبدر کے ایڈیٹر و اولین صحافی

## حضرت یعقوب علی صاحب عرفانی و حضرت مفتی محمد صادق صاحب کا ذکر خیر

﴿از کرم مولانا محمد انعام صاحب غوری ناظر اصلاح و ارشاد قادیان﴾

تیرہویں صدی کا آخر مذہبی لحاظ سے کشتی کے ایک دنگل کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ مختلف مذاہب اسلام پر حملہ آور ہو رہے تھے اس نازک دور میں خدا تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی معبود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو علیہ السلام کا جہنڈا مگر مبعوث فرمایا۔ چونکہ یہ زمانہ قلمی جہاد کا تقاضا کر رہا تھا، جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:-

”اب سب مذاہب میدان میں نکل آئے ہیں اور یہ ضروری امر ہے کہ ان کا مقابلہ ہو..... یہ مقابلہ مذہب کا شروع ہو گیا ہے اور اس مذہبی کشتی کا سلسلہ نری زبان تک ہی نہیں رہا بلکہ قلم نے اس میں سب سے بڑھ کر حصہ لیا ہے لاکھوں مذہبی رسالے شائع ہو رہے ہیں۔ اس وقت مختلف مذاہب خصوصاً نصاریٰ کے جو حملے اسلام پر ہو رہے ہیں جو شخص اسلام پر ان حملوں کی رفتار کو دیکھتا ہے تو وہ اس ضرورت کو محسوس کرتا ہے“ (ملفوظات جلد 3)

اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ”سلطان القلم“ کے عظیم الشان خطاب سے نوازا۔ اور آپ کے قلم میں ایسی طاقت بخشی کہ آپ نے انتہائی نامساعد حالات کے باوجود اسی سے زائد کتب تصنیف فرمائیں۔ اشتہارات اور مکتوبات وغیرہ ان کے علاوہ ہیں۔ اور ان کے ذریعہ دلائل نیروہ و براہین ساطعہ کی رو سے دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دکھایا۔

چنانچہ ہندوستان کے مشہور و معروف نقاد مولانا ابوالکلام آزاد نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وصال پر آپ کے قلمی جہاد کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا تھا۔

”غرض مرزا صاحب کی یہ خدمت آنے والی نسلوں کو گراں بار احسان رکھے گی کہ انہوں نے قلمی جہاد کرنے والوں کی پہلی صف میں شامل ہو کر اسلام کی طرف سے فرض مدافعت ادا کیا اور ایسا لٹریچر یا ڈگار چھوڑا جو اس وقت تک کہ مسلمانوں کی رگوں میں زندہ خون رہے اور حمایت اسلام کا جذبہ ان کے شعاری قومی کا عنوان نظر آئے قائم رہے گا۔“

(اخبار وکیل جون 1908)

پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے حضور علیہ السلام کو ایسے دست و بازو عطا فرمائے جو اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ اس بابرکت جہاد میں ہمہ وقت کمر بستہ رہے۔ چنانچہ اس وقت آپ کے دو مخلص صحابہ حضرت یعقوب علی صاحب عرفانی رضی اللہ عنہ، اور حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ کا مختصر ذکر خیر کیا جاتا ہے جن کو دیگر خدمات دینیہ کی بجا آوری کے علاوہ سلسلہ عالیہ احمدیہ کے ابتدائی

اخبارات الحکم اور البدر کے مدیر کے طور پر صحافت کے میدان میں بھی اعلیٰ اور نمایاں خدمات کی سعادت ملی۔ اس تعلق میں یہ امر قابل ذکر ہے کہ 1893 میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جماعت کی طرف سے ایک اخبار کے اجراء اور سلسلہ کی دیگر ضرورتوں کا ذکر کرتے ہوئے مخلصین جماعت کو پورے جوش اور جذبہ کے ساتھ دینی خدمات بجالانے کے بارہ میں ایک اشتہار (منسلک کتاب آئینہ کمالات اسلام) میں مندرجہ ذیل دلنشین اور موثر الفاظ میں توجہ دلائی تھی۔

”اے مردمان دین کو شش کرو کہ یہ کوشش کا وقت ہے۔ اپنے دلوں کو دین کی ہمدردی کے لئے جوش میں لاؤ کہ یہی جوش دکھانے کے دن ہیں اب تم خدا تعالیٰ کو کسی اور عمل سے ایسا راضی نہیں کر سکتے جیسا کہ دین کی ہمدردی سے۔ سو جاگو اور اٹھو اور ہوشیار ہو جاؤ اور دین کی ہمدردی کے لئے وہ قدم اٹھاؤ کہ فرشتے بھی آسمان

نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو آپ نے ذاتی ذمہ داری پر جاری کرنے کی اجازت اور دعویٰ اگرچہ مالی ذمہ داری کے لحاظ سے یہ آپ کی انفرادی ہمت کا نتیجہ تھا تاہم یہ جماعت کا اخبار تھا اور جماعت کی عمومی نگرانی کے ماتحت تھا۔ کچھ عرصہ آپ امرتسر سے اس اخبار کو نکالتے رہے۔ پھر جب آپ کو مدرسہ میں خدمات کے لئے قادیان بلا لیا گیا تو اخبار اور پریس بھی قادیان لے آئے۔ اور اس طرح اخبار الحکم قادیان سے شائع ہونے لگا اور جب تک اخبار البدر کا اجراء نہ ہوا، کم و بیش چار سال تک سلسلہ کا یہی واحد اخبار تھا۔

حضرت مولانا حضرت عبدالرحیم صاحب نے حضرت یعقوب علی صاحب عرفانی کے متعلق 1934ء میں لکھا تھا کہ:-

”حضرت عرفانی الاسدی ان مبارک وجودوں میں سے ہیں کہ جن کے ذریعے اس زمانے میں جبکہ

### حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ :-

”یہ اخبار الحکم و بدر ہمارے دو بازو ہیں۔ الہامات کو فوراً ملکوں میں شائع کرتے اور گواہ بنتے ہیں۔“ (ذکر حبیب، مؤلفہ حضرت مفتی محمد صادق صاحب صفحہ 193)

ڈپٹی کمشنر کی پیشی میں حضور علیہ السلام کے اعزاز اور مولوی محمد حسین بنا لوی کی تذلیل اور امرتسر میں پادری عبداللہ آتھم سے مباحثہ (جنگ مقدس) کی ایمان افروز روداد پڑھ کر ایک قاری ان واقعات کے زمانہ میں پہنچ جاتا ہے۔

اس کے علاوہ حضرت یعقوب علی صاحب عرفانیؒ اغیار سے تعلقات اور حکومت کو ضروری امور کی طرف توجہ دلانے کا بھی ایک خاص ملکہ رکھتے تھے۔ چنانچہ جوہر شناس امام الزمان حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے اس مخلص صحابی کی اس صلاحیت کے پیش نظر بعض اوقات اپنے مخالف چچا زاد بھائیوں کے پاس انہی کو بھجوایا کرتے اور مقدمہ دیوار کے سلسلہ میں جو وفد ڈپٹی کمشنر کے پاس بھجوایا اس کی قیادت بھی آپ نے کی۔

آپ کے ایک قریبی ساتھی حضرت قاضی محمد ظہور الدین صاحب اکل نے آپ کی وفات پر اخبار بدر 19 دسمبر 1957 میں جو نوٹ لکھا تھا اس میں فرماتے ہیں:-

”حضرت خراب (ابتدا میں آپ خراب تخلص کیا کرتے تھے) کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے۔ وہ ہر فن مولا تھے۔ سلسلہ کے انتظامی امور میں بھی انہی کا دخل تھا۔ قادیان کے سکان ہندو سکھ حضور کے رشتہ داروں سے اور حکام سے ان کے تعلقات تھے اور ہر

آسمان زمین کے قریب تھا۔ خدائے آسمان نے نئی آسانی بادشاہت میں کام لیا۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام سیر صبح یا دربار شام میں وابستگان دامن کو اپنے کلام فیض ترجمان سے مستفیض فرماتے تھے، اس وقت حضرت عرفانی الاسدی کا قلم ہر لفظ کو صفحہ قرطاس پر تیزی سے ضبط تحریر میں لا کر ان بیش بہا خزائن کو تمام زمانوں کے لئے محفوظ کر لیتا تھا اور پھر وہ خزائن الحکم کی زینت بن کر ایک عالم کی روحانی تنگی دور کرنے کا موجب بنتے تھے اور ہمیشہ بنتے رہیں گے“

(الحکم 14 جنوری 1934)

حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب نے حضرت یعقوب علی صاحب عرفانیؒ کی وفات پر جو نوٹ رقم فرمایا اس میں تحریر فرمایا کہ:-

”شیخ صاحب مرحوم سب سے پہلے احمدی تھے جنہوں نے سلسلہ احمدیہ کی خدمت کی غرض سے الحکم جاری کیا۔ شیخ عرفانی صاحب مرحوم کی دوسری بڑی خصوصیت یہ تھی کہ سب سے پہلے انہی کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سوانح اور سلسلہ احمدیہ کی تاریخ مرتب کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خطوط کو جمع کر کے مکتوبات احمدیہ کے نام سے شائع کرنے کی سعادت بھی شیخ صاحب مرحوم کو ہی حاصل ہوئی۔“

پر جزا کم اللہ کہیں۔“

اس موثر تحریک سے پُر جوش ہو کر ایک نوجوان نے دل میں عزم کر لیا کہ جہاں تک اخبار کے اجراء کا تعلق ہے مسیح پاک کی اس خواہش کو پورا کرنے کا شرف وہ حاصل کرے گا۔ یہ باہمت نوجوان موضع جاڈلہ ضلع جالندھر صوبہ پنجاب کے باشندہ حضرت یعقوب علی صاحب عرفانی الاسدی تھے جن کو بالکل جوانی کی عمر میں لدھیانہ کے مقام پر بیعت اولیٰ کے دنوں میں ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کرنے اور آپ کے قدیمی مخلص صحابہ کے زمرہ میں شامل ہونے اور سلسلہ عالیہ احمدیہ کے اولین صحافی اور اولین مورخ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ چنانچہ بفضلہ تعالیٰ آپ نے الحکم کے نام سے ایک ہفتہ وار اخبار جاری کیا جو 18 اکتوبر 1897ء کو شائع ہوا پہلے یہ اخبار ریاض ہند پریس امرتسر میں چھپتا رہا پھر 1898 کے آغاز میں قادیان میں منتقل ہو گیا اور چند برسوں کے وقفہ کے ساتھ جولائی 1943 تک جاری رہا۔ الحکم کے دورثانی میں ادارت کا کام ان کے فرزند جناب شیخ محمود صاحب عرفانی نے نہایت عمدہ رنگ میں سنبھالا ابتداء میں جب یہ اخبار شروع ہوا جماعت کی مالی حالت ایسی تھی کہ اخبار کا خرچ برداشت کر سکتی۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں جب آپ



مرحلہ پر وہ سلسلہ کے مفاد میں کام کرتے تھے۔ سفروں میں، مقدموں میں، حضور کی رفاقت کی سعادت حاصل رہی۔ حضرت خلیفہ ثانی ایدہ اللہ کے ساتھ سفر یورپ میں گئے۔ واپسی پر میں نے کہا اپنے کچھ سفر کے متعلق لکھا نہیں ہے۔ جواب میں کہا میں تو خدمت کے لئے گیا تھا اسی کے لئے اپنے آپ کو وقف رکھا۔ آزادانہ نہ کہیں گیا نہ کوئی ملاقات کی۔ اب میں پھر جاؤں گا اور لندن، روم اور عربی مشرقی ملکوں کو دیکھ کر آؤں گا۔ یہ بات انہوں نے جب مجھے کہی وہ اپنے برآمدے میں ایک تہ بند باندھے ٹہل رہے تھے اور بدن پسینے سے شرابور غبار آلود تھا۔ دراصل برآمدے سے متصل ایک کوشڑی میں کتابیں الٹ پلٹ اور ان کو جھاڑتے پونچھتے باہر نکلے تھے۔ گرمی کا موسم تھا۔ میں نے کہا اخراجات سفر کا اہتمام کئے بغیر یہ عزم؟ کہا اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے۔ وہ ضرور ضرور کوئی صورت پیدا کر دے گا۔ چنانچہ آپ پھر تہا تشریف لے گئے اور آکر سفر نامہ شائع کیا جس سے ان کی دقت نظر اور وسعت معلومات کا ثبوت ملتا ہے۔“

حضرت یعقوب علی صاحب عرفانی کو صحافت کے علاوہ تفسیر قرآن اور تالیف و تصنیف کے کام کے ساتھ بھی بے حد شغف تھا جو تادم آخر جاری رہا۔ ایک لمبا عرصہ آپ سکندر آباد دکن میں رہائش پذیر رہے۔ تا آنکہ 5 دسمبر 1957ء کو وہیں آپ کی وفات ہوئی۔ وہاں بھی پیرانہ سالی اور ضعف کے باوجود آپ دینی و تبلیغی کتب تصنیف کرنے میں مصروف رہے۔ آپ نے درجنوں کتب تصنیف و تالیف فرمائیں جن میں سے مکتوبات احمدیہ، حیات النبی، حیات احمد، سیرت حضرت مسیح موعود، آئینہ حق نما، خلافت محمود و مصلح موعود، احکام القرآن، تاریخ القرآن، حکمت القرآن فی آیات القرآن، البیان فی اسلوب القرآن، اعجاز القرآن ما ثبت بالقرآن، رحمۃ للعالمین فی کتاب مبین، کتاب الصیام، کتاب الحج، کتاب الزکوٰۃ وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اخبار الحکم نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں گرفتار خدمت سرانجام دی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے تازہ بتازہ البہامات، روایا و کشف کی اشاعت کے علاوہ حضرت اقدس علیہ السلام کی مجالس عرفان کو جو مساجد میں یا سیر کے وقت بیان ہوتی رہیں نہایت عمدگی سے اور باقاعدگی سے نوٹ کر کے اخبار کی زینت بنایا جاتا رہا۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سفروں کے حالات، عیسائیوں اور آریوں سے ہونے والے مناظروں کی روئیداد اور ان کو مذہبی چیلنج اس اخبار کے ذریعے دیئے جاتے رہے۔ قادیان کی ڈائری، قادیان سے باہر جماعتوں کی رپورٹیں، اور علمی مضامین اس اخبار کی زینت بنتے رہے۔

## البدرد:

البدرد اخبار قادیان سے 1902ء میں شائع ہوا۔ اس کے لئے بابو محمد افضل صاحب اور ڈاکٹر فیض علی صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت

میں درخواست کی جو حضور علیہ السلام نے منظور فرمائی۔ شروع میں اس کا نام ”القادیان“ رکھا گیا لیکن بعد میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشاد پر اس کا نام ”البدرد“ رکھا گیا۔

محبت صادق صالح ایڈیٹر حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر

21 مارچ 1905 کو حضرت مفتی محمد افضل خان صاحب جو اخبار البدرد کے مالک اور ایڈیٹر تھے، قادیان میں فوت ہو گئے تو اس وقت حضرت مفتی محمد صادق صاحب کی خدمات تعلیم الاسلام ہائی سکول کی ہیڈ ماسٹری سے اخبار البدرد کی ادارت کی طرف منتقل کی گئیں اور اخبار البدرد کا نام تبدیل ہو کر نقاد لادرد رکھا گیا مگر بابو محمد افضل صاحب کا ذکر خیر کرتے ہوئے حضرت مولوی عبدالکریم صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:-

”اس مرحوم بھائی کے لائف کا گہرا مطالعہ کر کے مجھے ایک بات عجیب نظر آئی ہے اور وہی اس قابل ہے کہ طالبان حق و رشاد کے لئے اسوہ اور نمونہ بنے۔ گزشتہ زندگی میں جہاں تک مجھے معلوم ہے ہمارا یہ ماسوف و مرحوم بھائی کبھی نہ تو اس قابل ہوا کہ نمونہ ٹھہرتا اور نہ اس کے حالات اور تقلبات دیکھنے اور برتنے والوں کی نگاہ میں شہرت عام اور بقائے دام کے استحقاق کا کوئی نشان رکھتے تھے۔ اس لحاظ سے ان کی زندگی بہت ہی محدود ہے مگر ایک عارف کی باز دید کے لحاظ سے ابدی اور نہایت بابرکت ہے۔“

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ دنیا کے دل کش نظارہ گاہوں کے فرحت بخش ہواؤں میں بیٹ بھر کر سیر کرنے کے بعد ہمارے مغفور بھائی کو معلوم ہوا کہ یہ سب فانی اور خیالی تھیں۔ اور ان ناپائیدار لذتوں پر سرگوں ہونے کا انجام اچھا نہیں۔ اس روحانی تبدیلی نے انہیں قادیان کی طرف متوجہ کیا جو ابدی اور باقی لذتوں اور واقعی روح افزاء نظاروں کی سارے جہاں میں ایک جگہ ہے اس کشش اور میلان کی انہوں نے بلا مدافعت پیروی کی۔ قادیان میں آئے۔ چند روز رہے۔ پورے بے سامان اور عیال کثیر اور بظاہر معاش کا کوئی امید دلانے والا منظر نہیں بائیں ہمہ صدق دل سے عزم کر لیا کہ جو ہوسو ہو یہاں سے نہیں جاؤں گا۔۔۔۔۔

البدرد نکلا۔ مختلف اوقات میں نہیں شروع سے آخری دم تک اس کی راہ میں انہیں مصیبتیں اور روکاوٹیں پیش آئیں۔ شاید کم ہی لوگ واقف ہوں گے مرحوم اور اس کے عیال نے بسا اوقات دن کو آدھا پیٹ کھانا کھایا اور رات کو بھوکے سو گئے اور اکثر خشک نون، مریج کے ساتھ کچی پکی مسمی روٹیاں کھا کر گزارہ کیا۔ کچی پکی میں نے اس لئے کہا کہ ایندھن خریدنے کی حالت بھی نہ ہوتی۔ نہ صرف بچے پھٹے پرانے کپڑوں میں ادھر ادھر پھرتے نظر آتے بلکہ خوبصورت نوجوان باپ بھی اسی گرم انگیز بیبت میں باہر نکلتا اور کاروبار کرتا ہے۔ ایک لائق اور بہنوں سے افضل مفتی انگریزی میں عمدہ دستگاہ رکھنے والا۔ باہر نکل کر خوب کمانے اور عمدہ گزاران والا۔ کون سی بات تھی جس نے

اسے ایسی زاہدانہ زندگی کے اختیار کرنے پر مجبور کیا۔ اس کا جواب صاف ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شناخت اور آپ کی معیت کی لذت۔

غرض مرحوم کے اخلاق میں یہ استقامت اور استقلال کا خلق مجھے قابل قدر اسوہ نظر آیا ہے۔ یہی وہ نور ہے جس سے اللہ تعالیٰ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوان بھائی کو جو رحمت میں جگہ دے اور ان کی استقامت کے نمونہ سے بہتوں کو مستفید کرے۔ آمین۔ (عبدالکریم 3 اپریل 1905) (البدرد 16 اپریل 1905)

سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس موقع پر حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر فرماتے ہوئے نہایت خوشی کے ساتھ احباب جماعت کو جس رنگ میں اطلاع دی، اس کا لفظ لفظ حضرت مفتی صاحب کے عز و شرف کو ظاہر کرتا ہے۔ چنانچہ اطلاع کے عنوان سے حضور علیہ السلام نے رقم فرمایا:-

”میں بڑی خوشی سے یہ چند سطریں تحریر کرتا ہوں کہ اگرچہ مفتی محمد افضل مرحوم ایڈیٹر اخبار البدرد قضائے الہی سے فوت ہو گئے ہیں مگر خدا تعالیٰ کے شکر اور فضل سے ان کا نعم البدل اخبار کو ہاتھ آ گیا ہے۔ یعنی ہمارے سلسلہ کے ایک برگزیدہ رکن، جوان صالح اور ہریک طور سے لائق، جن کی خوبیوں کے بیان کرنے کے لئے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں یعنی مفتی محمد صادق صاحب بھیردی قائم مقام مفتی محمد افضل مرحوم ہو گئے ہیں۔“

میری دانست میں خدا تعالیٰ کے فضل اور رحم سے اس اخبار کی قسمت جاگ اٹھی ہے کہ اس کو ایسا لائق اور صالح ایڈیٹر ہاتھ آئے۔ خدا تعالیٰ یہ کام ان کے لئے مبارک کرے اور ان کے کاروبار میں برکت ڈالے۔ آمین ثم آمین۔

خاکسار مرزا غلام احمد (23 محرم الحرام 1323ھ علی صاحبہما التحیۃ والسلام 30 مارچ 1905ء)

محترم بابو افضل صاحب کی وفات کے بعد اخبار البدرد میں جو تعطل آیا اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مولانا نور الدین خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ نے فرمایا:-

”میرا دل گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ قادیان سے کوئی مفید سلسلہ جاری ہو اور وہ رک جاوے۔ البدرد کا چند روزہ وقفہ رنج تھا۔ سردست اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے تدبیر نکالی ہے کہ میاں معراج الدین عمر جن کو دینی امور میں اللہ تعالیٰ نے خاص جوش بخشا ہے اس طرف متوجہ ہوئے اور نصرت اللہ یوں جلوہ گر ہوئی کہ اس کی ایڈیٹری کے لئے میرے نہایت عزیز مفتی محمد صادق ہیڈ ماسٹر ہائی اسکول قادیان کو منتخب کیا گیا اور اس تجویز کو حضرت امام نے بھی پسند فرمایا میں یقین کرتا ہوں کہ ہمارے احباب اس نعم البدل پر بہت خوش ہوں گے۔“ (نور الدین)

حضرت مفتی محمد صادق صاحب بھیرہ کے رہنے والے تھے۔ 13 جنوری 1872ء کو پیدا ہوئے بچپن

ہی سے بے حد نیک فطرت تھے اپنے دل کی حالت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”میری عمر دس بارہ سال کی ہوگی جبکہ ایک دن میں نے اپنے ساتھی لڑکوں کو کہا کہ ہم عجیب زمانہ میں پیدا ہوئے ہیں کہ نہ کوئی اس زمانہ میں نبی ہے نہ کوئی بادشاہ ہے سب کچھ قصوں میں پڑھتے ہیں۔ دیکھنے میں کچھ نہیں آتا۔ میرا خیال ہے چونکہ میں نے اور میرے زمانہ پیدائش کے بچوں نے آئندہ اپنی زندگی میں ایک نبی اور بادشاہ کو پانا تھا اس واسطے اس کی تڑپ پہلے سے ہماری فطرت میں موجود تھی“ (ذکر حبیب صفحہ 1)

دسمبر 1890 میں آپ کو امام الزمان حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اور جب تک جموں میں بطور مدرس ملازم رہے ہر سال موسم گرما میں اور بعض دفعہ سال میں دو دفعہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں قادیان حاضر ہوتے اور جب 1895 میں اکونٹ جنرل پنجاب لاہور کے دفتر میں کلرک ہو گئے تو قادیان آنے جانے کا زیادہ موقع ملنے لگا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جموں سے لاہور تبادلہ کے بارہ میں جب حضرت مفتی صاحب نے حضور علیہ السلام سے رہنمائی کی درخواست کی تو حضور نے اس تبادلہ کو پسند فرماتے ہوئے پسندیدگی کی وجہ صرف یہ بیان فرمائی کہ:-

”جموں کی نسبت لاہور قادیان سے زیادہ قریب ہے۔“

حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں:-

جب کبھی میں قادیان آتا خواہ ایک دن کے لئے خواہ تین چار دن کے لئے کوئی نہ کوئی موقع کسی دینی خدمت کا حاصل ہوتا۔ اور عبادت اور دعاؤں میں خاص لطف پیدا ہوتا۔ جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ میری طبیعت دنیا داری کے کاموں اور سرکاری ملازمت کے مشاغل سے اکھڑ گئی اور مجھے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں ملازمت کو ترک کر کے قادیان میں آ رہوں اور کسی دینی خدمت کو سرانجام دیا کروں۔ میں نے سب سے پہلے حضرت مسیح موعود کی خدمت میں یہ درخواست تحریری بھیجی کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں اپنی موجودہ ملازمت کو ترک کر کے اور ہجرت کر کے قادیان آ جاؤں۔ اس کے جواب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مجھے لکھا کہ مومن کے واسطے قیام فیما اقام اللہ ضروری ہے۔ یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو کھڑا کیا ہے اور اس کے لئے روزی کا سبب بنایا ہے وہیں صبر کے ساتھ کھڑا رہے یہاں تک کہ کوئی سبب آپ کے لئے ایسا نہ کہ آپ کو کسی کام کے واسطے قادیان بلا لیا جائے۔ لیکن چونکہ آپ نے ہجرت کا ارادہ کر لیا ہے اس واسطے آپ کو اس کا ثواب بہر حال ملتا رہیگا (ذکر حبیب صفحہ 26-27) چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشاد کی تعمیل میں آپ لاہور میں اپنی ملازمت پر قائم تو رہے لیکن جو نبی کوئی موقع نکلتا قادیان کی طرف چل پڑتے اور جتنے دن قادیان میں رہتے حضور اقدس علیہ السلام کی مجالس عرفان سے نہ صرف خود بھر پور استفادہ



کرتے بلکہ واپس جا کر اپنے حلقہ احباب میں بلکہ دور دور تک دوست احباب کو لکھ لکھ کر یہ ایمان افروز واقعات پہنچاتے۔

حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی قادیان آنے جانے میں کوتاہی کرنے والوں کی نسبت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تشبیہ کا ذکر کرتے ہوئے قادیان آمد و رفت اور حضور علیہ السلام کی صحبت کی برکات کے ضمن میں حضرت مفتی محمد صادق صاحب کا مثالی نمونہ پیش کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:-

”میں بارہا سوچتا ہوں کہ کہاں سے ایسے الفاظ لاؤں جو ان کو یقین دلا سکوں کہ یہاں (یعنی قادیان) رہنے میں کیا فائدے ہوتے ہیں۔ علم صحیح اور عقائد صحیح بجز یہاں رہنے کے میسر آ ہی نہیں سکتے ایک مفتی صادق صاحب کو دیکھتا ہوں کہ کوئی چھٹی مل جائے یہاں موجود۔ مفتی صاحب تو عقاب کی طرح اسی تاک میں رہتے ہیں کہ کب زمانہ کے زور آور ہاتھوں سے کوئی فرصت غصب کریں اور محبوب اور مولیٰ کی زیارت کا شرف حاصل کریں۔ حضرت نے بھی فرمایا لاہور سے ہمارے حصہ میں تو مفتی صادق صاحب ہی آئے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ کیا مفتی صاحب کو کوئی بڑی آمدنی ہے اور کیا مفتی صاحب کی جیب میں کسی متعلق کی درخواست کا ہاتھ نہیں پڑتا اور مفتی صاحب تو ہنوز نو عمر ہیں اور اس عمر میں کیا کیا انگلیں نہیں ہوا کرتیں۔ پھر مفتی صاحب کی یہ سیرت اگر عشق کامل کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے کہ وہ ساری زنجیروں کو توڑ کر دیوانہ وار بیٹالہ میں اتر کر نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن، نہ سردی نہ گرمی، نہ بارش نہ اندھیری، آدھی آدھی رات کو یہاں پیادہ پانچتے ہیں۔ جماعت کو اس نوجوان عاشق کی سیرت سے سبق لینا چاہئے۔“

(الحکم جلد 4 نمبر 2-24 جنوری 1900 بحوالہ ذکر حبیب صفحہ 334)

کس قدر معمولی وظیفہ پر حضرت مفتی صاحب اخبار کی ادارت سرانجام دیتے تھے اور جب صیغہ بدر کی مالی حالت کسی قدر بہتر ہوئی تو اضافہ الاونس کی درخواست پر حضور علیہ السلام نے کس رنگ میں آپ کی تربیت فرمائی یہ بھی قابل ذکر امر ہے۔ حضرت مفتی صاحب تحریر فرماتے ہیں:-

20 مارچ 1906 اخبار بدر جب قادیان میں چھپتا تھا تو اس کے مالک میاں معراج الدین صاحب عمر جولاہور میں رہتے ہیں اور ایڈیٹری پر عاجز مامور تھا اور مجھے پچاس روپے تنخواہ ملتی تھی رفتہ رفتہ بدر کا کام بڑھ گیا اس واسطے میں نے حضرت صاحب کو لکھا کہ اخبار پہلے آٹھ صفحہ کا تھا اب بارہ صفحہ کا ہے خریداروں میں بھی تین سو کا اضافہ ہو گیا ہے اور میری محنت بڑھ گئی ہے میں چاہتا ہوں کہ میاں صاحب کو لکھوں اور مجبور کروں کہ میری تنخواہ میں ترقی کریں۔

اس کے جواب میں حضور علیہ السلام نے مجھے تحریر فرمایا:-

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دل میں یہ آتا ہے کہ ہر ایک کام صبر اور آہستگی سے عمدہ ہوتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ اس میں مدد دیتا ہے۔ اس لئے بہتر ہے کہ جس طرح ہو سکے دو ماہ اور صبر کریں۔ اور طرح طرح کے پیرایہ میں اپنی محنت اور کارگزاری اور اخبار کی ترقی کا اخبار ہی میں ان مہینوں میں حال لکھتے رہیں۔ اس طریق سے امید ہے کہ وہ خود ملزم ہو جائیں گے۔ اور آپ کے وسیع اخلاق اور صبر کا آپ کو اجر ملے گا۔ اور بعد انقضاء دو ماہ کے ان پر ظاہر کر دیں کہ اب تک میں نے ان تمام تکالیف کی برداشت کی ہے مگر اب یہ تکلیف فوق الطاق ہے اور دو ماہ کچھ زیادہ نہیں یوں ہی گزر جائیں گے۔

والسلام

مرزا غلام احمد غفرانی

(ذکر حبیب صفحہ 341)

دوسری طرف حضرت مفتی صاحب کی فدائیت کا یہ عالم تھا کہ جبکہ آپ لاہور میں نہایت معمولی تنخواہ پر کلرک کی ملازمت پر تھے اور جماعتی چندوں کا کوئی باقاعدہ نظام ابھی قائم نہیں ہوا تھا ماہوار تین روپے حضور علیہ السلام کی خدمت میں نذرانہ ارسال کیا کرتے تھے۔ 1898 میں آپ نے ایک روڈیا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور ایک نظارہ سے یہ نتیجہ نکالا کہ گویا جو نذرانہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں کرتا ہوں وہ بہت حقیر اور معمولی ہے اس میں قابل قدر اضافہ کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اس بناء پر آپ نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں اس روڈیا کی تفصیل لکھ کر عرض کی کہ میں نے ایک تو یہ ارادہ کیا ہے کہ بجائے 3 روپے کے جو میں ماہوار ارسال خدمت کیا کرتا ہوں آئندہ دس روپیہ ماہوار ارسال کیا کروں میں یہ نہیں کہتا کہ صرف دس روپیہ ماہوار ہی ارسال کروں بلکہ اس سے بھی زیادہ جو حضور حکم فرمادیں انشراح صدر کے ساتھ حاضر خدمت کرنے کو تیار ہوں اور تھوڑی رقم پر غریبی کے ساتھ اپنا گزارہ کرنے کو راضی ہوں۔“

(آپ کی جوتیوں کا غلام محمد صادق 18 مارچ 1898)

اس کے جواب میں حضور علیہ السلام نے نہایت شفقت سے یہ جواب ارسال فرمایا:-

مجی اخویم مفتی محمد صادق صاحب سلمہ اللہ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کا خط پڑھا۔ میں انشاء اللہ الکریم آپ کے لئے دعا کروں گا۔ تا یہ حالت بدل جائے اور انشاء اللہ دعا قبول ہوگی۔ مگر میں ابھی آپ کو صلاح نہیں دیتا کہ اس تنخواہ پر آپ دس روپیہ بھیجا کریں کیونکہ تنخواہ قلیل ہے اور اہل وعیال کا حق ہے۔ بلکہ میں آپ کو تاکید کی طور پر اور حکماً لکھتا ہوں کہ آپ اس وقت تک کہ خدا تعالیٰ کوئی باگنچائش اور کافی ترقی بخشے یہی تین روپیہ بھیج دیا کریں۔ ہاں بجائے زیادت کے درود شریف بہت پڑھا کریں کہ وہی ہدیہ ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس ہدیہ کے

ارسال میں آپ نے سستی کی ہو۔

والسلام خاکسار مرزا غلام احمد غفرانی عنہ 18 مارچ 1898 ذکر حبیب صفحہ 50-349)

**بیعت کے بعد 1890 سے قبل از ہجرت 1900 تک ::**

اور پھر 1901ء میں قادیان ہجرت کے بعد تا وفات 1957 تقریباً ستر سال کا طویل عرصہ پوری سرگرمی اور جوش و خلوص کے ساتھ خدمت اسلام اور خدمت سلسلہ میں مصروف رہنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس عرصہ میں آپ کو بطور ہیڈ ماسٹر تعلیم الاسلام ہائی سکول۔ ایڈیٹر بدر۔ پرائیوٹ سیکرٹری ناظر امور خارجہ اور امریکہ اور انگلستان کے اولین کامیاب مبلغ کی حیثیت سے کارہائے نمایاں سرانجام دینے کی سعادت نصیب ہوئی۔ امریکہ میں قیام کے دوران اشاعت اسلام کی غرض سے ایک سہ ماہی رسالہ جاری کیا اور اس کا نام مسلم سن رائزر یعنی طلوع شمس اسلام رکھا۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عہد مبارک میں بھی انگریزوں سے تبلیغی خط و کتابت کرنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ کئی انگریز آپ کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے۔ نیز ڈاکٹر ڈوئی سے خط و کتابت کرنے اور اس کی کتاب منگوا کر حضور علیہ السلام کو سنانے اور پادری پگت سے خط و کتابت کرنے کے مواقع حاصل ہوئے۔ حضور علیہ السلام کے کئی سفروں میں ساتھ رہنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضور بھی آپ کو اولاد کی طرح عزیز رکھتے تھے اور ایسے رنگ میں شفقت اور محبت کا اظہار فرماتے کہ ماں باپ کی محبت بھی اس کے آگے بچ تھی۔ ایک مرتبہ جب ہلکا ہلکا بخار آپ کو رہنے لگا تو روزانہ ایک گولی خود اپنے ہاتھ سے تیار کر کے بھجاتے اور مسلسل حال دریافت کرتے رہتے۔ حضرت مفتی صاحب نے باصرار عرض کیا کہ حضور خود کیوں تکلیف فرماتے ہیں مجھے نسخہ بتادیں میں خود گولی تیار کر لوں گا۔ لیکن آپ خود ہی روز گولی تیار کر کے بھجاتے رہے۔

اسی طرح 1904ء میں آپ بیمار ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور دعا کی درخواست کی تو حضور نے فرمایا:-

”ہم تو ان کے لئے دعا کرتے ہی رہتے ہیں۔ آپ کو خیال ہوگا کہ صادق آپ کا بیٹا ہے اور آپ کو بہت پیارا ہے۔ لیکن میرا دعویٰ ہے کہ وہ مجھے آپ سے زیادہ پیارا ہے“

حضرت مفتی محمد صادق صاحب ایڈیٹر بدر، ہفت

**بقیہ صفحہ :: ( 16 )**

**سنیہ دوتن ::**

صوبہ کیرالہ جہاں ملیالم زبان پڑھی اور بولی جاتی ہے وہاں پر تبلیغی اور تربیتی امور انجام دینے کے لئے یہ رسالہ جاری ہوا جو پہلے کٹانور سے نکلتا تھا اب کالیکٹ سے جاری ہے۔

الغرض ہندوستان اور ہندوستان سے باہر کے ممالک میں حضرت خلیفہ المسیح الثانی کے زمانہ میں کئی اخبار اور رسائل جاری ہوئے۔ بہر حال حضرت خلیفہ

زبان مشہور تھی۔ انگریزی عربی فارسی میں آپ بے تکلف گفتگو فرماتے تھے فرنج اور پرنگالی زبان سے بھی آپ کو تعارف تھا۔ نہایت فصیح و بلیغ اردو زبان لکھتے تھے۔ ان کے الہد میں چھپے پہلے ادارہ کا ایک نمونہ ملاحظہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:-

”ہزاروں ہزار اور ملیوں ملیں سلام اور صلوة اور برکات اور رحمتیں نازل ہوں اس محمد پر جس نے ہم کو ایسا رب سنایا اور دکھایا اور ملایا اور اس محمد کے جانشین احمد پر جس نے اس زمانہ میں پھر تو حیدر الہی کا جھنڈا بلند کر دیا اور خشک زمین پر اپنے نیم شمی آب چشم سے سیراب کر کے مردوں کو زندہ کر دکھایا۔ دنیا اور آخرت میں حسنت عطا فرما۔ حضرت ابی المکرّم حکیم مولوی نور الدین رضی اللہ عنہ کو جن کی جان قرآن ہے اور جن کے درس قرآن سے اس اخبار کے ناظرین نے آج تک فائدہ اٹھایا اور آئندہ مستفید ہوں گے۔ انشاء اللہ۔ اور ایسا ہی دنیا دین کی نعمتیں اور برکتیں عطا فرما تو مگر لیزر حضرت مولوی عبدالکریم صاحب کو جن کی دردمندانہ پُر تاثیر نصائح و وعظ انسان کو حقیقی عاشق مزاج بنادیتی ہیں۔ اور اپنی بخشش اور رحمت اور برکت نازل کر میرے مکرم دوست حضرت مولوی محمد علی صاحب ایم اے پر جنہوں نے اخبار کے انتظام کو اپنی ماتحتی کا فخر عطا فرمایا ہے۔ رحمت و مغفرت نازل کر محمد افضل خان کی روح پر جس نے الہد اخبار کی بنیاد رکھی تھی اور اب تک چلایا تھا اسے جزائے خیر دے۔ اور نیز رحمت و برکت نازل فرما اس اخبار کے پروپرائٹر میاں معراج الدین عمر پر جس نے اپنی فراخ حوصلگی سے دوبارہ اس کو نئے سرے سے جاری کرنے کا بوجھ بھی پھراپنے سر پر اٹھایا ہے۔ اور اور بھی ترقی عطا فرما ہمارے پُرانے دوست الحکم کو جو اس سلسلہ کا سب سے پہلا اخبار ہے۔ (الہد 16 اپریل 1905 صفحہ 3)

یہ آسمان اسلام احمدیت کے درخشندہ ستارے تھے جو آج بھی جگمگا رہے ہیں۔ ضرورت ہے اس نور سے استفادہ کرنے والوں کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے کہ حضرت یعقوب علی صاحب عرفانی اور حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہما جیسے بزرگ صحابہ کی قابل رشک اور قابل تقلید بے لوث مساعی جمیلہ کی قدر کریں ان کی بلندی درجات کے لئے دعائیں کرتے رہیں اور ان کے نیک نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔



المسح الثانی نے جماعت کے نوجوانوں مردوں عورتوں بچوں بوڑھوں کو صحافت کی دنیا میں اتارا اور اس مختصر سے مضمون سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک چھوٹی سی جماعت نے علم اور صحافت کے میدان میں کس قدر اہم کر کیا ہے اور یہ سب حضرت خلیفہ المسح الثانی کی نظر خاص کا نتیجہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آج بھی ہم سب کو اس میدان میں اہم کردار ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔





# ..... رسالہ ریویو آف ریلیجنز.....

## دعوت اسلام کا صد سالہ عالمی سفیر

ایک پہلو پر بحث جلسہ کے وقت میں ہوگی۔ یہ خیراتی چندہ نہیں ہے ایک طور کی تجارت ہے جس میں شراکت صرف دینی تائید تک ہے۔ اس سے زیادہ کوئی امر نہیں۔ والسلام۔ اس امر کے متعلق خط و کتابت خواجہ کمال الدین صاحب پلیڈر پشاور سے کی جائے۔

(اشتر مرزا غلام احمد از قادیان 15 جنوری 1901ء)  
(مجموعہ اشتہارات حضرت مسیح موعود جلد سوم صفحہ 95-393)

### رسالہ کا اجراء ::

اس مبارک تجویز کے مطابق جنوری 1902ء سے حضرت مولانا محمد علی صاحب ایم اے (ولادت 1874ء بیعت 1893ء وفات 13 اکتوبر 1951ء) کی ادارت میں رسالہ ”ریویو آف ریلیجنز“ انگریزی میں اور مارچ 1902ء سے اردو زبان میں جاری ہو گیا۔ انگریزی میگزین تو ابتداء سے کچھ عرصہ تک صوبہ پنجاب کے دارالسلطنت لاہور سے شائع ہوتا رہا۔ مگر اردو ایڈیشن کا صرف پہلا اشوع مطبع فیض عام پریس لاہور میں چھپا بعد ازاں حضرت شیخ یعقوب علی صاحب (تراب ثم عرفانی) کے انوار احمدیہ پریس قادیان میں طبع ہونے لگا۔

### مسیح وقت کی قوت قدسی

### اور توجہ روحانی کا بے

### مثال اعجازی نشان ::

سیدنا حضرت مسیح موعودؑ کی انقلاب آفریں اور حقیقت افروز تحریرات اور اسکی روشنی میں احمدیت کے جدید کلام پر مشتمل مباحث چونکہ اس معرکہ آراء انگریزی میگزین کی زینت ہوتی تھیں اس لئے ابتدائی مہینوں میں ہی اس رسالہ نے اپنی عظمت اور جلالت شان کا سکہ بٹھا دیا۔ علاوہ ازیں مسیح دوراں کی قوت قدسی اور توجہ روحانی کا یہ بے مثال اعجازی نشان بھی جلوہ گر ہوا کہ رسالہ کی فصیح و بلیغ انگریزی زبان خود انگریزی بھی درطہ حیرت میں پڑ گئے۔ حتیٰ کہ بعض کو یہ دھوکہ ہو گیا کہ اس کا ایڈیٹر دراصل کوئی بلند پایہ انگریز ریسرچ سکارلر ہے جسے بانی احمدیت نے اپنے پاس چھپا رکھا ہے۔ چنانچہ ”دی کلکتہ ریویو“ کے انگریز ایڈیٹر نے اپریل 1902ء کے شمارہ میں یہ نہایت دلچسپ تبصرہ کیا کہ:-

"One word more and that to my friend the Mirza. He will see from the above how he may be a true reformer among his own body and also have the sympathy and good will of Christians : by standing in and occupying, the same position of Mohammad, and as in his Quran. From the evidence of English idioms peculiarly English, and never used by strangers, it is clear as daylight to any one that his deliverances in

مقصود بالذات ان مضامین کا شائع کرنا ہوگا جو تائید اسلام میں میرے ہاتھ سے نکلے ہوں اور جائز ہوگا کہ اور صاحبوں کے مذہبی یا قومی مضامین بھی بشرطیکہ ہم ان کو پسند کر لیں اس رسالہ میں شائع ہوں۔

اس رسالہ کی اشاعت کیلئے سب سے زیادہ دو امر قابل غور ہیں۔ ایک یہ کہ اس رسالہ کا نظم و نسق کس کے ہاتھ میں ہو اور دوسرا یہ کہ اس کے مستقل سرمایہ کی کیا تجویز ہو۔ سو امر اول کے متعلق ہم نے یہ پسند کیا ہے کہ اس اخبار کے ایڈیٹر مولوی محمد علی صاحب ایم اے پلیڈر اور خواجہ کمال الدین صاحب بی اے پلیڈر مقرر ہوں۔ اور ان ہردو صاحبان نے اس خدمت کو قبول کر لیا ہے۔ امر دوم سرمایہ ہے۔ سو اس کے متعلق بالفعل کسی قسم کی رائے زنی نہیں ہو سکتی۔ اور یہی ایک بڑا بھاری امر ہے جو سوچنے کے لائق ہے۔ اس

”جب یہ رسالہ آتا ہے تو پڑھے بغیر رہا بھی نہیں جاتا۔ اور جب پڑھتا ہوں تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے اور میں ڈرتا رہتا ہوں کہ میں ایک دین حق قبول کرنے کی وجہ سے خدا کا مجرم ہوں۔“

لئے قرین مصلحت یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مجلس دوستوں کی منعقد کر کے اس کے متعلق بحث کی جائے اور جو طریق بہتر اور اولیٰ معلوم ہو وہی اختیار کیا جائے۔ مگر یہ بات ظاہر کرنے کے لائق ہے کہ مجھے اس سرمایہ کے انتظام میں کچھ دخل نہیں ہوگا اور غالباً اس کو ایک امر تجارتی تصور کر کے ایسے ممبر مقرر کئے جائیں گے جو اس تجارت کے حصہ دار ہوں گے اور انہیں کی تجویز اور مشورہ سے جس طور سے مناسب سمجھیں گے یہ روپیہ جمع ہو کر کسی بنک میں جمع کیا جائے گا۔ لیکن چونکہ ایسے امور صرف اشتہارات سے تصفیہ نہیں پاسکتے لہذا میں نے مناسب سمجھا کہ اس جلسہ کیلئے بڑی عید کا دن قرار پاوے۔ اور جہاں تک ممکن ہو سکے ہمارے دوستوں کو شش کریں کہ اس دن قادیان پہنچ جائیں۔ تب سرمایہ کے متعلق بحث اور گفتگو ہو جائے گی۔ کہ کس طور سے یہ سرمایہ جمع ہونا چاہئے۔ اور اس کے خرچ کے لئے انتظام کیا ہوگا۔ یہ سب حاضرین جلسہ کی کثرت رائے پر فیصلہ ہوگا۔ بالفعل اس کا ذکر قبل از وقت ہے۔ ہاں ہر ایک صاحب کو چاہئے کہ اس رائے کے ظاہر کرنے کیلئے طیار ہو کر آئیں اور یہ یاد رکھیں کہ یہ چندہ صرف تجارتی طور پر ہوگا۔ اور ہر ایک چندہ دینے والا بقدر اپنے روپیہ کے اپنا حق اس تجارت میں قائم کرے گا۔ اور اس کے ہر

یہ مضمون محترم مولانا دوست محمد صاحب شاہد منورخ احمدیت ربوہ کا تصنیف کردہ ہے جسکی تلخیص بغرض اشاعت مکرّم سید منصور احمد شاہ صاحب ایڈیٹر رسالہ ریویو آف ریلیجنز نے ہمیں بھجوائی ہے۔..... (ادارہ)

اور میکر ٹری مرزا خدا بخش صاحب اتالیق جناب خان صاحب محمد علی خان صاحب رئیس مالیر کوئٹہ اور شیخ رحمت اللہ صاحب میونسپل کمشنر گجرات فشی غلام قادر صاحب فصیح داس پریزیڈنٹ ڈیویژنل کمشنریال کوٹ اور مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی قرار دئے گئے۔“ (مشمولہ آئینہ کمالات اسلام ضمیمہ صفحہ 14)

### رسالہ ریویو آف ریلیجنز

### کی اشاعت کا فیصلہ ::

اس پس منظر میں حضرت مسیح موعود علیہ

سال 1891ء میں 27 دسمبر کو دنیائے احمدیت کا پہلا سالانہ جلسہ قادیان دارالامان میں انعقاد پذیر ہوا جس کی ایک بنیادی غرض و غایت بذریعہ اشتہار 7 دسمبر 1891ء حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے درج ذیل الفاظ میں بیان فرمائی:-

”جلسہ میں یہ بھی ضروریات میں سے ہے کہ یورپ اور امریکہ کی دینی ہمدردی کیلئے تدابیر حسنہ پیش کی جائیں۔ کیونکہ اب یہ ثابت شدہ امر ہے کہ یورپ اور امریکہ کے سعید لوگ اسلام کے قبول کرنے کیلئے طیار ہو رہے ہیں اور اسلام کے تفرقہ مذاہب سے بہت لرزاں اور ہراساں ہیں۔ چنانچہ انہیں دنوں میں ایک انگریزی کی میرے نام چٹھی آئی جس میں لکھا تھا کہ آپ تمام جانداروں پر رحم رکھتے ہیں۔ اور ہم بھی انسان ہیں اور مستحق رحم۔ کیونکہ دین اسلام قبول کر چکے اور اسلام کی سچی اور صحیح تعلیم سے اب تک بے خبر ہیں۔ سو بھائیو یقیناً سمجھو کہ یہ ہمارے لئے ہی جماعت طیار ہونے والی ہے۔ خدا تعالیٰ کسی صادق کو بے جماعت نہیں چھوڑتا۔ انشاء اللہ القدر سچائی کی برکت ان سب کو اس طرف کھینچ لائے گی۔ خدا تعالیٰ نے آسمان پر یہی چاہا ہے اور کوئی نہیں کہ اس کو بدل سکے۔“

اس عالمگیر مقصد کی تکمیل کا پہلا قدم اگلے سال کے جلسہ 28 دسمبر 1892ء میں اٹھایا گیا۔ چنانچہ اس جلسہ کی روداد میں لکھا ہے کہ:-

### یورپ و امریکہ کیلئے

### رسالہ کا خیال ::

”28 دسمبر 1892ء کو یورپ اور امریکہ کی دینی ہمدردی کیلئے معزز حاضرین نے اپنی اپنی رائے پیش کی اور قرار پایا کہ ایک رسالہ جو اہم ضروریات اسلام کا جامع اور عقائد اسلام کا خوبصورت چہرہ معقولی طور پر دکھاتا ہو تالیف ہو کر اور پھر چھاپ کر یورپ اور امریکہ میں بہت سی کاپیاں اس کی بھیج دی جائیں۔ آئندہ بھی ہمیشہ اس سالانہ جلسہ کے یہی مقاصد رہیں گے کہ اشاعت اسلام اور ہمدردی نو مسلمین امریکہ اور یورپ کیلئے احسن تجاویز سوچی جائیں۔ ان اغراض کے پورا کرنے اور دیگر انتظامات کی غرض سے ایک کمیٹی بھی تجویز کی گئی جس کے صدر پریزیڈنٹ حضرت مولوی نور الدین صاحب بھیروی

السلام نے مغربی دنیا کے لئے ایک میگزین ”ریویو آف ریلیجنز“ کی اشاعت کا فیصلہ کر کے 15 جنوری 1901ء کو حسب ذیل اشتہار دیا:

### ایک ضروری تجویز ::

بسم اللہ الرحمن الرحیم

یہ امر ہمیشہ میرے لئے موجب غم اور پریشانی کا تھا کہ وہ تمام سچائیاں اور پاک معارف اور دین اسلام کی حمایت میں پختہ دلائل اور انسانی روح کو اطمینان دینے والی باتیں جو میرے پر ظاہر ہوئیں اور ہو رہی ہیں۔ ان تلی بخش براہین اور موثر تقریروں سے ملک کے تعلیم یافتہ لوگوں اور یورپ کے حق کے طالبوں کو اب تک کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ درد دل اس قدر تھا کہ آئندہ اس کی برداشت مشکل تھی۔ مگر چونکہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ قبل اس کے کہ ہم اس ناپائیدار گھر سے گزر جائیں ہمارے تمام مقاصد پورے کر دے اور ہمارے لئے وہ آخری سفر حسرت کا سفر نہ ہو۔ اس لئے اس مقصد کے پورا کرنے کیلئے جو ہماری زندگی کا اصل مقصود ہے ایک تدبیر پیدا ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ آج چند ایک احباب نے اپنے مخلصانہ مشورہ سے مجھے توجہ دلائی ہے کہ ایک رسالہ (میگزین) بزبان انگریزی مقاصد مذکورہ بالا کے اظہار کیلئے نکالا جائے جس میں



this newly started Review of Religions are written or concocted by a European an Englishman (here in again, curiously enough, reproducing exactly Mohammad and his Syrian Christian "Archangel Gabriel !"). To the European "behind the scenes" we say remember the old "Archangel Gabriel's" fate ! His motives may be good, but he is in a false way, and he can only come to heart (though it may not be the sudden and compulsory death of his predecessor) : let him take heed in time." (حوالہ ریویو آف ریلیجز صفحہ ۳۹۰)

خلاصہ اس تیرہ کا یہ تھا:

”انگریزی محاورات کی شہادت سے خالص انگریزی محاورے، جکو کوئی اجنبی آدمی استعمال کر ہی نہیں سکتا۔ یہ اظہر من الشمس ہے کہ اس نے رسالہ ریویو آف ریلیجز میں جو کچھ لکھا جاتا ہے وہ یورپین کی قلم سے نکلتا ہے جو انگریز ہے۔ اور یہ نقشہ جو اب ہمارے سامنے ہے یعنی محمد رسول اللہ ﷺ اور ان کے مددگار شامی عیسائی کی جس کو وہ جبریل کہتے تھے نقل ہے۔ اس یورپین کو جو پردے کی اوٹ میں چھپا ہوا کام کر رہا ہے ہم یہ نصیحت کرتے ہیں کہ پرانے جبریل (یعنی اس کے اختراع کردہ شامی عیسائی) کے انجام کو خوب سوچ لو۔ اگر اس یورپین کی نیت نیک بھی ہو تب بھی وہ جھوٹے رستہ پر پڑا ہوا ہے اور انجام کار یقیناً اس کو کوئی دکھ اور مصیبت پہنچے گی۔“

7 نومبر 1906ء کو سیدنا حضرت مسیح موعود نے ایک خطاب عام میں ارشاد فرمایا کہ ”ریویو کے ایڈیٹر مولوی محمد علی صاحب ایک لائق اور فاضل آدمی ہیں ایم اے پاس ہیں اور اس کے ساتھ دینی مناسبت رکھتے ہیں۔ ہمیشہ اول درجہ پر پاس ہوتے رہے ہیں اور ای اے سی میں ان کا نام درج تھا مگر سب باتوں کو چھوڑ کر یہاں بیٹھ گئے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کی تحریر میں برکت ڈالی ہے۔“

(ملفوظات جلد پنجم طبع جدید صفحہ 81)

**رسالہ ریویو کا پہلا زریں دور (جنوری 1902ء تا مئی 1908ء)**

**برصغیر اور مغربی دنیا پر اثر:** جیسا کہ سیدنا حضرت مسیح موعود نے مندرجہ بالا اشتہار میں تحریر فرمایا ہے کہ یہ انگریزی دارو میگزین اپنے آغاز کے پہلے سال ہی سند قبولیت حاصل کرنے لگا۔ اور برصغیر و مغربی دنیا میں حضرت مسیح موعود کے افکار و نظریات نے جو حضرت مولانا محمد علی صاحب کے انگریزی ترجمہ کی صورت میں منظر عام پر

آنا شروع ہوئے، مذہبی صفوں کے اندر زبردست جنبش پیدا کر ڈالی۔

**روسی مفکر نالستانی کے تاثرات:**

روس کے عظیم مفکر و مصنف کاؤنٹ لیو نالستانی (ولادت 9 ستمبر 1828ء وفات 20 نومبر 1910ء) کا شمار بیسویں صدی کی عظیم شخصیات میں ہوتا ہے۔ 1978ء میں نالستانی کا ڈیڑھ سو سالہ یوم پیدائش پورے روس میں انتہائی جوش و عقیدت سے منایا گیا۔ مشہور عالم روسی ادیب گورکی نے اسکی وفات پر ایک مضمون لکھا جس کے آخری جملہ میں اس نے نالستانی سے اپنی ملاقات کے حوالہ سے اپنے جذبات کا بایں الفاظ میں اظہار کیا:

”میں خدا پر اعتقاد نہیں رکھتا بعض وجوہ کی بناء پر میں نے اپنے آپ کو اسے (نالستانی) غور سے دیکھتے اور کچھ فجالت کے ساتھ سوچتے پایا یہ آدمی خدا کی طرح ہے۔“

حضرت مفتی محمد صادق صاحب بانی احمدیہ مشن امریکہ کا بیان ہے:

روسی رفاہر کوٹ نالستانی کو تبلیغ عاجز راقم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زندگی میں کی اور آپ کے وصال کے بعد اپنے ولایت جانے

سب سے بڑے محافظ ہیں اور جن کو خدائے قادر کی طرف سے مسیح موعود ہونے کا خطاب عطا کیا گیا ہے۔ کیونکہ ایک سچے خدا کی سچی محبت میں وہ کامل پائے گئے ہیں۔ وہ اس زمانہ میں منجانب اللہ مصلح اور خدا کے سچے رسول ہیں۔ وہ سب جو اس مسیح پر ایمان لائیں گے خدا کی طرف سے برکتیں پائیں گے۔ پر جو کوئی انکار کرے گا اس پر فیور خدا کا غضب بھڑکے گا۔ میں آپ کو ایک علیحدہ پیکٹ میں خدا کے اس مقدس بندے کی تصویر بمع یسوع کی قبر کی تصویر کے روانہ کرتا ہوں۔ آپ کا جواب آنے پر میں بخوشی اور کتابیں آپ کو ارسال کروں گا۔

میں ہوں آپ کا خیر خواہ

مفتی محمد صادق از قادیان (28 اپریل 1903ء) اس خط کے جواب میں 29 جون کو مفصلہ ذیل خط کوٹ نالستانی کی طرف سے آیا:

”بخدمت مفتی محمد صادق صاحب

پیارے صاحب! آپ کا خط بمع مرزا غلام احمد صاحب کی تصویر اور میگزین ریویو آف ریلیجز کے ایک نمونے کے پرچے کے ملا۔ وفات عیسیٰ کے ثبوت اور اس کی قبر کی تحقیقات میں مشغول ہونا بالکل بے فائدہ کوشش ہے۔ کیونکہ عقل مند انسان حیات عیسیٰ کا کبھی قائل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیں معقول مذہبی تعلیم کی ضرورت ہے اور اگر مرزا احمد صاحب کوئی نیا

**”جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے اور اس فکر میں مجھے راتوں نیند نہیں آتی۔“**

معقول مسئلہ پیش کریں گے تو میں بڑی خوشی سے اس سے فائدہ اٹھانے کیلئے تیار ہوں۔ میگزین کے نمونے کے پرچے میں مجھے دو مضمون بہت ہی پسند آئے یعنی گناہ سے کس طرح آزادی ہو سکتی ہے اور آئندہ زندگی کے مضامین خصوصاً دوسرا مضمون مجھے بہت پسند آیا۔ نہایت ہی شاندار اور صداقت سے بھرے ہوئے خیالات ان مضامین میں ظاہر کئے گئے ہیں۔ میں آپ کا نہایت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ پرچہ بھیجا۔ اور آپ کی چینی کے سبب بھی میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں۔

میں ہوں آپ کا مخلص

نالستانی از ملک روس (5 جون 1903ء) ”ذکر حبیب“ 401۲399 مطبوعہ قادیان دارالامان اشاعت اول دسمبر 1936ء

**تاثرات:**

اندرون ملک میں پہلے ہی سال اس سے متاثر ہو کر کئی سعید روجوں نے حق قبول کیا بلکہ مدراس کے ایک ہندو دوست رسالہ کا اپنی زبان میں ترجمہ سن کر حضرت اقدس کی زیارت کے شوق میں قادیان بھی پہنچے۔ علاوہ ازیں ملک کے اسلامی اخبارات نے اس پر تبصرے لکھے۔ چنانچہ رسالہ ”البیان“ (لکھنؤ) نے

”ریویو آف ریلیجز ہی ایک ایسا پرچہ ہے جس کو خالص اسلامی پرچہ کہنا صحیح ہے۔ ہم نے اس کے کئی نمبر دیکھے اور ہم کو اس امر کے ظاہر کرنے میں کوئی تاثر نہیں کہ عربی میں ”المنار“ اور اردو میں ”ریویو آف ریلیجز“ سے بہتر پرچے کسی زبان میں شائع نہیں ہوتے۔ مسلمانوں کو خوش ہونا چاہئے کہ ہندوستان میں ایک ایسا رسالہ نکل رہا ہے جس کے زوردار مضامین پر علم و فضل کو ناز ہے۔“

پھر لکھا ہے کہ: ”ہندوستان کا بہترین اسلامی میگزین ہے۔“

رسائل کے علاوہ عوام نے بھی اس رسالہ کا بڑا خیر مقدم کیا۔ چنانچہ مسٹر میکبلین (پالم پور) نے لکھا: ”مجھے اسلام کا مطالعہ کرتے ہوئے تیرہ سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے۔ مگر اب تک میں نے ایک بھی ایسی کتاب نہیں پڑھی جس میں اسلام کی حمایت اس قدر زور کے ساتھ کی گئی ہو جیسا کہ آپ کے شاندار پرچے میں۔“

اخبار ”ملت“ لاہور نے لکھا:

”اب تک جتنے اعلیٰ اور بے نظیر مضامین رسالہ ریویو آف ریلیجز کے ذریعہ مرزا صاحب کے اصول مناظرہ کے مطابق یورپین لوگوں کی نظروں سے گزرے ہیں انہوں نے یورپ کی مذہبی دنیا میں بالکل بچا دی ہے اور پادریوں کے گروہ ماتم زدہ نظر آ رہے ہیں۔ ان مضامین نے کثیر التعداد یورپین لوگوں کو اسلام کے روحانی چشمہ سے سیراب کر دیا ہے اور ابھی اس کا فیض جاری ہے۔“

**دو ایمان افروز چشم دید واقعات:**

**واقعات:**

سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی حضرت مولانا محمد علی صاحب خسر معظم و مکرم جناب ڈاکٹر بشارت احمد صاحب (ولادت اکتوبر 1876 بیعت 1902ء وفات 21 اپریل 1943ء) تحریر فرماتے ہیں:

”ضلع سرگودھا پنجاب کے ایک زمیندار چودھری حاکم علی صاحب نے جو احمدی تھے، انگریزی رسالہ ریویو آف ریلیجز مسٹر میکلم ہیلی کے نام مفت جاری کروا دیا جو ہتہم آبادی ضلع سرگودھا تھے (یہی ہیلی صاحب بڑے میں سر میکلم ہیلی کے نام سے گورنر پنجاب بنے اور بعد میں گورنر یوپی بھی ہو گئے تھے) رسالہ کے جاری ہونے کے کچھ عرصہ بعد چودھری صاحب موصوف ہیلی صاحب سے ملے تو صاحب بہادر نے کہا کہ تم نے یہ رسالہ جاری کروا کر مجھے تکلیف میں ڈال دیا۔ چودھری صاحب نے پوچھا وہ کیونکر۔ صاحب بہادر نے فرمایا کہ:

”جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے اور اس فکر میں مجھے راتوں نیند نہیں آتی۔“



اسی طرح کا دوسرا واقعہ فقیر افتخار الدین صاحب نائب مہتمم بندوبست راولپنڈی نے خاکسار مؤلف کو سنایا تھا۔ کسی معزز انگریز افسر کے نام یہ رسالہ مفت آتا تھا۔ اس نے ایک دن فقیر صاحب سے کہا کہ آپ اس رسالہ کو کیا بند نہیں کروا سکتے؟ انہوں نے وجہ پوچھی تو کہا کہ:

”جب یہ رسالہ آتا ہے تو پڑھے بغیر رہا بھی نہیں جاتا۔ اور جب پڑھتا ہوں تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے اور میں ڈرتا رہتا ہوں کہ میں ایک دین حق قبول کرنے کی وجہ سے خدا کا مجرم ہوں۔“

(مجدد اعظم حصہ دوم صفحہ 835 ناشر احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور طبع اول دسمبر 1940ء)

### دوسرا دور مئی 1908ء تا مارچ 1914ء::

حضرت خلیفہ اول عہد حاضر کے بے مثال عاشق قرآن تھے۔ اس لئے رسالہ ریویو آف ریلیجنز جس کا مقصد وحید ہی قرآنی حقائق کی دنیا بھر میں اشاعت تھا آپ کے عہد خلافت میں مخالفتوں اور مزاحمتوں کے طوفانوں کو چیرتے ہوئے ترقی کی شاہراہ پر گامزن رہا۔ چنانچہ جہاں اس دور میں حضرت مسیح موعودؑ کی معجزات اور جہاد سے متعلق تحریرات نیز پیغام صلح کے تراجم شائع ہوئے بلکہ بہت سے نئے قلمی معاونین ایسے میدان عمل میں آگئے جنہوں نے اپنے تحقیقی اور علمی اور مستند معلومات پر مشتمل مضامین اور مقالہ جات سے اس کے معیار اور افادیت کو چار چاند لگا دئے۔ چنانچہ ہستی باری تعالیٰ، تاریخ اشاعت اسلام، اسلام اور طبقہ نسواں، کامل مذہب، اسلام اور جدید معاشرہ، حج بیت اللہ، اسلام اور عصر حاضر، اسلام اور غلامی، بدھ مت سکھ ازم اور اسلام، یہود کے گمشدہ قبائل، عیسائیت کے تضادات، مسیح اور صلیب، عیسائیت اور غلامی، احمد ایک نبی کی حیثیت سے، حضرت مسیح موعودؑ کا وصال اور پریس کا تبصرہ وغیرہ اہم مباحث اس زمانہ میں قارئین کی معلومات میں پیش بہا اضافہ کا موجب بنے۔ اس دور کے قلمی معاونین میں سے بعض دیگر اہم شخصیات کے نام یہ ہیں:

حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب، حضرت مفتی محمد صادق صاحب ایڈیٹر بدر، حضرت قاضی عبدالحق صاحب بی اے، پروفیسر عطاء الرحمن صاحب ایم اے بنگالی، پروفیسر راج شاہی، حضرت ماسٹر مولوی محمد الدین صاحب بی اے، مولوی بشارت احمد صاحب، ڈاکٹر اے جارج بیکر، خالد شیلڈرک آفریدی، مگنی الناصر پارکنسن، حضرت خواجہ کمال الدین صاحب بی اے ایل ایل بی پلڈر مٹیم دوکنگ، حضرت خواجہ صاحب نے پریس میں منعقدہ (19 جولائی 1913ء) کو چھٹی مذاہب کانگریس میں اسلامک ریویو کا ایک مضمون پڑھا تھا جو رسالہ کے شمارہ

اکتوبر 1913ء میں شامل اشاعت کیا گیا۔ مولوی صدر الدین صاحب بی اے بی ٹی ہیڈ ماسٹر تعلیم الاسلام قادیان ان نامور اہل علم بزرگوں کے علاوہ رسالہ کو دینی و علمی مرقع بنانے اور اس کے معیار کو بلند سے بلند کرنے والے سب سے زیادہ قلمی جہاد کرنے والے جس فرشتہ سیرت تقویٰ کی چلتی پھرتی تصویر اور پیکر انکسار و تواضع وجود نے اس رسالہ کی ترقی کیلئے اپنے تئیں بے جگری سے وقف کئے رکھا وہ حضرت مولانا شیر علی صاحب بی اے (ولادت 24 نومبر 1875ء اور بیعت 1897ء وفات 13 نومبر 1947ء) تھے جو قبل ازیں تعلیم الاسلام اسکول قادیان کے ہیڈ ماسٹر تھے اور ساتھ ہی رسالہ ریویو آف ریلیجنز کے خصوصی مضمون نگار کی حیثیت سے اب تک بیش قیمت علمی خدمات بھی بجالا رہے تھے۔ المہدی سے متعلق پانچ اقساط پر مشتمل مقالہ انہیں ایام میں آپ کے قلم سے شائع ہوا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اشتهار اکتوبر 1899ء میں جن مخلص انگریزی خوان احباب کا ذکر فرمایا ان میں آپ کا تذکرہ بھی ہے حضور ایدہ اللہ نے فرمایا:

”کئی دوست مخلصین انگریزی خوان ہیں جیسے عزیز مرزا ایوب بیگ صاحب برادر ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب اور خواجہ کمال الدین صاحب بی اے اور خواجہ جمال الدین صاحب بی اے اور مولوی شیر علی صاحب بی اے۔ ان سب پر مجھے نیک ظن ہے۔ خدا اس نیک ظن کو بحال رکھے اور یہ لوگ اپنے وقتوں پر خدمات میں مستعد رہیں۔ اور میرے خیال میں مولوی شیر علی صاحب نیک طبع، نیک مزاج اور سلامت طبع ہیں مولوی محمد علی صاحب سے مشابہ ہیں اور اسی جگہ قادیان میں رہتے ہیں۔“

(اشہار 10 اکتوبر 1899ء) مجموعہ اشہارات جلد سوم صفحہ 153)

عہد خلافت اولیٰ کے دوسرے سال یکم جون 1909ء کو آپ ہی رسالہ ریویو آف ریلیجنز کے ایڈیٹر مقرر کر دئے گئے۔ چنانچہ صدر انجمن احمدیہ قادیان کے سالانہ جلسہ منعقدہ 25-26-27 مارچ 1910ء پر حضرت مولانا محمد علی صاحب نے اپنی رپورٹ میں فرمایا:

”مولوی صدر الدین صاحب بی اے بی ٹی کے مدرسہ میں آنے پر مولوی شیر علی صاحب بی اے میگزین میں آگئے۔ مولوی صاحب موصوف پہلے بھی ہیڈ ماسٹری کے زمانہ میں ریویو میں مضامین لکھ کر وقتاً فوقتاً امداد دیتے رہتے تھے اب جب ان کا سارا وقت اس کام کیلئے خالی ہو گیا تو ایڈیٹر کو اس سے فراغت مل گئی۔ چنانچہ یکم جون 1909ء سے ریویو کیلئے مضمون نویسی کا کل کام مولوی شیر علی صاحب کے سپرد ہو کر ایڈیٹر (یعنی مولانا محمد علی صاحب - ناقل) کے سپرد ترجمہ قرآن شریف کا کام کیا گیا۔ (صدر انجمن احمدیہ قادیان کی چوتھی سالانہ رپورٹ از یکم اکتوبر 1908ء لغایت 30 ستمبر 1909ء صفحہ 38 مطبع میگزین

قادیان باہتمام حضرت منشی فقیر اللہ صاحب) حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قوت قدسی اور فیض روحانی کی بدولت آپ بھی انگریزی کے بے مثال انشاء پرداز بن گئے جس کی شاندار جھلکیاں آپ کے زمانہ ادارت کے ہر پرچے سے عیاں تھیں اور انگریز تک اس سے بہت متاثر تھے۔ حضرت ڈاکٹر محمد عبداللہ صاحب ساکن قلعہ صوبہ سنگھ کی عینی شہادت ہے کہ:

”حضرت خلیفہ المسیح الاول کے زمانہ کا ذکر ہے کہ جب حضرت مولوی شیر علی صاحب ریویو آف ریلیجنز کی ادارت کے فرائض انجام دیتے تھے کہ ایک مرتبہ دو انگریز قادیان آئے وہ حضرت نواب محمد علی صاحب کی کوشی کے شمالی جانب سے گزرے تو قریب ہی حضرت مولوی شیر علی صاحب اپنی بھینس چرا رہے تھے۔ آپ کا گریبان کھلا ہوا تھا اور نہایت سادہ لباس میں ملبوس تھے ان انگریز افسروں میں سے ایک نے حضرت مولوی صاحب سے پوچھا کہ ہمیں ریویو آف ریلیجنز کے ایڈیٹر سے ملنا ہے وہ کس جگہ ملیں گے تو حضرت مولوی صاحب نے فرمایا چلئے میں آپ کو ان کے مکان پر لے چلتا ہوں اور اپنے ہمراہ انکو اپنی بیٹھک میں بٹھا کر فرمایا آپ تشریف رکھیں میں انہیں بلاتا ہوں۔“

حضرت مولوی صاحب کا مقصد تھا کہ چائے وغیرہ تیار کریں باتوں باتوں میں تعارف بھی ہو جائے گا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کے گھر پر ہی لے چلیں راستہ میں مل لیں گے۔ اس پر حضرت مولوی صاحب نے فرمایا: ”ریویو کا ایڈیٹر تو میں ہی ہوں۔“ یہ دونوں افسر یہ سن کر بے حد حیران ہوئے اور بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا ”ہم تو سمجھتے تھے کہ اس رسالہ کا ایڈیٹر کوئی انگریز ہوگا۔“

(سیرت حضرت مولانا شیر علی صاحب صفحہ 189-190 مؤلفہ ملک نذیر احمد صاحب ریاض واقف زندگی)

### تیسرا دور مارچ 1914ء تا 1947ء::

سیدنا حضرت اقدس خلیفہ المسیح الثانی نے فرمایا: ”میں یورپ میں تبلیغ کے سوال پر آج تک خاموش رہا۔ اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ میں اس سوال کا فیصلہ نہ کر سکتا تھا۔ نہیں بلکہ میں نے احتیاط سے کام لیا کہ جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ وہاں کے حالات کا بہترین علم رکھتے ہیں۔ میں چونکہ وہاں نہیں گیا اس لئے مجھے خاموش رہنا چاہئے۔ لیکن جو لوگ وہاں گئے ہیں ان میں سے بعض نے لکھا ہے کہ حضرت صاحب کا ذکر لوگ سنتے ہیں اور ہماری تبلیغ میں حضرت صاحب کا ذکر ہونا چاہئے۔ اس کے علاوہ خود حضرت صاحب نے یورپ میں تبلیغ کیلئے یہی فرمایا کہ اس سلسلہ کو پیش کیا جاوے اور جو کشف آپ نے دیکھا تھا اس کے بھی یہی معنی کئے کہ میری تحریریں وہاں پہنچیں گی۔ ان تمام امور پر غور کر کے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ممالک

غیر اور یورپ میں بھی اس سلسلہ کی اشاعت ہو اور ہمارے مبلغ وہاں جا کر انہیں بتائیں کہ تمہارا مذہب مردہ ہے اس میں زندگی کی روح نہیں ہے زندہ مذہب صرف اسلام ہے جس کی زندگی کا ثبوت اس زمانہ میں بھی ملتا ہے کہ حضرت مسیح موعودؑ نازل ہوئے۔ غرض وہاں بھی سلسلہ کا پیغام پہنچایا جائے اور جہاں ہم سردست داعی نہیں بھیج سکتے وہاں ٹریکٹ اور چھوٹے چھوٹے رسالے چھپوا کر تقسیم کریں۔“

(منصب خلافت طبع اول صفحہ 20-22 مطبوعہ اللہ بخش شمیم پریس قادیان)

اس عزم کے ساتھ ہی رسالہ ریویو آف ریلیجنز کی اشاعت کا سلسلہ کسی قفل کے بغیر از سر نو شاہراہ ترقی کی طرف گامزن ہو گیا۔ اور پھر دیکھتے دیکھتے دنیا میں احمدی مشنوں کا گویا جال بچھ گیا۔ اور ممالک عالم میں سعید روحیں بکثرت حقیقی اسلام کے جھنڈے تلے جمع ہونی شروع ہو گئیں۔ اس عظیم تغیر کے برپا کرنے میں اس رسالہ نے ناقابل فراموش کردار ادا کیا یہی وجہ ہے کہ یورپ و امریکہ کے مفکرین اور اہل قلم نے اس کی خدمات کا کھلے بندوں اعتراف کیا مثلاً:

1. مسٹر جارج فوٹ مور (George Foot Moor, D.D., L.L.D.L.I.T.D) پروفیسر تاریخ مذاہب ہارڈ یونیورسٹی نے لکھا:

"Ahmad died in 1908, but the progress of the movement continued, and it has been recently estimated that its adherents now number perhaps 50,000. It, also, has established its missionary outposts in the west, and publishes in English the "Review of Religions" in India, and the "Islamic Review" in England. An edition of the koran in sumptuous form, with an English translation, and a commentary embodying the sectarian interpretation, has been begun."

(History of religion page 520 New York Charles Scribner's son 1919)

رسالہ کے اس تیسرے دور کے آخر تک نقشہ عالم پر تحریک احمدیت کا کس درجہ عظیم الشان اثر و نفوذ ہو چکا تھا اس کا کسی قدر اندازہ انسائیکلو پیڈیا بریٹینیکا، "Encyclopedia Britannica, Ltd. Chicago, London, Toronto" کے ایڈیشن 1947ء کے درج ذیل



نوٹ سے با آسانی لگایا جاسکتا ہے۔ لفظ اسلام کے تحت زیر عنوان نئی تحریکات یا ترقیات Recent Development لکھا ہے:

### Recent Development

In modern times the most important sectarian developments have been those of the Wahhabies (q.v), the Babies (see Babism), and the Ahmadiyya. The last of these movements was started by Mirza Ghulam Ahmad, who, in 1879 began to preach in the village of Qadian in the province of Punjab, India. He claimed to be not only the promised Mahdi but also the promised Messiah--personages generally held to be distinct in ordinary Muslim theology. Another modification he introduced into Islamic doctrine had reference to the death of Jesus; the commonly accepted belief maintains that Jesus was taken by God alive into heaven, while a phantom was crucified in his place; in opposition to this he declared that Jesus was actually crucified, but was taken down from the cross, while still alive by his disciples, was healed of his wounds and afterward made his way into Kashmir, where he finally died, his tomb being still in existence in the city of Srinagar. Having thus removed the ground for any expectation of the second coming of Jesus from heaven to earth, he explained that he himself was the Messiah not as being an incarnation of Jesus (for he rejected the doctrine of transmigration), but as having come in the likeness of Jesus--being Jesus for this generation just as John the Baptist was Elijah, because he came in the spirit and power of

Elijah.

In proof that he had come in the spirit and power of Jesus, Mirza Ghulam Ahmad adduced the likeness of his own character and personality to that of Jesus, his gentleness of spirit, the peaceful character of his teaching his miracles and the appropriateness of his teaching to the need of the age, In harmony with this pacific claim, he expounded the doctrine of Jihad (Usually interpreted as meaning war against unbelievers) as a striving after righteousness. Mirza Ghulam Ahmad died in 1908 and a few years after his death his followers split into two parties, one having its headquarters in Qadian and the other in Lahor. Both these sections of the community succeeded in enlisting the services of devoted self sacrificing men, who are unceasingly active as propagandist controversialist and Pamphleteers. They control and extensive missionary activity not only in India West Africa Mauritius and Java. (Where their efforts are mainly directed towards persuading their co-religionist to join the Ahmadiyya Sect.) But also in Berlin, Chicago and London. Their missionaries have devoted special effort to winning European Converts. And have achieved a considerable measure of success in their literature they give such a presentation of Islam as they consider calculated to attract persons who have received an education on modern lines and does not only attract non Muslim. And rebut the attack made on Islam by Christian

controversialist but win back to the faith Muslim who have come under agnostic or rationalist influences.

اس 33 سالہ دور میں سلسلہ احمدیہ کے جن اکابر اور مشاہیر نے رسالہ کی ادارت کے فرائض انجام دئے ان کے نام یہ ہیں:- قمر الانبیاء حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے، حضرت مولانا بشیر علی صاحب، حضرت مولوی محمد دین صاحب بی اے، حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب درد ایم اے، حضرت مولانا خان صاحب فرزند علی صاحب، حضرت ملک غلام فرید صاحب ایم اے، صوفی عبدالقدیر صاحب نیاز و حضرت چوہدری علی محمد صاحب بے اے بی ٹی۔

### چوتھا دور دسمبر 1951ء تا

نومبر 1965ء::

اگست 1947ء میں برصغیر کی تقسیم کے ساتھ ہی جنوبی ایشیا کا یہ خطہ ایک خونچکاں قیامت سے دوچار ہو گیا اور قادیان کے ۳۱۳ بزرگ درویشوں کے سوا مشرقی پنجاب کی تمام جماعتوں کو قتل و غارت اور آتش زنی کے خوفناک طوفانوں کو چیر کے نوزائندہ مملکت پاکستان میں پناہ لینی پڑی۔ احمدیت کے دائمی مرکز سے ہجرت کے بعد بظاہر تحریک احمدیت کا درخت اپنی جڑوں سے اکھڑتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ مگر جماعت احمدیہ کے اولوالعزم اور فقید المثال آسمانی قائد نے رب قدر کی قدرتوں کا مجسم نشان بن کر اگلے ہی سال 20 ستمبر 1948ء کو ربوہ جیسا عالمگیر اسلامی مرکز قائم کر کے دکھلایا اور پھر دو سال بعد دسمبر 1951ء میں مجاہد امریکہ صوفی مطیع الرحمن صاحب بنگالی کی ادارت میں رسالہ ریویو آف ریپبلکنز کا احیاء عمل میں آیا۔ آپ کی وفات کے بعد چودھری مظفر دین صاحب بنگالی اس کے ایڈیٹر مقرر کئے گئے ہیں۔ بعد ازاں 10 فروری 1960ء سے 6 دسمبر 1967ء تک سید میر داؤد احمد صاحب بی ایس سی پرنسپل جامعہ احمدیہ ربوہ کو مہینہ ایڈیٹر کے فرائض بجالانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ (وفات 24-23 اپریل 1973ء)

### پانچواں دور (نومبر 1965ء تا

جون 1982ء)::

ناقلہ موعود اور ذوالقرنین وقت سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمۃ اللہ علیہ (ولادت 6 نومبر 1909ء وفات 8-9 جون 1982ء کے مبارک عہد خلافت میں بھی ریویو کا قافلہ علم و عرفان برق رفتاری سے ترقی کی شاہراہ پر گامزن رہا۔ حسب دستور خلیفہ وقت کے فرمودات، خطبات اور بیانات کے علاوہ بہت سے اہم مضامین اس دور میں سپرد اشاعت ہوئے۔

### چھٹا دور (جون 1982ء تا

2002ء)::

سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود کے مبارک

ہاتھوں سے جاری رسالہ ”ریویو آف ریپبلکنز“ اپنی مظہر و منصور 80 سالہ زندگی کا سفر ہمارے مقدس امام حضرت خلیفۃ المسیح الرابع (ولادت 18 دسمبر 1928ء) کے تاریخ ساز اور عہد آفرین عہد خلافت میں داخل ہوتا ہے جن کی نسبت حضرت اقدس کو خدا تعالیٰ نے وعدہ دیا کہ:

”تیری برکات کا دوبارہ نور ظاہر کرنے کیلئے تجھ سے ہی اور تیری ہی نسل میں سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا جس میں میں روح القدس کی برکات پھونکوں گا وہ پاک باطن اور خدا سے نہایت پاک تعلق رکھنے والا ہوگا جو با خدا آسمان سے نازل ہوا۔“ (تحفہ گولڈویہ طبع اول ص 57-56 اشاعت 1902ء)

یہ ایسا انقلاب انگیز دور ہے کہ اس کے ابتداء ہی میں اس رسالہ کی تاثیرات کا غیر معمولی ظہور شروع ہو گیا۔

### نظم و نسق و ارکان ادارہ::

1983ء کے ابتداء میں محترم بشیر احمد خان صاحب رفیق اور مسٹر بشیر احمد آرچرڈ نے ایڈیٹر کے فرائض ادا کئے ازاں بعد رسالہ کو حضرت خلیفۃ المسیح الرابع کی براہ راست ذاتی دلچسپی اور زبردست رہنمائی کی برکتیں پہلے سے بڑھ کر عطا ہونی شروع ہو گئیں اور حضور کی ہدایت پر اس کے معیار، افادیت اور اثر انگیزی میں اضافہ کیلئے اس کا نظم نسق ایڈیٹریل بورڈ کے سپرد ہوا۔ جنوری 1989ء میں بورڈ کے درج ذیل ممبران تھے: محترم بشیر احمد خان رفیق (چیئر مین) بشیر احمد صاحب آرچرڈ (ایڈیٹر) مولوی مبارک احمد صاحب ساقی، ایم اے راشد، امطل ایم چودھری (اسسٹنٹ ایڈیٹر)۔ کچھ عرصہ بعد جنوری 1995ء میں بورڈ کی از سر نو تشکیل ہوئی اور جناب رفیق احمد حیات صاحب چیئر مین اور مینجمنٹ بورڈ کے صدر جناب نصیر احمد قمر ایڈیشنل وکیل الاشاعت اور مدیر الفضل انٹرنیشنل لندن مقرر ہوئے۔

اب 2002ء کے آغاز سے حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی منظوری سے سید منصور احمد شاہ صاحب رسالہ کے نئے مدیر اعلیٰ و منیجر مقرر ہوئے ہیں۔ الہم ایدہ بروح القدس۔

اس دور کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ رسالہ ریویو آف ریپبلکنز کی بیش قیمت اور انمول مضامین کی فلم ایک امریکن کمپنی نے تیار کی اور آئندہ نسل کے استفادہ کیلئے یہ خزانہ قیامت تک محفوظ ہو گیا۔ ریویو آف ریپبلکنز جنوری 1983ء میں دنیائے احمدیت تک پہلی بار درج ذیل الفاظ میں یہ خوشخبری پہنچی:

### Review of Religions

is Also Available On

MICRO-FILM FROM

UNIVERSITY MICRO-FILMS

An Xerox Company Ann Arbor

Michigan 48106 U.S.A





## حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرانقدر علمی کاوشوں کا شمارہ

مکرم مولانا محمد یوسف صاحب انور استاذ جامعہ احمدیہ قادیان

انسانی زندگی کے آغاز میں جبکہ ابھی تہذیب نے جنم بھی نہیں لیا تھا اس وقت بھی انسان کی خواہش تھی کہ وہ جس معاشرہ میں رہ رہا ہے اس کے ارد گرد کے لوگ اجنبی نہ رہیں اسلئے مختلف انداز اور طور طریقے سے ایک دوسرے کو متعارف کیا جاتا رہا ہے۔ تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے جہاں دنیاوی علوم کو پھیلانے میں ہر ممکن کوشش کی جاتی رہی ہے وہاں روحانی علوم کو پھیلانے میں کوئی قصور نہیں چھوڑی گئی ہے۔ جس طرح ایک انسان اپنے گھر محلے پھر حلقے بلکہ شہر اور صوبے پھر سارے ملک میں اپنی شناسائی کو وسیع کرنا چاہتا ہے اور اسکے لئے اسے مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے دور حاضر میں انسان کی خواہش نہ صرف تقریر، کتب، رسائل اور اخبار تک محدود رہی بلکہ زمانے کی ترقی کے ساتھ ساتھ آج وہ ریڈیو، ٹیلیوژن کے ذریعہ تکمیل کے مراحل طے کر چکی ہے اور اب ہم ڈش انٹینا کے ذریعہ پوری دنیا کی خبریں سن اور دیکھ سکتے ہیں، اس طرح اب گویا پوری دنیا ایک شہر کا منظر پیش کرتی ہے۔ اور ہر شخص ایک دوسرے سے باخبر رہتا ہے۔ جن دنوں رسالہ ہذا کی اشاعت شروع ہوئی اس وقت اگرچہ ہندوستان میں کچھ اور اردو اخبارات شائع ہوتے تھے لیکن دینی اور روحانی اعتبار سے اس رسالے کے ذریعہ ہزاروں لوگ مستفید ہوتے رہے اور خاص طور پر حقیقی اسلام اور احمدیت سے متعارف ہوتے رہے۔ انجمن ہمدردان اسلام 1897ء میں جبکہ حضورؐ کی عمر 8-9 سال کی تھی، قادیان کے احمدی نوجوانوں کی ایک انجمن قائم ہوئی جس کے سرپرست حضرت خلیفۃ المسیح الاول مولانا نور الدینؒ تھے۔ اول اڈل اس کے اجلاس پرانے اور قدیم مہمان خانے میں ہوا کرتے تھے اور اس وقت زیادہ سے زیادہ چھ سات ممبر تھے جن میں ایک سرگرم ممبر آپ بھی تھے۔ حضرت بھائی عبدالرحمن صاحب قادیانی تحریر فرماتے ہیں:

”تشیح الاذہان کا پہلا اور ابتدائی نام انجمن ہمدردان اسلام تھا جو بالکل ابتدائی ایام اور پرانے زمانہ کی یادگار ہے جبکہ سیدنا محمود بمشکل آٹھ نو برس کے تھے۔ آپ کے دینی شغف اور روحانی ارتقاء کی یہ پہلی سیڑھی تھی۔ جو حقیقتاً آپ ہی کی تحریک خواہش اور آرزو پر قائم ہوئی تھی۔ کھیل کود اور بچپن کے دوسرے اشغال میں انہماک کے باوجود آپ کے دل میں خدمت اسلام کا ایسا جوش اور جذبہ نظر آیا کرتا تھا جس کی نظیر بڑے بوزھوں میں بھی شاذ ہی ہوا کرتی تھی۔ آپ کی ہر ادا میں اس کا جلوہ اور حرکت میں اس کا رنگ غالب و نمایاں ہے جس سے آپ کی کھیلوں کے دیکھنے اور

مشاغل کو جانچنے کا اکثر موقع ملتا تھا۔ گھنٹوں آپ مطب میں تشریف لا کر ہم میں بیٹھا کرتے تھے کبھی ٹیمیں بنا کر تین اور کھیلوں کے مقابلوں کی تجاویز ہوا کرتیں۔ کبھی فوجیں بنا کر مصنوعی جنگوں کا انتظام ہوتا۔ کبھی ڈاکو اور چوروں کا تعاقب ہوتا ان کی گرفتاری کے سامان ہوتے اور مقدمات سن کر فیصلے کئے جاتے اور سزائیں دی جاتیں اور کارہائے نمایاں کرنے والوں کو انعام و اکرام ملتے تو کبھی بحث و مباحثات اور علمی مقابلوں کا رنگ جما کرتا۔ گرما گرم بحث ہوتی۔ ججز مقرر ہوتے اور فاتح و مغلوب کا فیصلہ ہوتا۔ الغرض ایسے ہی مشاغل اور مصروفیتوں کے نتائج میں سے ایک انجمن ہمدردان اسلام کا قیام بھی ہے جو آپ کی خواہش، مرضی اور فشا کے مطابق قائم کی گئی۔“

حضرت مولانا نور الدینؒ حضرت فضل عمرؒ کی ذات والا صفات کی وجہ سے ہماری طرف خاص توجہ فرماتے۔ ہماری انجمن کے اکثر اجلاسوں میں شریک ہو کر ہدایات دیتے۔ اسی ہماری انجمن میں ایک مرتبہ سیدنا نور الدینؒ شریک تھے۔

ہمارے آقائے نامدار سیدنا حضرت اقدس مسیح موعودؑ کے نور نظر لخت جگر نے تقریر فرمائی۔ تقریر کیا تھی علم و معرفت کا دریا اور روحانیت کا ایک سمندر تھا۔ تقریر کے خاتمہ پر حضرت مولانا نور الدینؒ کھڑے ہوئے اور آپ نے..... آپ کی تقریر کی بے حد تعریف فرمائی۔ قوت بیان اور روانی کی داد دی۔ نکات قرآنی اور لطیف استدلال پر بڑے تپاک اور محبت سے مرجبا جزاک اللہ کہتے ہوئے، دعائیں دیتے نہایت اکرام کے ساتھ گھر تک آپ کے ساتھ آ کر رخصت فرمایا۔ اس انجمن کے پہلے صدر بھی مدرسہ کے ایک استاد تھے اور سیکرٹری بھی استاذ (یعنی منشی خادم حسین صاحب بھیروی) لیکن جب دوبارہ انتخاب ہوا تو صدر مجلس حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمدؒ قرار پائے۔ آپ کی صدارت میں پہلا اجلاس 3 مارچ 1899ء کو ہوا۔

(بحوالہ تاریخ احمدیت جلد ہفتم ص 48-49)

**انجمن تشیح الاذہان کا قیام اور رسالہ تشیح الاذہان کا اجراء**

حضرت خلیفۃ المسیح الرابعؒ ایده اللہ بنصرہ العزیز نے اپنی کتاب سوانح فضل عمر جلد اول ص 235 میں تحریر فرمایا ہے کہ:

”حضرت صاحبزادہ مرزا محمود احمد صاحب کی سیرت کا ایک قابل قدر پہلو یہ بھی تھا کہ آپ عالم ہی نہیں تھے بلکہ عالم گری بھی تھے۔ اور جہاں خود دن رات

حصول تعلیم میں کوشاں تھے وہاں دیگر احباب جماعت میں بھی علم و فضل کی جستجو اور لگن پیدا کرنے کیلئے بے قرار رہا کرتے تھے۔ چنانچہ اس ضمن میں آپ نے مختلف مضامین اور تقاریر میں قوم کے نوجوانوں کو نہایت موثر رنگ میں نصائح فرمائیں اور کئی ٹھوس اور دور رس تدابیر اختیار فرمائیں۔ ان میں سے ایک اہم اور قابل ذکر تدبیر رسالہ تشیح الاذہان کی اشاعت کا انتظام تھا۔ چنانچہ اس غرض سے آپ نے 1904ء میں ایک انجمن کی بنیاد ڈالی جسے انجمن تشیح الاذہان کا نام دیا۔ ماہنامہ تشیح الاذہان احمدی نوجوانوں کیلئے علمی مضامین لکھنے کا ایک بہت بڑا محرک ثابت ہوا۔ رسالے کی صورت میں گویا آپ نے ایک چھوٹا سا ایسا کارخانہ قائم کر دیا جس میں اعلیٰ پایہ کے لکھنے والے تیار ہونے لگے۔ یہاں تک کہ سلسلہ احمدیہ کی آئندہ تصنیفی ضروریات کیلئے لکھنے والوں کی ایک نہایت قابل کھپ تیار ہو گئی۔ یہ رسالہ صرف تجربہ گاہ ہی نہیں تھا بلکہ خود حضرت صاحبزادہ صاحب کے مضامین اور سلسلہ کے بعض دیگر صاحب قلم حضرات کے دقیق تحقیقی مضامین کی وجہ سے اس کی معیار کا شہرہ دور دور تک ہونے لگا۔

### مجلس تشیح الاذہان کا احیاء

مجلس ”تشیح الاذہان“ کی سرگرمیاں ایک عرصہ تک تیزی سے جاری رہنے کے بعد رفتہ رفتہ کم ہوتی گئیں یہاں تک کہ انجمن قریباً معطل ہو کر رہ گئی تھی کہ دسمبر 1905ء میں بفضلہ تعالیٰ حضرت صاحبزادہ مرزا محمود احمد صاحب کے ذریعہ سے اس میں دوبارہ جان پڑ گئی۔ باقاعدہ قواعد بننے اور 7 ستمبر 1906ء کو مدرسہ کے احاطہ میں اس کے دور ثانی کا پہلا جلسہ بڑی آب و تاب سے منعقد ہوا۔ جس میں پہلی تقریر حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب خلیفۃ المسیح الاول نے فرمائی۔ اور دوسری سیدنا حضرت محمود احمد رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسیح الثانی نے کی اور آپ نے انجمن ”تشیح الاذہان“ کے فرائض خوش اسلوبی سے چلانے کے لئے ایک مجلس ارشاد بھی قائم فرمائی۔ جس کے اجلاس اردو اور انگریزی دو حصوں میں منقسم تھے۔ انگریزی مجلس ارشاد کی صدارت مولوی محمد علی صاحب ایم۔ اے نے کی اور حضرت مولوی شیر علی صاحب کی یادداشت کے مطابق مولوی صدر الدین صاحب کا بھی لیچر ہوا تھا۔

(تاریخ احمدیت حصہ پنجم صفحہ 1-2)

یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جس زمانہ میں اس رسالہ کی اشاعت شروع کی گئی وہ ہر لحاظ سے سنگین تھا۔ اندرونی و بیرونی طور پر دونوں لحاظ سے

اسلام کی حالت نازک تھی۔ اسلام پر ہر طرف سے اعتراضات کیے جا رہے تھے۔ بانی اسلام کی حیات طیبہ اور بعض دیگر بزرگان دین کو اعتراضات کا نشانہ بنانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ بلکہ اسلامی تعلیم کو مسخ اور پامال کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی تھی۔ اسی طرح جماعت احمدیہ جو کہ حقیقی رنگ میں اس کا دفاع کر رہی تھی اور اسلام کی صحیح تعلیم پیش کر رہی تھی کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اور مختلف اعتراضات کئے جاتے رہے۔ دشمنان اسلام نے کوئی ایسا حربہ نہ چھوڑا جو اس نے اسلام اور احمدیت کے خلاف استعمال نہ کیا ہو۔ اندرونی طور پر خود مسلمان بگڑے ہوئے تھے۔ اور غلط قسم کے عقائد ان میں رائج تھے جس سے اسلام کو بہت نقصان پہنچا۔ ایسے میں جماعت احمدیہ کے اخبار اور اس رسالہ نے تبلیغ و تربیت کا شاندار کارنامہ سرانجام دیا۔ اور موقع محل کے مطابق مختلف اشاعتوں میں جملہ اعتراضات کا دفاع کیا جاتا رہا ہے۔

اس رسالہ کا اجراء مارچ 1906ء میں ہوا۔ جس نے صحافت احمدیت میں ایک جدید طرز کی بنیاد رکھی۔ اور اسلام کا درد رکھنے والے نوجوانوں میں خدمت اسلام اور اشاعت اسلام کی ایک نئی روح پھونک دی آپ نے اس رسالہ میں ابتدا ہی سے بعض مستقل عنوان قائم کر دیے جس سے اس کی افادیت اور بھی بڑھ گئی مثلاً ڈائری حضرت امام الزمان، مسائل شرعیہ، عربی سیکھنے کیلئے آسان طریقے، حضرت اقدس کے رویا و الہامات، رسالہ میں حضرت اقدس علیہ السلام کا غیر مطبوعہ کلام اور ملفوظات بھی چھپتے تھے۔ اور مکتوبات امام بھی، بلکہ کتابی شکل میں ان مکتوبات کو شائع کرنے کا خیال بھی پہلی بار آپ کے دل میں آیا۔ آپ نے اس کا اظہار بھی انہیں دنوں میں کر دیا تھا۔ یہ رسالہ دراصل انجمن تشیح الاذہان کا آرگن تھا۔ اور یہ نام خود حضرت مسیح موعودؑ نے رکھا تھا۔ تشیح کے پہلے شمارہ میں آپ نے 14 صفحات کا ایک شاندار انٹروڈکشن لکھا جسے پڑھ کر حضرت خلیفہ اول مولانا حافظ نور الدینؒ نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا اور مبارک بادی۔ نیز خواجہ کمال الدین صاحب اور محمد علی صاحب کو خصوصیت سے اس کے پڑھنے کی ہدایت کی۔

مولوی محمد علی صاحب نے ریویو آف ریلیچر اردو میں اس پر ریویو کیا اور مضمون کا آخری حصہ درج کر کے لکھا:

”اس وقت صاحبزادہ صاحب کی عمر اٹھارہ انیس سال کی ہے۔ اور تمام دنیا جانتی ہے کہ اس عمر میں بچوں کا شوق اور انگلیں کیا ہوتی ہیں زیادہ سے زیادہ اگر وہ کالجوں میں پڑھتے ہیں تو اعلیٰ تعلیم کا شوق اور آزادی خیال ان کے دلوں میں زیادہ ہوگا۔ مگر دین کی یہ ہمدردی اور اسلام کی حمایت کا یہ جوش جو اوپر کے بے تکلف الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے ایک خارق عادت بات ہے..... جھوٹ تو ایک گناہ ہے پس اس کا اثر تو یہ چاہئے تھا کہ گندہ ہوتا نہ یہ کہ ایسا پاک اور نورانی جسکی کوئی نظیر ہی نہیں ملتی..... غور کرو کہ جس کی تعلیم اور تربیت کا یہ پھل ہے وہ کاذب ہو سکتا ہے۔ اگر وہ



کاذب ہے تو پھر دنیا میں صادق کا کیا نشان ہے؟

حضرت صاحبزادہ میرزا محمود احمد صاحب کے اسی مضمون پر بس نہیں جس پر جناب مولوی محمد علی صاحب ایم اے ایڈیٹر ریویو آف ریپلر نے مندرجہ بالا تبصرہ کیا۔ اور جسے سیدنا حضرت مسیح موعودؑ کی صداقت کا ثبوت اور نشان قرار دے کر تمام عالم کے سامنے پیش کیا۔ بلکہ تشہید الاذہان کے زمانہ ادارت میں بڑے بڑے معرکتہ الآراء مضامین آپ کی قلم حقیقت رقم سے نکلے ہیں۔ ان دنوں آپ کے دل میں خدمت دین کا اتنا زبردست جوش موجزن تھا کہ اپنی نوعمری کی حالت میں تربیتی اصلاحی مضامین لکھنے کے علاوہ مخالفین اسلام کے ساتھ گویا چوکھی جنگ جاری کر رکھی تھی۔ رسالہ ”تشہید الاذہان“ ابھی بالکل ابتدائی حالت میں تھا کہ ایک مسلمان گریجویٹ کے ارتداد پر آمادہ ہونے کی خبر شائع ہوئی۔ آپ نے اسے خط لکھا وہ جواباً اس سے کچھ سوالات کئے اس اثناء میں آپ کو آنکھوں کے آپریشن کیلئے لاہور جانا پڑا اور آپ وہ خط جواب دینے کیلئے حضرت مولانا سید محمد سرور شاہ صاحب ایڈیٹر تعلیم الاسلام قادیان کو دے گئے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت مولانا صاحب کی آنکھیں بھی دکھنے آگئیں اور وہ جواب نہ دے سکے۔ اس لئے آپ نے آپریشن سے پہلے خود ہی ان سوالات کے مفصل جوابات تحریر فرما دیے۔“ (تاریخ احمدیت جلد پنجم ص 74-73)

### تشہید الاذہان میں مضامین

1. سراج الاخبار جہلم میں کسی سرحدی مولوی صاحب نے آپ کے ایک مضمون پر انقاد کیا۔ جس کا مفصل جواب آپ نے تشہید الاذہان میں ”احمدیوں کے قتل کا فتویٰ“ کے عنوان سے شائع فرمایا۔

2. آپ نے انہیں دنوں محبت الہی کے عنوان پر ایک لطیف اور مبسوط مضمون شائع کیا جو بعد میں کتابی شکل میں بھی چھپ گیا۔ اس اہم مضمون کا خاتمہ ان الفاظ میں ہوا:

”محبت الہی کے الفاظ پر جس قدر سوچتا ہوں اسی قدر ایک خاص لذت اور وجد دل میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیارا ہے مذہب اسلام جس نے ہم کو ایسی نعمت کی طرف ہدایت کی ہے جس سے ہمارے دل روشن اور ہمارے دماغ منور ہوتے ہیں۔“

3. اگلے ماہ آپ کا ایک مضمون شائع ہوا جس میں آپ نے شہدائے کابل کی فدائیت اور جاں شاری کے واقعات بیان کئے ہیں۔

4. 1906-07ء کے سال میں حضرت مسیح موعودؑ کی صداقت کے ثبوت میں پے در پے قہری نشانوں کا ظہور ہوا۔ مثلاً چراغ دین جونہی کے مہالہ کا نشان، اخبار شبہ چٹک کے عملہ کی تباہی کا نشان، ڈوئی کی ہلاکت کا نشان۔

حضرت صاحبزادہ مرزا محمود احمد صاحب نے تشہید الاذہان میں بڑی صراحت سے انکا ذکر فرمایا۔

(تاریخ احمدیت جلد پنجم ص 76ء)

### تشہید الاذہان میں بلند پایہ

### مضامین:

1. خواجہ غلام الغلین صاحب نے ”عصر جدید کے ایک مضمون میں سلسلہ پر حملہ کیا جس کا آپ نے پر زور دفاع کیا۔

2. ایک مسلمان نے اخبار ”پایونیر“ میں مجوز سوڈ“ مضمون لکھا جس کا جواب آپ نے تشہید الاذہان میں شائع فرمایا۔

3. پادری اکبر مسیح نے رسالہ پیغام صلح پر اعتراضات کئے جس کا جواب بھی آپ کے قلم سے نکلا۔

1909ء میں تشہید الاذہان میں آپ کے قلم سے مندرجہ ذیل مضامین شائع ہوئے۔ ”قہری نشان“ (زلزلہ درگور نظامی گنڈ کا ظہور)، تازہ نشان (سلطان روم کی سلطنت سے متعلق ایک عجیب واقعہ، ”مسیحی تبلیہ“، عورتوں سے پردہ، ”تبلیغ اسلام“، ”ماہ رمضان“، ”جزاء الاحسان“، ”دین حق“، ”نجات حق“ (جواب لیکچر پادری میکلسن)۔

1910ء میں آپ کے قلم سے تشہید الاذہان میں مندرجہ ذیل مضامین نکلے:

”انبیاء و منجمن میں فرق، نجات کا فلسفہ (کئی قسطوں میں)، نشان آسمانی، حضرت خلیفہ کے گھوڑے سے گرنے کے متعلق، دین کو دنیا پر مقدم کر دو۔

1911ء میں آپ کے قلم سے تشہید الاذہان میں مندرجہ ذیل عنوانات پر مضامین شائع ہوئے: فرعون موسیٰ، مسلمان وہی ہے جو خدا کے سب ماموروں کو مانے، گوشت خوری، ستیا تھ پرکاش پر ایک مختصر ریویو، ایفائے عہد، ہم مرزا صاحب کو کیا سمجھتے ہیں، بڑے دن یا کر مس ڈیز۔

### الحکم میں انجمن تشہید

#### الاذہان کی کوششوں کو تذکرہ:

الحکم 21 فروری 1909ء انجمن تشہید الاذہان کی کوششوں اور رسالہ تشہید الاذہان کا ذکر کرتے ہوئے رقم طراز ہے:

”یہ انجمن احمدی قوم کے نونہالوں کی انجمن ہے جس کے بانی مہمانی احمدی قوم کے فخر اور مخدوم حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ اس انجمن کے سرپرست حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام تھے ہی مگر حضرت خلیفۃ المسیح سلمہ اللہ تعالیٰ اس کے مربی اور محسن رہے انجمن کے جلسوں میں اپنے بہت سے ضروری کام چھوڑ کر بھی خوشی سے حاضر ہوتے اور وقتاً فوقتاً اپنی تقریروں میں انجمن مذکور کے نوجوان ممبروں کی حوصلہ افزائی اور تعلیم سے کام لیتے رہے۔

تشہید الاذہان کی موجودہ کامیابی پر سب سے زیادہ خوش اور سب سے زیادہ مبارکباد کے قابل آپ ہی کا وجود ہے۔ اس لئے کہ یہ انجمن جس کی ترقی اور کامیابی کے آپ کے زیر سایہ بڑھی پھولی اور ترقی کر رہی ہے اور اس کے خوشگوار پھل آج احمدی قوم کیلئے مایہ ناز ہیں۔ حضرت صاحبزادہ صاحب کے قلم اور زبان کے بیش قیمت جواہرات انجمن تشہید کیلئے سلسلہ کی تاریخ میں درہنہ سبھی جا کر ہمیشہ قابل عزت سمجھے جائیں

گے۔ اور اب نظر آتا ہے کہ وہ کام جو ابتدا میں بچوں کا کھیل سمجھا جاتا تھا ایک ایسا کام ہے جس سے یقیناً اللہ اور اس کا رسول خوش ہے۔ اور جس پر یقیناً وقت آنے والا ہے کہ بڑے بڑے بوزھوں کو رشک ہوگا۔

خدمت دین کیلئے بے غرض اور پر جوش نوجوان تیار کر دینا چھوٹی اور آسان بات نہیں۔۔۔۔۔ میں انجمن کے ممبروں، کارکنوں اور انجمن کے بانی اور سرپرست کو اس کا میاں پر مبارک باد دیتا ہوں۔

انجمن کا رسالہ تشہید الاذہان حضرت صاحبزادہ صاحب کی ایڈیٹری سے نکلتا ہے اور یہ کوئی مبالغہ نہیں بلکہ بالکل حق بات ہے کہ رسالہ مذکور کے ایڈیٹر کی زبان اور قلم میں بھی وہی شان جلوہ گر ہے جو ہم سب کے آقا اور محبوب مسیح موعودؑ کی زبان اور قلم میں تھی۔

اس رسالہ میں چھپنے والے بعض مضامین اتنے بلند پایہ تھے کہ بعض غیر از جماعت اخبارات نے بھی ان کو سراہا اور اپنے صفحات کی زینت بنایا۔ چنانچہ رسالہ تشہید الاذہان مارچ 1909ء میں اس کا ذکر اس رسالہ کے مضامین کی عمدگی کیلئے اس سے بڑھ کر اور کیا امر پیش کیا جاسکتا ہے۔ کہ مخالفین کے علاوہ مخالفین نے بھی اس کو پسند کیا ہے۔ چنانچہ اخبار وکیل امرتسر نے ایک مضمون سالم کا سالم اپنے پرچہ میں نقل کیا ہے جس کا ہیڈنگ ”کیا تلوار کے زور سے اسلام پھیلا ہے؟“ از قلم صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب۔ اس میں کیا شک ہے کہ تشہید جماعت کی علمی ضروریات کو بہت حد تک بڑی عمدگی سے پورا کر رہا تھا۔

حضرت خلیفۃ المسیح الرابعیہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز اپنی کتاب سوانح فضل عمر جلد اول ص 241 میں فرماتے ہیں کہ:

حضرت شیر علی صاحب ایم اے جو حضرت مرزا محمود احمد صاحب کے استاد بھی رہے آپ نے حضرت صاحبزادہ صاحب کی علمی کاوشوں کو جیسا پایادہ مندرجہ ذیل الفاظ سے ظاہر ہے:

”ان پاک جذبات میں سے جنہوں نے ابتداء سے آپ کے اندر نشوونما پائی ایک جذبہ تبلیغ تھا اور ساتھ ہی اس کی یہ امنگ کہ نہ صرف خود اس کام میں حصہ لیں بلکہ دوسروں کو بھی اس خدمت کیلئے تیار کریں۔ جس طرح ایک ملک کے خیر خواہ اور قوم کے ہی خواہ لیڈر میں یہ تڑپ ہوتی ہے کہ اپنی گری ہوئی قوم کو ترقی کے اعلیٰ مقام پر پہنچانے کیلئے اور اپنے دشمنوں سے گھرے ہوئے ملک کو حملہ آوردوں کی دستبرد سے محفوظ رکھنے کیلئے اور اپنے ہاتھ سے نکلے ہوئے علاقہ کو دوبارہ فتح کرنے کے لئے اور دنیا میں اپنی قوم کی حکومت کو مستحکم اور منظوم کرنے کیلئے ایک فوج تیار کرے۔ اور اس فوج میں اپنی نوع کے نوجوانوں کو بھرتی ہونے کیلئے تحریک کیے۔ اور بھرتی ہونے والوں کو قواعد جنگ کی تعلیم دے اور انکو ضروری اسلحہ سے مسلح کرے۔ یہی جذبہ لڑکپن کے زمانہ میں آپ کے سینہ میں موجزن تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنی اسی خواہش کو عملی جامہ پہنانے کیلئے حضرت مسیح موعودؑ کے زمانہ میں ہی حضور سے اجازت حاصل کر کے ایک رسالہ جاری کیا جس کا نام

حضور نے آپ کے دلی جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے اور ان اغراض و مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے جن کے ماتحت آپ نے اس رسالہ کے اجراء کا ارادہ فرمایا تھا تشہید الاذہان رکھا۔ یعنی ایسا رسالہ جس میں مضمون نویسی کی مشق کر کے سلسلہ کے نوجوان اپنی علمی طاقتوں اور اپنے ذہنوں کو تیز کریں گے۔ اور آپ نے اس رسالہ کے متعلق ایک انجمن قائم کی جس کے سپرد اس رسالہ کا انتظام اور اس کی ترقی کیلئے کوشش کرنا اور نوجوانوں میں مضمون نویسی اور علمی ترقی کی رغبت پیدا کرنا تھا۔ اور آپ ہر ایک ذریعہ سے کوشش کرتے تھے کہ کثرت سے لوگ اس تحریک میں شریک ہوں۔

اس رسالہ کے علاوہ آپ نے انجمن تشہید الاذہان کے زیر اہتمام ایک مجلس بھی قائم کی جس کا نام مجلس ارشاد تھا اور اس سے آپ کی غرض یہ تھی کہ تبلیغی فوج میں بھرتی ہونے والے نوجوان اسلامی جدال کیلئے اس دوسرے ہتھیار کو بھی چلانے میں مشاق ہوں جس کا نام تقریر ہے۔ یعنی وہ تحریر اور تقریر دونوں ہتھیاروں سے حفاظت اسلام اور اشاعت اسلام کی لڑائیاں لڑنے کیلئے تیار ہو جائیں۔ پھر چونکہ آپ کی خواہشات کی جولانگہ صرف ہندوستان نہ تھا بلکہ آپ تمام دنیا کو اسلام کیلئے فتح کرنا چاہتے تھے اور آپ کی اسی نوجوانی کے زمانہ میں یہ آرزو تھی کہ روئے زمین کے شرق و غرب میں اسلام کا جھنڈا لہراتا ہوا دکھائی دے۔ اس لئے آپ نے مجلس ارشاد کے اجلاس دوصوں میں تقسیم کر دئے ایک اردو اور ایک انگریزی۔ یہ کوششیں اگر چہ آپ کی عمر اور قادیان کے حالات کے لحاظ سے چھوٹے بیانیہ پر تھیں، لیکن ان سے یہ ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ نوجوانی کے زمانہ ہی میں آپ کے دل کے اندر کیا کیا ابال اٹھتے تھے اور کھیل کود کے زمانہ میں آپ کے سینہ کے اندر کس بات کی تڑپ تھی۔ پھر جوں جوں آپ کی عمر بڑھتی گئی آپ کے کام کا دائرہ بھی زیادہ وسیع ہوتا چلا گیا۔ آپ نے لڑکپن کے زمانہ میں سلسلہ کے نوجوانوں کو اسلام کی قلمی اور لسانی خدمت کیلئے تیار کرنے کی غرض سے رسالہ تشہید الاذہان جاری کیا تھا اور مجلس ارشاد کی بنیاد ڈالی تھی۔ خلافت اولیٰ کے زمانہ میں آپ نے تمام جماعت احمدیہ کی تعلیم و تربیت کیلئے حضرت خلیفۃ المسیح اول کی اجازت سے ایک ہفتہ وار اخبار جاری کیا جس کا نام الفضل ہے اور جو اس وقت جماعت احمدیہ کا قومی آرگن ہے اور قادیان سے روزانہ شائع ہوتا ہے۔ پھر جماعت میں تبلیغی روح پھونکنے کیلئے اور رابطہ اخوت و محبت قائم کرنے کیلئے آپ نے انصار اللہ جماعت قائم کی۔“

(روزنامہ الفضل قادیان 5 نومبر 1938ء)

پس یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے کہ رسالہ تشہید الاذہان نے ابتدائی دور میں تبلیغی و تربیتی امور کو اجاگر کرنے اور دور دور تک پہنچانے میں نمایاں کارنامہ سرانجام دیا ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح کر دینی ضروری ہے کہ تقسیم ملک کے بعد یہ رسالہ باقاعدگی سے ربوہ پاکستان میں کثیر تعداد میں شائع ہو رہا ہے





# تاریخ احمدیت میں روزنامہ الفضل کا طویل سفر

## الفضل سے الفضل انٹرنیشنل تک

از مکرم مولانا ظہیر احمد صاحب خادم ناظر دعوت الی اللہ قادیان

حاجی الحرمین شریفین حضرت مولانا حکیم نور الدین خلیفۃ المسیح الاولؒ کے بابرکت دور خلافت میں جبکہ ایک طرف سلسلہ عالیہ احمدیہ کی بیرونی مخالفت بڑھتی جا رہی تھی اور دوسری طرف جماعت میں اندر ہی اندر ایک ایسا عنصر پیدا ہو رہا تھا جو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی حقیقی اور پاک تعلیم سے جماعت کو دور لے جانے کی کوشش کر رہا تھا ایسے وقت میں سیدنا حضرت اقدس الموعود مرزا بشیر الدین محمود احمد جن کے بارہ میں الہی نوشتہ میں درج ہے کہ ”وہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا“ نے 1913 میں ایک اخبار جاری کرنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاولؒ نے اس کا نام الفضل تجویز فرمایا۔ چنانچہ مذکورہ اخبار کی پہلی اشاعت 19 جون 1913ء کو ہوئی۔ اور اس کے پہلے ایڈیٹر خود حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحبؒ جو اس اخبار کے بانی بھی تھے تھے۔

### الفضل کی ضرورت و اہمیت

ایک موقع پر سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثانیؒ نے الفضل کے اجراء کی ضرورت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ:-

”بدر اپنی مصلحتوں کی وجہ سے ہمارے لئے بند تھا الحکم اول تو غمناکے چراغ کی طرح کبھی کبھی نکلتا تھا اور جب نکلتا بھی تھا تو اپنے جلال کی وجہ سے لوگوں کی طبیعتوں پر جو اس وقت بہت نازک ہو چکی تھیں بہت گراں گزرتا تھا۔ ریویو ایک بالابستی تھی جس کا خیال بھی نہیں کیا جاسکتا تھا میں بے حال و زرتھا، جان حاضر تھی مگر جو چیز میرے پاس نہ تھی وہ کہاں سے لاتا اس وقت سلسلہ کو ایک اخبار کی ضرورت تھی جو احمدیوں کے دلوں کو گرمائے ان کی سستی کو بھڑائے ان کی محبت کو ابھارے ان کی ہمتوں کو بلند کرے اور یہ اخبار ثریا کے پاس ایک بلند مقام پر بیٹھتا تھا اس کی خواہش میرے لئے ایسی ہی تھی جیسے ثریا کی خواہش نہ وہ ممکن تھی نہ یہ آخردل کی بے تابی رنگ لائی امید برآئے کی صورت ہوئی“

حضور کی یہ پاکیزہ امید برآئے کی جو صورت ہوئی اور جو نہایت مکرم و جود اس کا باعث بنے ان کے گراں بار احسان سے جماعت احمدیہ تا قیامت سبکدوش نہیں ہو سکتی ہے۔

### اخبار الفضل کی گرانقدر مالی خدمات

اس سلسلہ میں حضورؐ نے اول تو ایک خاتون مبارکہ کا ذکر فرمایا جسے خدا تعالیٰ نے حضور کی حرم اول ہونے کا شرف بھی عطا کیا اور ان کی اس شاندار قربانی

اور ایثار کو نہایت ہی شاندار رنگ میں یوں بیان فرمایا کہ:

خدا تعالیٰ نے میری بیوی کے دل میں اس طرح تحریک کی جس طرح خدیجہؓ کے دل میں رسول کریمؐ کی مدد کی تحریک کی تھی۔ انہوں نے اس امر کو جانتے ہوئے کہ اخبار میں روپیہ لگانا ایسا ہی ہے جیسے کنوئیں میں پھینک دینا اور خصوصاً اس اخبار میں جس کا جاری کرنے والا محمود ہو جو اس زمانہ میں شاندار سب سے زیادہ مذموم تھا اپنے دوزیور مجھے دے دیئے کہ میں ان کو فروخت کر کے اخبار جاری کروں۔ ان میں سے ایک تو ان کے اپنے کڑے تھے اور دوسرے ان کے بچپن کے کڑے تھے جو انہوں نے اپنی اور میری لڑکی عزیزہ ناصرہ بیگم سلمہ اللہ تعالیٰ کے استعمال کے لئے رکھے ہوئے تھے۔

یہ زیور حضور نے خود لاہور جا کر پونے پانچ سو روپیہ میں فروخت کئے۔ یہ تھا الفضل کا ابتدائی سرمایہ یہ اتنی قیمتی امداد تھی کہ اس کا اندازہ حضور کے ان الفاظ سے لگایا جاسکتا ہے۔ اس حسن سلوک نے نہ صرف مجھے ہاتھ دیئے جن سے میں دین کی کسی خدمت کرنے کے قابل ہوا اور میرے لئے زندگی کا ایک نیا ورق الٹ دیا بلکہ ساری جماعت کی زندگی کے لئے بھی ایک بہت بڑا سبب پیدا کر دیا میں حیران ہوتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ سامان پیدا نہ کرتا تو میں کیا کرتا اور میرے لئے خدمت کا کونسا دروازہ کھولا جاتا اور جماعت میں روز مرہ بڑھنے والا فتنہ کس طرح دور کیا جاسکتا۔

### حضرت ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کی

#### بیش قیمت امداد:

دوسرا مبارک وجود جس نے الفضل کے جسد میں روح پھونکی حضرت ام المؤمنینؓ کا ہے آپ نے اپنی ایک زمین جو ایک ہزار روپیہ میں کئی الفضل کیلئے عنایت فرمائی اور اس طرح آپ نے جماعت احمدیہ پر اتنا بڑا احسان فرمایا جو رہتی دنیا تک فیض یاب کرتا رہے گا۔

### حضرت نواب محمد علی خان صاحبؒ

#### کی امداد:

تیسرا قابل صد احترام وجود حضرت نواب محمد علی خان صاحبؒ کا ہے جنہوں نے اس کام کے لئے کچھ نقد اور کچھ زمین دی۔ جو تیرہ سو روپیہ میں فروخت ہوئی اور اس طرح وہ مقدس سرمایہ جمع ہوا جو الفضل کے چلانے میں کام آیا۔

الفضل کا اجراء بہت دعاؤں سے ہوا:۔ الفضل کے اجراء کے موقع پر حضرت خلیفۃ المسیح الثانیؒ نے خدا تعالیٰ کے حضور جو التجائیں کیں اور جن پاک ارادوں نیک خواہشات اور اعلیٰ عزائم کا اظہار فرمایا ان کا کسی قدر اندازہ ذیل کے الفاظ سے لگ سکتا ہے۔ حضور نے لکھا:-

خدا کا نام اور اس کے فضلوں اور احسانوں پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس سے نصرت و توفیق چاہتے ہوئے میں الفضل جاری کرتا ہوں اپنے ایک مقتدا اور راہنما، اپنے مولا کے پیارے بندے کی طرح اس بحر ناپیدا کنار میں الفضل کی کشتی کے چلانے کے وقت اللہ تعالیٰ کے حضور بصد عجز و انکسار یہ دعا کرتا ہوں کہ بسم اللہ مجربینا و مرسنا ان ربی لغفور رحیم اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اور اس کی برکت سے اس کا چلنا اور لنگر ڈالنا ہو۔ تحقیق میرا رب بڑا بخشنے والا اور رحیم ہے۔ اے میرے قادر مطلق خدا اے میرے طاقتور بادشاہ اے میرے رحمان و رحیم مالک اے میرے رب میرے مولا میرے ہادی میرے رازق میرے حافظ میرے ستار میرے بخشہا ہاں اے میرے شہنشاہ جس کے ہاتھوں میں زمین آسمان کی کنجیاں ہیں اور جس کے اذن کے بغیر ایک ذرہ اور ایک پتہ نہیں ہل سکتا جو سب نفعوں اور نقصانوں کا مالک ہے جس کے ہاتھ میں سب چھوٹوں اور بڑوں کی پیشانیاں ہیں جو پیدا کرنے والا اور مارنے والا ہے جو مار کر پھر جلانے والا اور ذرہ ذرہ کا حساب لے گا جو ایک ذلیل بوند سے انسان کو پیدا کرتا ہے۔ جو ایک چھوٹے سے بیج سے بڑے بڑے درخت اگاتا ہے ہاں اے میرے دلدار میرے محبوب خدا تو دلوں کا واقف ہے اور میری نیتوں اور ارادوں کو بہانتا ہے میرے پوشیدہ رازوں سے واقف ہے میرے حقیقی مالک میرے متولی تھے علم ہے کہ محض تیری رضا حاصل کرنے کیلئے اور تیرے دین کی خدمت کے ارادہ سے یہ کام میں نے شروع کیا ہے تیرے پاک رسول کے نام کے بلند کرنے اور تیرے مامور کی سیانیوں کو دنیا پر ظاہر کرنے کے لئے یہ ہمت میں نے کی ہے۔ تو میرے ارادوں کا واقف ہے میری پوشیدہ باتوں کا راز دار ہے میں تجھی سے اور تیرے ہی پیارے چہرے کا واسطہ دے کر نصرت و مدد کا امیدوار ہوں۔

اس سلسلہ میں حضور نے لکھا:-

اے میرے مولیٰ اس مشیتِ خاک نے ایک کام شروع کیا ہے اس میں برکت دے اور اسے کامیاب کر میں اندھیروں میں ہوں تو آج ہی رستہ دکھا لوگوں

کے دلوں میں الہام کر کہ وہ الفضل سے فائدہ اٹھائیں اور اس کے فیض لاکھوں نہیں کروڑوں پر وسیع کر اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لئے بھی اسے مفید بنا“ الفضل کے متعلق خدا تعالیٰ کے حضور مصلح موعودؑ نے مندرجہ الفاظ میں نہایت درد اور کرب کے ساتھ دعا کیں جسے تھوڑے ہی عرصہ کے بعد خدا تعالیٰ نے دنیا کی رہنمائی کا منصب عطا فرمایا اس سے جہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ الفضل کا اجراء نہایت ہی مبارک ہاتھوں سے ہوا وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کیسی جامع، کس قدر وسیع اور کتنی دلگداز دعاؤں پر اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔

### الفضل کا 1913 سے 1942 تک کا سفر:

الفضل کا پہلا پرچہ درمیانے سائز کا 16 صفحات پر نکلا اور ایک خاص پروگرام کے مطابق مضامین پر مشتمل ہفتہ وار شائع ہوا اور روز بروز مقبولیت حاصل کرنے لگا دسمبر 1913 کے سالانہ جلسہ پر تین دن یعنی 26-27-28 دسمبر اس کا روزانہ لوکل ایڈیشن شائع ہوا۔ 11 مارچ 1914ء تک الفضل کو حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح الثانیؒ کے ایڈیٹر ہونے کا فخر حاصل رہا۔ چنانچہ الفضل کے سرورق پر حضور کا اسم گرامی بحیثیت ایڈیٹر شائع ہوتا رہا اور یکم دسمبر 1914ء تک کے پرچہ پر پرنٹر پبلشر اور پرنٹر کے طور پر بھی حضور ہی کا نام لکھا جاتا رہا مگر جب خدا تعالیٰ نے اپنی خاص مصلحتوں کے ماتحت آپ کو خلافت کے نہایت بلند اور عالی مرتبہ مقام پر متمکن فرما کر آپ کا حلقہ عمل نہایت وسیع کر دیا اور آپ کی ذمہ داریوں میں بے حد اضافہ فرمایا تو 25 مارچ 1914ء سے قمر الانبیا حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کا نام بطور ایڈیٹر شائع ہونے لگا۔ اور 3 دسمبر 1914ء کے پرچہ سے الفضل کا پرنٹر و پبلشر بننے کی سعادت حضور نے حضرت بھائی عبدالرحمن صاحب قادیانیؒ کو بخشی جو سوائے اس وقفہ کے جبکہ حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح الثانیؒ کے ساتھ ولایت گئے خدا تعالیٰ کے فضل سے اس وقت تک اس منصب پر سرفراز رہے۔

28 مارچ 1914 سے الفضل عارضی طور پر ہفتہ میں تین بار شائع ہونے لگا اور اس کے تمام اخراجات حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح الثانیؒ اپنی جیب سے عنایت فرماتے تھے جن کے مقابلہ میں آمد بہت کم تھی اس لئے جون 1914ء میں جب الفضل کی دوسری جلد شروع ہوئی تو اخبار کا سائز 20x28 کی بجائے 18x22 کر دیا گیا اور اس جلد کے 27 اگست 1914ء تک کے پرچوں پر حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کا نام بطور ایڈیٹر چھپتا رہا۔ چونکہ اس زمانہ میں اخبار پر ایڈیٹر کا نام لکھنا ضروری نہ تھا اس لئے اس کا لکھنا ترک کر دیا گیا اور عملی طور پر یہ ذمہ داری جناب قاضی اکمل صاحب نے اٹھائی جو الفضل کے اجراء کے وقت سے ہی اس کے سٹاف کے ایک سرگرم رکن تھے اور جن کی الفضل سے متعلق خدمات کا ذکر ایک دفعہ



حضرت خلیفۃ المسیح الثانی نے ایسے کریمانہ اور مشفقانہ انداز میں فرمایا کہ اس پر جناب قاضی صاحب جس قدر بھی فخر کریں کم ہے۔ حضور نے تحریر فرمایا:-

جب الفضل نکلا اس وقت ایک شخص جس نے اس اخبار کی اشاعت میں شائد مجھ سے بھی بڑھ کر حصہ لیا وہ قاضی ظہور الدین صاحب اکمل ہیں اصل میں سارے کام وہی کرتے تھے۔ اگر ان کی مدد نہ ہوتی تو مجھ سے اس اخبار کا چلانا مشکل ہوتا رات دن انہوں نے ایک کر دیا تھا قاضی صاحب موصوف کے سپرد چونکہ الفضل کی میٹری کے علاوہ اور کام بھی تھا اور الفضل کا حلقہ عمل روز بروز وسیع ہوتا جا رہا تھا اس لئے ایک مستقل ایڈیٹر کی ضرورت محسوس کی گئی اور ماسٹر احمد حسین صاحب فرید آبادی کو جو ایک عرصہ تک مختلف اخبارات میں کام کر چکے تھے اور اس وقت دہلی میں کتابوں کی دکان کرتے تھے بلا لیا گیا جنہوں نے جون 1915 میں الفضل کی ایڈیٹری کا کام سنبھال لیا۔ الفضل کے بہت بڑے اخراجات کے لئے چونکہ اس کی آمدنی کافی نہ تھی اور اڑھائی سال کے عرصہ میں حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح الثانی اپنے پاس سے قریباً پانچ ہزار روپے اس پر صرف فرما چکے تھے ادھر حالات بھی کچھ پرسکون ہو رہے تھے۔ خلافت حقہ کے خلاف جو طوفان اٹھا تھا وہ اپنا سارا زور صرف کر کے ڈھیلا پڑ چکا تھا جماعت کا کثیر حصہ خلافت ثانیہ کی کامل اطاعت کا شرف حاصل کر چکا تھا اس لئے اس احتیاط کے ساتھ کہ الفضل جتنے صفحات تین بار شائع ہونے کی صورت میں ہفتہ وار دیتا تھا اتنے ہی دوبار شائع ہونے پر دے۔ اسے 10 نومبر 1915ء سے ہفتہ میں دوبار کر دیا گیا۔ لیکن جب سالانہ جلسہ قریب آیا تو 8 دسمبر سے 28 دسمبر تک عارضی طور پر تین بار کیا گیا 11 جنوری 1916 تک باوجود صحت کے بے حد کمزور ہونے کے ماسٹر احمد حسین صاحب مرحوم الفضل کی ایڈیٹری کی ذمہ داری سے فارغ ہو گئے اس کے بعد کچھ دن جناب مولوی محمد اسلمیل صاحب فاضل کے سپرد یہ کام رہا۔ اور پھر یہ ذمہ داری قاضی اکمل صاحب پر ڈالی گئی 4 جولائی 1916 تک یہی انتظام رہا اس کے بعد یہ ذمہ داری مکرّم غلام نبی صاحب پر ڈالی گئی جسے موصوف نے نہایت خوش اسلوبی سے 1963 تک ادا کیا۔

جون 1914 سے جون 1924 تک یعنی پورے دس سال الفضل 22x18 سائز پر چھپتا رہا اور جنوری 1916ء سے جون 1924 تک ہفتہ میں دو بار شائع ہوتا رہا 1920 میں جبکہ ہفتہ میں دو بار شائع ہو رہا تھا اسے روزانہ کرنے کی تحریک کی گئی۔ جولائی 1924 میں خدا تعالیٰ نے توفیق دی کہ الفضل کو اس سائز پر شائع کیا جائے جس پر حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح الثانی نے جاری کیا تھا اور جب حضور ولایت تشریف لے گئے تو 31 جولائی 1924 سے ہفتہ میں تین بار شائع ہونے لگا۔ جو 8 دسمبر 1925 تک جاری رہا اور 11 دسمبر 1925ء سے دو بار کر دیا گیا۔ 1927 میں آریوں کی طرف سے ”رنگیلا

رسول“ کی اشاعت اور اس کے متعلق جٹس دلپ سنگھ کے فیصلہ کی وجہ سے جب مسلمانوں کے جذبات کو بے حد ٹھیس لگی اور ان میں سخت بے چینی پیدا ہوئی ادھر آریوں نے رسول کریمؐ کی مزید توہین کرنے کی مہم شروع کر دی تو حضرت خلیفۃ المسیح الثانی نے اس کے اندمال کی طرف توجہ فرمائی اور ان ایام میں کچھ عرصہ کے لئے الفضل روزانہ کر دیا گیا 1929ء میں پھر الفضل کو مستقل روزانہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا 8 نومبر 1929 سے جم میں چار صفحہ کے مزید اضافہ کے ساتھ 16 صفحہ کا شائع ہونے لگا۔ لیکن 1930 میں جب مستریوں نے فتنہ اٹھایا اور اندرونی و بیرونی مخالفین نے ان کی امداد میں کھڑے ہو کر طوفان بے تمیزی برپا کر دیا تو الفضل 15 اپریل 1930 سے ہفتہ میں چار بار شائع ہونے لگا پھر 20 مئی سے ہفتہ میں تین بار اور 7 مارچ 1935 تک سہ روزہ ہی رہا جیسا کہ 1934 کے آخر میں احرار نے جماعت احمدیہ کے خلاف جو فتنہ شروع کیا تھا اور جو روز بروز تمام سرکاری اور غیر سرکاری مخالفوں کی پوشیدہ اور کھلی امداد سے بڑھتا جا رہا تھا اس کے انداد کی ضرورت پیش آئی اس کے مقابلہ کے لئے 5 فروری 1935 کے پرچہ میں اخبار کو روزانہ کرنے کا اعلان کیا گیا لیکن چونکہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صاحب گورداس پور نے اجازت دینے میں غیر معمولی تاخیر کی اس لئے 8 مارچ 1935 سے الفضل روزانہ کیا جاسکا۔ روزانہ الفضل کا پہلا پرچہ 8 مارچ کو چار صفحہ کا شائع ہوا اس وقت تجویز یہ تھی کہ سہ روزہ الفضل حسب معمول شائع ہوتا رہے اور تین دن چار صفحہ کا شائع ہو لیکن چند ہی روز کے بعد یعنی 26 مارچ 1935 سے چار صفحہ کا پرچہ آٹھ صفحہ کا کر دیا گیا۔ اگرچہ اس عرصہ میں بھی ضرورت کے مطابق بعض پرچے 24 صفحات تک کے بھی شائع کئے گئے اور خطبہ جمعہ کا پرچہ مستقل طور پر 16 صفحہ کا شائع کیا جاتا لیکن یکم جولائی 1936 سے مستقل طور پر ہر پرچہ 12 صفحہ کا اور خطبہ جمعہ کا پرچہ کم از کم 16 صفحہ کا نگدار شائع کیا گیا مگر باوجود اخراجات میں بہت زیادہ اضافہ کرنے کے قیمت وہی رکھی گئی جو چار صفحہ کا روزانہ کرنے کے وقت تجویز ہوئی تھی۔ یعنی پندرہ روپے سالانہ۔ آخر جب 1937ء میں جنگ کی افواہیں پھیلنے پر کاغذ اور دیگر سامان طباعت بہت گراں ہو گیا اور ادھر احرار کا فتنہ انتہا کو پہنچ کر ختم ہو گیا تو جماعت میں روزانہ اخبار کی ضرورت کا احساس کم ہونے لگا اور وہی الفضل جو فتنہ احرار کے زوروں پر ہونے کے ایام میں پانچ پانچ ہزار چھپا اور عام طور پر بھی اس کی اشاعت تین ہزار تک پہنچ گئی تھی دو ہزار سے کم رہ گیا تو اخراجات کی مشکلات سے مجبور ہو کر 20 اکتوبر 1937 سے پرچہ 8 صفحہ کا کرنا پڑا۔ تاہم خطبہ جمعہ کا پرچہ 16 اور 20 صفحات پر ہی شائع کیا گیا آخر اسے بھی 12 صفحہ کا کرنا پڑا۔

خلافت جوہلی کی مبارک تحریک پر الفضل کا شاندار جوہلی نمبر بھی شائع کرنے کا اللہ نے ادارہ الفضل کو موقع عطا فرمایا اور یہ بات خاص طور پر قابل

ذکر ہے کہ ہر ایسے موقع پر جب جماعت کے خلاف کوئی فتنہ اٹھا الفضل سین سپر ہو کر پہلے سے زیادہ سرگرمی کے ساتھ میدان عمل میں نکل آیا۔

### الفضل کی خدمات کے مختلف اہم پہلو

خلفاء کرام کے خطبات جمعہ خطبات عیدین خطبات نکاح اسی طرح درس القرآن اور تقاریر اور بالخصوص سیدنا حضرت اسحٰ موعودؑ کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے بعض مضامین بھی شائع کئے گئے اور کئے جا رہے ہیں اسی طرح سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفاء کرام کے بعض قلمی عکس کی بھی اشاعت ہوئی اسی طرح احمدیہ مشنوں کی تبلیغی و تربیتی رپورٹیں اس کے علاوہ صداقت اسلام و احمدیت، مخالفین اسلام و احمدیت کے اعتراضات کے جوابات، غیر مذاہب کے متعلق تحقیقی مضامین فضیلت اسلام تمدن اسلام کی برتری تاریخ اسلام علمی و تربیتی اور تبلیغی مضامین بین الاقوامی اتحاد کے لئے کوشش پر مشتمل مضامین بوقت ضرورت اہل اسلام کی حمایت اور راہنمائی پر مشتمل مضامین، کی اشاعت ہوتی چلی آ رہی ہے۔ الفضل نے اپنے مضامین کے لحاظ سے طبقہ نسوان کی بھی بہت خدمت کی ہے۔ بعض اوقات الفضل کا مشکل حالات سے بھی گزر ہوا ہے۔ مثلاً یہ کہ الفضل پر بعض مقدمات بھی ہوئے خاص طور سے 1923 میں ایک شخص ظہیر الدین اڑوچی نے ایڈیٹر و پرنٹر پر مقدمہ دائر کیا جو قریب سات ماہ تک گوجرانوالہ میں زیر سماعت رہا۔ مکرّم حضرت چوہدری محمد ظفر اللہ خان صاحب جماعت کی طرف سے بطور وکیل پیش ہوتے آخر 22 اپریل 1924 کو مجسٹریٹ نے استغاثہ خارج کرتے ہوئے لکھا:-

استغاثہ کو بے بنیاد اور فضول قرار دیتا اور ڈس مس کرتا ہوں نیز مستغیث کے متعلق لکھا کہ:-

وہ وجہ بتائے کہ اس کے اس ناحق استغاثہ کی وجہ سے مستغاث الہم کو کیوں معقول حرجانہ نہ دلایا جائے دوسرا مقدمہ غیر مبائعین کی طرف سے الفضل میں ایک مضمون شائع ہونے کی وجہ سے کیا گیا۔ اس مضمون کے مقابل پر غیر مبائعین کی طرف سے الفضل کے خلاف ”پیغام صلح“ (غیر مبائعین کا اخبار) میں ایک مضمون شائع کیا گیا جس کی بناء پر جماعت کی طرف سے ”پیغام صلح“ پر مقدمہ دائر کیا گیا نتیجہ یہ ہوا کہ بالکل مساوی الفاظ میں مصالحت نامہ لکھا گیا اس مقدمہ کی پیروی بھی وکیل کی حیثیت سے محترم چوہدری

حضرت سر محمد ظفر اللہ خان صاحب نے کی۔ اس طرح ایک مقدمہ احرار کی طرف سے بھی کیا گیا تھا۔ اس کے بعد آج تک بھی الفضل کی مخالف کے ادوار سے گزرنے کے باوجود اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔

(ماخوذ از الفضل 28 دسمبر 1939ء خلافت جوہلی نمبر مرتبہ محترم غلام نبی صاحب ایڈیٹر الفضل) 1943ء سے تاحال یعنی 2002 تک روزنامہ الفضل کے ایڈیٹر ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔

☆ 1943 تا جنوری 1944 مکرّم رحمت اللہ خان صاحب شاہر

☆ 1944 تا 1963 مکرّم غلام نبی صاحب

☆ یکم جنوری 1963 مکرّم روشن دین صاحب

☆ 1964 تا 1988 مکرّم مسعود صاحب

☆ 1988 مکرّم نسیم سیفی صاحب


☆ 1998 سے تاحال: مکرّم عبدالسیح خان صاحب

مدیر کے فرائض سرانجام دے رہے ہیں اگرچہ روزنامہ الفضل ربوہ سے باقاعدگی سے شائع ہوتا ہے اور مخالفین نے کئی مرتبہ اس اخبار کو بند کرنے کی کوششیں کیں بالخصوص ضیاء الحق کے دور میں اخبار کی طباعت پر پابندی لگائی گئی اور اس وقت سے لیکر اب تک بیسیوں بے بنیاد مقدمے بھی اخبار کے خلاف چل رہے ہیں پھر بھی یہ اخبار دن گئی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے۔

### ہفت روزہ الفضل انٹرنیشنل ::

الفضل کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مصلح موعود کی دعاؤں کے نتیجہ میں یہ برکت عطا فرمائی ہے کہ ایک طرف یہ پاکستان سے روزنامہ شائع ہو رہا ہے تو دوسری طرف سیدنا حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح الرابعیہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے ربوہ سے ہجرت کے بعد ہفتہ وار الفضل انٹرنیشنل کے نام سے یہ اخبار شائع ہوتا ہے جس کا پہلا پرچہ جنوری 1994 میں شائع ہوا اس کے پہلے مدیر مکرّم چوہدری عبدالرشید صاحب بنے۔ مارچ 1994 سے مکرّم نصیر احمد قمر بحیثیت مدیر فرائض سرانجام دے رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس اخبار کے چلانے کیلئے ہر قسم کی مالی اور قلمی امداد کی توفیق بخشے اور اس سے کما حقہ فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے۔ ☆



تبلیغ دین و نشر ہدایت کے کام پر ☆ ماہل رہے تمہاری طبیعت خدا کرے

## JANIC EXIMP

Manufacturers & Exporters of all kinds of Fashion Leather Products & General order Suppliers & Importers

Off : 16D, Topsia 2nd Lane, Mullapara, Near Star Club, Calcutta-700039

Ph. 3440150  
Tel. Fax : 3440150  
Pager No. : 9610-606266



# تقسیم ملک کے بعد ”بدر“ کی پچاس سالہ خدمات

## تاریخی جھلکیاں اور گرانقدر تاثرات

قریشی محمد فضل اللہ نائب مدیر بدر

تقسیم ملک کے بعد جہاں جماعت کی کثیر تعداد اور خلیفہ وقت کو ہجرت کر کے پاکستان جانا پڑا اور مرکز قادیان بالکل الگ تھلگ رہ گیا بیرون قادیان کی جماعتیں بھی اپنے مرکز سے بالکل کٹ گئیں اور کوئی ایسا ذریعہ باقی نہ رہا جس سے ایک دوسرے کے حالات واقعات جانے جا سکیں اور وہ رابطہ نہ رہا جس سے جسد میں روح باقی رہتی ہے۔ اس ضرورت اور کمی کو پورا کرنے کے لئے بزم درویشان نے ایک ماہنامہ رسالہ جاری کیا اور قادیان میں گزرنے والے شب و روز کو کسی طرح محفوظ کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن یہ بہت محدود پیمانے پر ایک عظیم کوشش تھی دوسری طرف بیرون قادیان ہندوستان کی دیگر جماعتوں کو بھی مرکزی حالات و پروگرام سے جلد از جلد آگاہ ہونے کے لئے ایک اخبار کی فوری ضرورت تھی چنانچہ 1950ء کے جلسہ سالانہ میں ہونے والی مجلس مشاورت میں قادیان سے ایک ہفتہ وار اخبار کے اجراء کا مشورہ کیا گیا اور حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے اجراء کی منظوری دیتے ہوئے اخبار کا نام بدر تجویز فرمایا۔ چنانچہ 20 دسمبر 1951ء کو نمونہ کا پرچہ اور پھر حکومت کی طرف سے اجراء کی ڈیکلیریشن ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضلوں پر بھروسہ کرتے ہوئے نہایت کم مانگی اور بے سروسامانی کے عالم میں 7 مارچ 1952ء سے بارہ صفحات پر مشتمل باقاعدہ اخبار کی اشاعت شروع ہو گئی جسکی قیمت 6 روپے سالانہ مقرر ہوئی حضرت قمر الانبیاء مرزا بشیر احمد صاحب نے بدر کے اجراء پر درج ذیل برقی پیغام بھجوایا جو نمونہ کے پرچہ میں شائع ہوا۔

”میں بدر کے اجراء پر خوش آمدید کہتا ہوں کیونکہ یہ درحقیقت اس بدر کا لکنا ظاہر ہے کہ جس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عہد مبارک میں افق قادیان پر طلوع کیا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے اس طور پر برکت دے کہ یہ اخبار اس بزم ساوی کا سارنگ اختیار کرے کہ جس کے نام کا یہ حال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اسے چار دانگ عالم میں آسانی اور پہنچانے کا موجب بنائے“

ایک اور پیغام میں آپ نے فرمایا:-

”دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں بدر کو بدر بنائے اور وہ اندھیرے میں گھومنے والوں کے لئے روشنی کا ایک مینار ثابت ہو۔ بس یہی میرا پیغام ہے۔“

(بدر 10/13 اکتوبر 1957ء)

خلیفہ وقت کے ہجرت کر جانے سے واقعی نہایت تاریک راتوں کا سا منظر نظر آنے لگا اور ہندوستان کی جماعتیں بے نورسی ہونے لگیں۔ بدر کے اجراء کے ساتھ

ہی گویا چودھویں کا چاند طلوع ہو گیا اور حضرت مصلح موعود کے ارشاد پر جاری ہونے والے بدر نے ان تاریکیوں کو دور کرنا شروع کیا جو چاند کے طلوع ہونے سے دور ہو جاتی ہیں۔ سیدنا حضرت مصلح موعود نے بدر کے جاری ہونے پر ایک زندہ جاوید پیغام ارسال فرمایا جو بدر کے پہلے شمارہ کی زینت بنا یہ پیغام بدر کے اسی شمارہ میں من و عن دیا جا رہا ہے۔

نمونہ کے پرچہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حضرت مسیح موعود کے ارشادات، حضرت مصلح موعود کا خطبہ تحریک جدید، صحابہ کرام کی شاندار قربانیاں، حضرت بھائی عبدالرحمن قادیانی کا مضمون ”مقامات مقدسہ قادیان“ اسی طرح ”قادیان میں ہماری تبلیغی سرگرمیاں“ حضرت بھائی عبداللہ دین صاحب کا مضمون، ایک رپورٹ احمدیہ شفا خانہ قادیان اور اہم اور ضروری مواد شائع ہوا۔ الغرض یہ وہ شروعات اور بنیاد بنی جس پر بدر 50 سال سے ضوآن ہے۔

اصل ڈیوٹیوں کے ساتھ ساتھ بدر کو ان حالات و مشکلات میں جاری رکھنا سوائے اللہ تعالیٰ کے خاص فضلوں کے ممکن نہ تھا۔ سوادت کی تیاری بدر کی کتابت ریڈنگ اور فائل کا پی تیار کر کے امر تر لے جا کر چھپوانا اور اس کے مالی وسائل کا مہیا کرنا واقعی سخت محنت اور مستقل مزاجی اور صبر و ہمت کا متقاضی تھا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان بزرگان کو جنہوں نے اس نہر خوشگوار کو جاری رکھنے کے لئے کسی بھی رنگ میں حصہ ڈالا کیونکہ یہ وہ آب حیات ہے جس کو قیامت تک آنے والی نسلیں پی کر حیات ابدی حاصل کرتی رہیں گی۔ اب تک مدیر، نائب مدیر اور منبر کی خدمت اصل ڈیوٹی کے علاوہ زائد وقت میں کی جاتی ہے۔

بدر میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے توحید باری تعالیٰ و آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام و انسانیت کی خدمات کے اعلیٰ مضامین، قرآن مجید و احادیث کی تفاسیر اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بابرکت ملفوظات ارشادات کے علاوہ خلفاء کرام کے خطبات اور خطابات و مجالس عرفان اور بیانات بھی بالخصوص شائع ہوتے ہیں بدر ان سے ہی اکتساب نور کر کے ضو فشانہ کرتا ہے اور قارئین کے اخلاقی روحانی اور جسمانی نشوونما کا باعث بنتا ہے۔ بدر کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ حضرت مصلح موعود کے ایسے خطبات بھی شائع کئے جو پہلے اس سے کسی جماعتی اخبار یا کسی رسالہ میں شائع نہیں ہوئے تھے اس میں سے جلسہ سالانہ نمبر 1960ء میں حضرت خلیفۃ المسیح الثانی کا ایک اہم غیر مطبوعہ خطاب جو حضور نے 4 اپریل 1947ء کو قادیان

میں ارشاد فرمایا تھا شائع ہوا۔ یہ جلسہ سالانہ نمبر 32 صفحات پر خوبصورت ٹائٹل کے ساتھ شائع ہوا۔ تقسیم ملک کے بعد مرکز قادیان کے حالات کو نہ صرف بدر نے کسی حد تک محفوظ کیا بلکہ بیرون دنیا کو آگاہ کیا اس میں بھی بدر بے مثال ہے۔ اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نے 1973ء میں جلسہ سالانہ پر صد سالہ احمدیہ جوہلی کے عظیم منصوبے کا اعلان فرمایا تو حضور کا یہ خطاب بدر نے پوری تفصیل سے شائع کیا۔ اپریل 1974ء میں رابطہ عالم اسلامی نے جماعت کے بارے میں غیر اسلامی قرارداد پاس کی تو بدر میں اس قرارداد پر مسلسل چار سطحوں میں مدلل تبصرہ شائع ہوا۔ 1974ء میں ہی جب پاکستان میں جماعت کو بین الاقوامی سازش کا نشانہ بنایا گیا تو بدر کو حق و انصاف کی آواز بلند کرنے کی توفیق ملی اور وہاں کے لرزہ خیز حالات اور احباب جماعت پر مخالفین کے ظلم و ستم کی سچی کیفیت شائع کر کے انصاف پسند دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کا موقع ملا۔ بدر کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کے لندن 1984ء میں تشریف لے جانے کے بعد جبکہ ربوہ سے افضل حکومتی پابندی کی وجہ سے شائع نہیں ہو رہا تھا اور کوئی مرکزی اخبار جاری نہ تھا بدر نے حضور کے اہم اور تاریخی حیثیت کے حامل خطبات کو عالمی طور پر شائع کرنے کا انفرادی مقام حاصل کیا اور بعض عظیم پیشگوئیوں کا گواہ بھی بنا۔ حضور کے خطبات کیسٹ سے سن کر لکھے جاتے اور کتابت کروا کر شائع ہوتے بعد میں مکرم عبدالحمید صاحب غازی کے مرتب کردہ خطبات آنے لگے جسے کتابت کر کے شائع کیا گیا اور بدر نے حضور کے خطبات جماعت احمدیہ عالمگیر تک پہنچانے کی سعادت حاصل کی۔ 1991ء میں جب حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ تعالیٰ ہندوستان اور قادیان تشریف لائے تو حضور کی تاریخی نوعیت کی مصروفیات و خطابات کو بدر نے 92 ریکارڈ کر کے ہمیشہ کے لئے محفوظ کر دیا۔ ان عظیم سعادتوں کے علاوہ اس پچاس سالہ دور میں بدر نے حضرت خلیفۃ المسیح کے روح پرور و بصیرت افروز خطبات، بیانات، ارشادات، درس القرآن، مجالس عرفان، نظمیں، حضور کی صحت کے بارہ میں اطلاعات، نازہ رویا و کشف، حضور کی تحریکات شائع کر کے بروقت قارئین تک پہنچانے کی سعادت حاصل کی۔

اسی طرح روحانی، علمی، ادبی، تحقیقی، تبلیغی، تربیتی، تاریخی، اخلاقی، سائنسی، طبی نوعیت کے ٹھوس مضامین و نظمیں مرکزی اعلانات، تحریکات، جماعتی و ذیلی تنظیموں کی مساعی، بیرونی جماعتوں کی مساعی کا اہم و تاریخی ریکارڈ محفوظ کیا اس کے علاوہ وصایا، افکار و آراء، دعائے

مغفرت، ولادت، درخواست دعا، خطوط، اعلان نکاح و شادی، ملکی حالات، کتب پر تبصرے، منظوری عہد پیمانہ، غیروں کے تاثرات بھی شائع کئے گئے۔

جلسہ سالانہ قادیان و ربوہ کی چیدہ چیدہ تقاریر، اخبار قادیان، بیرونی ورہوہ کی جماعتوں کی نسائی و حالات، ملکی و عالمی معلومات، مسلمانوں اور دیگر ادیان کے اعتراضات و سوالات کے جوابات، معروف شخصیات کے حالات زندگی، حالات حاضرہ، ضروری منقولات، ضروری ادارے، نمائندگان کے دورہ جات کی تفصیلی اشاعت خصوصی طور پر شامل اشاعت رہیں۔ نئے نئے کاروں کو جوہر دکھانے کے مواقع بدر نے با فراغت مہیا کئے۔

بدر کے عمومی پرچوں کے علاوہ خاص مواقع پر دیدہ زیب معلوماتی خصوصی نمبر بھی شائع ہوئے۔ ہر سال جلسہ سالانہ کے موقع پر خاص نمبر کی اشاعت کا التزام رہا اسی طرح سیرت النبی نمبر، مسیح موعود نمبر، خلافت نمبر، مصلح موعود نمبر، قرآن مجید نمبر، تحریک جدید نمبر، قریب ہر سال مقررہ دنوں میں شائع ہوتے رہے۔ وقتاً فوقتاً پیشویان مذاہب نمبر بھی شائع کئے گئے۔ اس کے علاوہ تاریخی حیثیت کے بعض خصوصی نمبر بھی شائع ہوئے جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔

☆..... 1965ء میں حضرت خلیفۃ المسیح الثانی کی وفات پر آپ کے متعلق خصوصی مضامین شائع ہوئے۔

☆..... نومبر 69ء میں حضرت بابا نانک کی پانچ سو سالہ برسی پر یادگاری شمارہ ”نانک نمبر“ شائع ہوا۔

☆..... دسمبر 1972ء میں لجنہ اماء اللہ کی پچاس سالہ تقریب پر لجنہ کی کارگزاریوں پر خصوصی نمبر شائع ہوا۔

☆..... مئی 1973ء میں پہلی بار خلافت نمبر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفاء کرام کی خوبصورت تصاویر کے ساتھ تین کلر میں شائع ہوا اور یہ نمبر ضلع گورداسپور کے اخبارات میں اول قرار پایا۔

☆..... دسمبر 1977ء کو بدر کی سلور جوبلی کے موقع پر تیس صفحات کا تصاویر کے ساتھ خصوصی شمارہ۔

☆..... جولائی 1978ء کے شماروں میں ”مسیح کی صلیبی موت سے نجات“ کے اہم موضوع پر لندن میں سہ روزہ بین الاقوامی کانفرنس کی روداد چھپی۔

☆..... دسمبر 79ء میں چودھویں صدی نمبر چھتیس صفحات پر شائع ہوا۔

☆..... ستمبر 1980ء بھائی میگزین کے علمی نمبر پر بدر کی خصوصی اشاعت۔

☆..... اکتوبر 1981ء میں ذیلی تنظیموں کے



اجتماعات کا خصوصی نمبر۔

☆ جون 82 حضرت خلیفۃ المسیح الثالثؒ کی وفات پر اور خلافت رابعہ کے انتخاب پر خصوصی مضامین کی اشاعت۔

☆ ستمبر اکتوبر 82 میں پین میں سات سوسال بعد مسجد بشارت کے افتتاح کی خصوصی رپورٹیں۔

☆ اکتوبر 83 میں براعظم آسٹریلیا میں پہلی مسجد کے سنگ بنیاد پر حضور انور کا معرکہ الاراء خطاب اور اسی طرح دورہ کی تفصیلات چھپیں۔

☆ مارچ 87 کے خطبہ میں حضور انور نے تمام جماعت احمدیہ کی طرف سے دنیا بھر کے علماء کو چیلنج دیا کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مقابل پر قسم کھالیں کہ وہ جماعت کے خلاف جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس میں وہ جھوٹے نہیں اگر جھوٹے ہیں تو خدا کی لعنت۔

(بدر 87-4-9)

☆ جون 88 میں حضور انور نے جماعت احمدیہ عالمگیر کی طرف سے دنیا بھر کے معاندین مکفرین و مکذبین کو مہلکہ کا کھلم کھلا چیلنج دیا یہ چیلنج بدر میں 28 جولائی اور 29 ستمبر 88 میں دوبار شائع کیا گیا۔

☆ حضرت چوہدری ظفر اللہ خان صاحب کی وفات پر بدر کے خصوصی مضامین۔

☆ مارچ 89 کو ”صد سالہ جوہلی جشن تشکر نمبر“ 56 صفحات اور خوبصورت نائل پر شائع ہوا اس شمارہ میں اقوام عالم میں امن و اتحاد پیدا کرنے کے لئے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی پیغام شائع ہوا۔

☆ دسمبر 91 ”صد سالہ جلسہ سالانہ نمبر“ چالیس صفحات پر جلسہ کے خصوصی مضامین پر مشتمل پورا اخبار آفیت پرنٹنگ پر شائع ہوا۔

☆ دسمبر 93 ”انسانیت نمبر“ شائع ہوا۔

☆ اکتوبر 93 کو ضلع و طلاق کے فقہی مسائل پر خصوصی شمارہ۔

☆ مارچ 94 سورج چاند گرہن نمبر تیس صفحات پر۔

☆ دسمبر 94 ”تعلیم نمبر“ تیس صفحات پر۔

☆ کوئٹہ تامل ناڈو میں جماعت احمدیہ اور جمعیت اہل قرآن والحدیث کے مابین نوروزہ کامیاب تاریخی مناظرہ ہوا 72 گھنٹے بدل بھٹ ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس صدی میں اتار لانے والے اور کانے دجال کے گدھے کو ظاہری طور پر نکال دکھانے والے علماء کو حضور انور ایدہ اللہ کی طرف سے ایک ارب روپے کا انعامی چیلنج دیا گیا تفصیلی رپورٹ تعلیمی نمبر میں شائع ہوئی۔

☆ 8 ستمبر 94 سے بدر میں دو ہندی صفحات کا اضافہ کیا گیا جو 22 فروری 96 تک جاری رہا۔ ہندی کی لکھائی چھاپائی کے بروقت نہ ہونے کی وجہ سے یہ سلسلہ بند کرنا پڑا۔

☆ دسمبر 95 ”مسیح موعود نمبر“ کتابی شکل میں خوبصورت کتابت آفیت پرنٹنگ پر دیدہ زیب نائل کے ساتھ 140 صفحات پر چھپا جس میں امام مہدی و مسیح موعود کی بعثت آپ کے متعلق پیشگوئیاں اعتراضات کے جوابات اور بیش قیمت مضامین حوالہ جات اور اصل کتب کے ضروری عکس شائع کئے گئے۔ شمارہ ہذا میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ”عیسیٰ علیہ السلام کے جسم عصری کے ساتھ آسمان پر جانے والی حدیث پیش کر نیوالے کوئٹہ

ہزار روپے کے انعامی چیلنج کا ذکر کرتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح الرابع ایدہ اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج پیش کیا گیا کہ حضرت مسیح کو آسمان سے اتارنے والے کو ایک کروڑ روپیہ دیا جائے گا۔

☆ دسمبر 96 ڈاکٹر عبدالسلام نمبر۔

☆ دسمبر 96 اسلامی اصول کی فلاسفی نمبر۔

☆ دسمبر 97 جلسہ سالانہ کے موقع پر ”آزادی ہند کی پچاس سالہ جوہلی“ کی مناسبت سے خصوصی اشاعت 52 صفحات پر دیدہ زیب نائل کے ساتھ جماعتی خدمات کی مختصر جھلک۔

☆ 98 میں جلسہ سالانہ کے موقع پر تبلیغی مضامین کی خصوصی اشاعت۔

☆ نومبر 99 جلسہ سالانہ کے موقع پر بیعت کے متعلق خصوصی اشاعت چھپالیس صفحات پر

☆ نومبر 2000 ”ملیئم نمبر“ عنوان سے آفیت پرنٹنگ اور کیپیوٹر کمپوزنگ کے ساتھ دیدہ زیب خوبصورت نائل 228 صفحات کا چھپا جس میں عیسائی دنیا کے لئے پیغام کے علاوہ جماعت احمدیہ کی تبلیغی، صحافتی، قومی، سیکٹی، مالی، تعلیمی، سائنسی، طبی اور خدمت انسانیت کی صد سالہ خدمات اور آزادی کے لئے جماعتی خدمات کی ایک مختصر جھلک کی عکاسی کی گئی نیز ”تاریخ احمدیت تاریخوں کے آئینہ میں“ کی ایک جھلک اسی طرح بعض نادر و نایاب تصاویر نیز دنیا کے پانچوں براعظموں میں تعمیر مساجد کی ایک ایک تصویر شائع ہوئی۔ نائل کے آخری صفحہ پر ایم ٹی اے کا شمار پورے صفحہ پر شائع کیا گیا الغرض یہ شمارہ جماعت کی مختلف میدانوں میں ترقی اور کامیابیوں پر مشتمل ایک تاریخی دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے۔

☆ نومبر 2001 دعوت الی اللہ کے تعلق سے خصوصی نمبر 44 صفحات

☆ دسمبر 2002 ”صحافت نمبر“ 48 صفحات جماعت احمدیہ کی سوسالہ صحافت کی ایک جھلک اور بدر کی پچاس سالہ خدمات کا مختصر تذکرہ۔

اس کے علاوہ حسب ضرورت طویل و معلوماتی ادارے بھی بدر کی زینت بنے جس میں بالخصوص ”ایڈز قدرت کا بھیانک انتقام“ (96ء میں)۔ ”دیوبندی چالوں سے بچنے“ (96ء میں)۔ ”آزادی ہند اور جماعت احمدیہ“ (97ء میں)۔ ”پاکستان کے بعد اب ہندوستان میں بھی دیوبندی فرقہ پرستی کا زہر“ (98ء میں)۔ ”اسلامی دہشت گردی۔۔ اصل حقیقت کیا ہے“ (2001ء میں)۔ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ علاوہ ان میں حضور انور کے ہومیو پیٹھی کے نسخہ جات (96-97)۔ بدر کی زینت بنے۔ اسی طرح بعض حوالہ جات کے ضروری عکس تحریف شدہ کتب کے اصل و محرف عکس بدر میں شائع ہو کر معلومات کا موجب بنے۔

”وہ پھول جو مرجھا گئے“ سلسلہ وار مضامین مکر چوہدری فیض احمد صاحب درویش قادیان کی طرف سے شروع ہوئے جو ان کی وفات تک جاری رہے۔ اب اس سلسلہ کو مکر چوہدری بدر الدین صاحب عامل درویش نے جاری رکھا ہوا ہے۔ فخر اہم اللہ تعالیٰ۔

بدر کے اجراء کے وقت محترم صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب ناظر دعوت و تبلیغ تھے آپ نے حضرت مصلح موعودؑ کی منظوری سے حضرت بھائی عبدالرحمن قادیانی کو بدر کا پہلا پرنٹر اور پبلشر مقرر فرمایا۔ 54-12-14 سے

87-8-6 تک محترم ملک صلاح الدین صاحب ایم اے پر نثر و پبلشر رہے۔ (موصوف آج کل بیمار ہیں ان کی کمال شفا یابی کے لئے قارئین سے دعا کی درخواست ہے) اس کے بعد سے اب تک مکر منیر احمد صاحب حافظ آبادی یہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔

محترم صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب نے ایک لمبا عرصہ بدر بورڈ کے صدر کی حیثیت سے خدمت سرانجام دی۔ اس کے بعد محترم مولانا شریف احمد صاحب انجی مرحوم ناظر دعوت و تبلیغ نے وفات تک اور اس کے بعد محترم مولانا محمد انعام صاحب غوری صدر نگران بدر بورڈ کی خدمت سرانجام دے رہے ہیں۔ اس وقت بدر بورڈ کے باقی ممبران درج ذیل ہیں۔

محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد۔ مکر منیر احمد صاحب حافظ آبادی۔ مکر منیر احمد صاحب خادم۔ مکر منیر احمد صاحب خادم۔ مکر سید تنویر احمد صاحب ایڈووکیٹ۔

☆ بدر کے پہلے ایڈیٹر مکر مولوی برکات احمد صاحب راجکی 7 مارچ 52 کو مقرر ہوئے۔ بعدہ

☆ محترم ملک صلاح الدین صاحب ایم اے 7 فروری 54 کو مقرر ہوئے۔

☆ مکر محمد حفیظ صاحب بقا پوری 8 ستمبر 56 کو مقرر ہوئے۔

☆ محترم خورشید احمد صاحب انور 13 دسمبر 79 کو مقرر ہوئے۔

☆ مکر عبدالحق صاحب فضل 23 جون 88 کو مقرر ہوئے۔

☆ مکر مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد 19 ستمبر 91 سے قائم مقام ایڈیٹر مقرر ہوئے۔

☆ 123 اپریل 1992 سے یہ خدمت مکر مولانا منیر احمد صاحب خادم بجالارہے ہیں۔ ایڈیٹر بدر کی منظوری حضور انور مرحمت فرماتے ہیں۔

محترم ملک صلاح الدین صاحب ایم اے، محترم محمد حفیظ صاحب بقا پوری، مکر چوہدری فیض احمد صاحب گجراتی، مکر خورشید احمد صاحب انور، مکر جاوید اقبال صاحب اختر مکر محمد انعام صاحب غوری، مکر کھلیل احمد صاحب طاہر، مکر سید وسیم احمد صاحب تیما پوری، مکر بشارت احمد صاحب حیدر، مکر محمد نسیم خان صاحب بدر کے نائب مدیر رہے۔ اس وقت مکر منصور احمد صاحب اور خاکسار یہ خدمت سرانجام دے رہے ہیں۔ مکر مولوی جاوید اقبال صاحب کی خدمات لمبا عرصہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بحیثیت نائب مدیر اب تک سب سے زیادہ عرصہ خاکسار کو اس خدمت کی سعادت ملی۔ فالحمد للہ علیٰ ذالک۔ ایں سعادت بزور بازو نیست۔ اس پر جتنا بھی شکر بجلاؤں کم ہے۔ فالحمد للہ علیٰ احسانہ۔ اس موقع پر میں اپنے سب اساتذہ کرام کا شکر گزار ہوں جنہوں نے نہایت محبت و شفقت سے اپنے علم سے مستفید فرمایا بالخصوص مکر مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد نے نہایت شفقت سے کتابت کا فن سکھایا جس کی اشد ضرورت تھی جتنے ایڈیٹر صاحبان کے ساتھ خاکسار کو کام کرنے کا موقع ملا میرے نہایت شفیق اساتذہ ہی تھے انہوں نے میری غفلتوں کی پردہ پوشی کرتے ہوئے میری حوصلہ افزائی فرمائی اور قلم چلانے کی تربیت دی۔ فخر اہم اللہ تعالیٰ۔

اس طویل عرصہ میں اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے

ایمان افزہ واقعات بھی پیش آئے جس کی داستان بہت طویل ہے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو کسی وقت شائع کی جائے گی۔ جن دنوں خاکسار اکیلا بدر کا کام کرتا تھا بسا اوقات وقت کی کمی کے باعث وقت پر کامپیاں دینے کے لئے خاکسار اپنی اہلیہ و ہمیشہ مبارکہ نصرت الہیہ مکر منیر احمد صاحب قریشی آف لاہور سے پروف ریڈنگ میں بہت تعاون لیتا رہا۔ فخر اہم اللہ احسن الجزاء۔

مکر مرزا عبداللطیف صاحب درویش مرحوم اخبار کے پہلے میگزین مقرر ہوئے آپ اشاعت سے ایک روز قبل اخبار کی کامپیاں لیکر امرتسر جاتے شام کو چھپوا کر لاتے بعض دیگر درویشان کے تعاون سے اگلے روز پرنٹنگ پوسٹ کر دیا جاتا۔ مرزا صاحب کی تبدیلی کے بعد جب تک امرتسر و جالندھر میں اخبار چھپا مکر منیر احمد صاحب کالا افغانستان اور بعد میں مکر مولوی جاوید اقبال صاحب نہایت مستعدی سے اخبار چھپوا کر لاتے۔ مرزا صاحب کے بعد مکر قریشی یونس احمد صاحب اہلم درویش مکر قریشی عطاء الرحمن صاحب ناظر بیت المال خرچ مکر غلام علی صاحب فانی مکر خورشید احمد صاحب انور۔ مکر مظفر اقبال صاحب انچارج احمدیہ مرکزی لاہور قادیان۔ (موصوف اور ان کے عملے نے شمارہ ہذا میں لگنے والے عکس کی فراہمی میں خصوصی تعاون دیا ہم ان کے ممنون ہیں) مکر رفیق احمد صاحب مالاباری نے بحیثیت میگزین خدمت سرانجام دی۔ اس وقت مکر مولانا مظہیر احمد صاحب خادم آزری طور پر یہ خدمت سرانجام دے رہے ہیں۔

بدر کے سب سے پہلے کاتب مکر قاضی عبدالحمید صاحب خوش نویس مقرر ہوئے اس کے علاوہ مکر چوہدری فیض احمد صاحب مرحوم استاذی المکرّم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد، مکر مولانا محمد انعام صاحب غوری، مکر مولانا منیر احمد صاحب خادم، مکر سید وسیم احمد صاحب تیما پوری۔ مکر بشارت احمد صاحب حیدر، مکر بشیر الدین صاحب تنگلی، اور خاکسار کو بدر کی کتابت کا موقع ملا۔ محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب کی کتابت بدر کے لئے خصوصی اہمیت کی حامل رہی۔ فخر اہم اللہ۔

اخبار کی اشاعت امرتسر رانا آرٹ لیتھو پریس میں شروع ہوئی اور لمبا عرصہ تک اخبار وہاں چھپا۔ جنوری 1975 میں امرتسر پریس کی خرابی کی وجہ سے اخبار کی طباعت بے ہند پرنٹنگ لیتھو پریس جالندھر سے ہونے لگی۔ 26 جنوری 75ء کو قادیان میں پرنٹنگ پریس کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ پرنٹنگ پریس کی لیتھو مشین بے ہند پرنٹنگ پریس جالندھر سے خریدی گئی۔ فضل عمر پرنٹنگ پریس کی تحصیب کے بعد 14 اکتوبر 76 کو پہلی بار بدر قادیان سے شائع ہوا اور اب تک شائع ہو رہا ہے۔

مکر چوہدری عبدالسلام صاحب درویش پریس کے پہلے میگزین مقرر ہوئے 1979 میں آپ کو سخت حادثہ پیش آیا اور بائیں بازو پریس میں آکر کٹ گئی۔ موصوف نہایت محنت سے اپنی ڈیوٹی سرانجام دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ 1977 میں پریس میں کام کرتے ہوئے ایک حادثہ میں مکر محبوب احمد صاحب امرتسر کا دلایا ہاتھ کچلا گیا اور ان کی دو چھوٹی انگلیاں کاٹنی پڑیں اللہ تعالیٰ ان کو دینی و دنیاوی برکات عطا فرمائے۔ مکر سلام صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد سے مکر بدر الدین صاحب مہتاب پریس کے میگزین کی حیثیت

باقی صفحہ (43) پر ملاحظہ فرمائیں



# .....جماعت احمدیہ کے عربی رسائل.....

## اور عرب دنیا پر انکے حیرت انگیز اثرات

مکرم عبدالمومن طاہر صاحب سابق ایڈیٹر رسالہ التقویٰ لندن

”البشری“ (کباییر)

فلسطین ::

کباییر، فلسطین سے شائع ہونے والے اس عربی مجلہ کے بانی، دیار عربیہ میں خدمات، بجالانے والے دوسرے مبلغ، خالد احمدیت، حضرت مولانا ابو العطاء صاحب جالندھری مرحوم تھے۔ اس رسالہ کو آپ نے شوال ۱۳۵۰ ہجری بمطابق مارچ ۱۹۳۲ء میں جاری فرمایا۔ شروع میں اس کا نام ”البشائر“ (یعنی خوشخبری) تھا مگر جنوری ۱۹۳۵ء میں یہ ”البشری“ (یعنی بہت بڑی خوشخبری) کے نام سے شائع ہونے لگا۔

عام طور پر یہ رسالہ عربی زبان میں ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی انگریزی زبان میں بھی مضامین شائع ہوتے رہے ہیں۔ یہ رسالہ زیادہ تر ان ممالک میں جاتا رہا ہے جہاں عربی بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ اب عمومی مقامی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور بعض ہمسایہ ممالک میں بھی ارسال کیا جاتا ہے۔

دیار عربیہ میں جماعت کا یہ ترجمان مجلہ خدا کے فضل سے ۷۰ سال سے زائد عرصہ سے خدمت اسلام کی توفیق پارہا ہے۔ چنانچہ کبھی تو یہ یہودیوں کی طرف سے رسول اللہ ﷺ کی ذات پاک پر چلائے گئے زہر ناک تیروں کے سامنے سینہ سپر رہا۔ کبھی بڑے بڑے پادریوں کے ساتھ ہونے والے تحریری مناظرات کے لئے میدان کارزار بنا رہا۔ کبھی یہائیوں کی خلاف اسلام سازشوں کو بے نقاب کرتا رہا۔ اور کبھی حضرت مسیح پاک علیہ السلام کے دفاع میں غیر احمدی علماء کے ساتھ نبرد آزار رہا۔ اسلام کی وہ اصل اور حسین شکل جو مسیح محمدی نے اس دور میں دوبارہ پیش کی ہے اسے اس مجلہ نے عربوں کے سامنے کچھ ایسے ڈر بار انداز میں پیش کیا کہ وہ انگشت بندناں رہ گئے اور ان میں سے کئی صلحاء العرب و ابدال الشام آپ اور آپ کے آقا پرورد و دو سلام بھیجے گئے۔ اللھم صل علی محمد و علی ال محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ال ابراہیم انک حمید مجید۔ اللھم بارک علی محمد و علی ال محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ال ابراہیم انک حمید مجید۔

اس رسالہ کے پہلے مدیر حضرت مولانا ابو العطاء صاحب جالندھری مرحوم تھے۔ (اس دوران

حضرت منیر الحسنی الثامی صاحب مرحوم آپ کی معاونت فرماتے رہے)۔ جن احباب کو اب تک ”البشری“ کی ادارت کی سعادت ملی ہے ان کے اسماء گرامی مع عرصہ ادارت درج ذیل ہیں:

مولانا محمد سلیم صاحب مرحوم (۱۹۳۷ء - ۱۹۳۸ء)  
مولانا چوہدری محمد شریف صاحب مرحوم (۱۹۳۸ء - ۱۹۵۵ء)  
مولانا جلال الدین صاحب قمر (۱۹۵۶ء - ۱۹۶۵ء)  
مولانا فضل الہی صاحب بشیر (۱۹۶۶ء - ۱۹۶۷ء)  
مولانا بشیر الدین عبید اللہ صاحب مرحوم (۱۹۶۸ء - ۱۹۷۱ء)

تبرہ کرتے ہوئے لکھا:

”البشری“ کا دوسرا شمارہ ایک نئی رائے لئے ہوئے سامنے آیا ہے کہ حقیقی عہد نامہ جدید تو قرآن کریم ہے نہ کہ انجیل جیسا کہ عیسائی خیال کرتے ہیں۔ نیز یہ کہ یوحنا نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی پیشگوئی کی تھی ..... قوم نصاریٰ کے رد میں جناب جالندھری صاحب نے جو کچھ تحریر کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ تو اورت، انجیل اور دیگر صحف انبیاء کا بڑا گہرا علم رکھتے ہیں کیونکہ موصوف اپنے ہر دعوے کو اہل کتاب کی کتب سے ثابت کر کے دکھاتے ہیں۔ آپ کے دلائل نہایت پختہ اور واضح ہیں۔ یوں

آپ کے دلائل نہایت پختہ اور واضح ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ موصوف کو خود خدا تعالیٰ نے عیسائی پادریوں کے جھوٹ کا پول کھولنے کے لئے مقرر فرمایا ہے۔ اگر آپ کو کچھ عرصہ مہلت ملی تو آپ لازماً ان لوگوں کو شکست سے دوچار کر دیں گے اور لازماً نصاریٰ میں سے بہتوں کو اسلام کی طرف ہدایت دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ انشاء اللہ۔“

لگتا ہے کہ موصوف کو خود خدا تعالیٰ نے عیسائی پادریوں کے مقابلے اور ان کے جھوٹ کا پول کھولنے کے لئے مقرر فرمایا ہے۔ اگر آپ کو کچھ عرصہ مہلت ملی تو آپ لازماً ان لوگوں کو شکست سے دوچار کر دیں گے اور لازماً نصاریٰ میں سے بہتوں کو اسلام کی طرف ہدایت دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ انشاء اللہ۔“

(اخبار الصراط المستقیم ۲۶ ربیع الاول ۱۳۵۴ شمارہ ۸۳۷ - بحوالہ ”البشری“ فلسطین جون ۱۹۳۵ جلد اول شمارہ ۶)

روح القدس سے تائید یافتہ ::

شرق اردن سے جماعت اخوان المسلمین کے ایک ممبر نے ایڈیٹر البشری کے نام اپنے ۱۸-۱۲-۱۹۳۶ کے خط میں لکھا:

آپ کا موقر رسالہ اتفاقاً میرے ہاتھ لگا اور میں نے فوراً ہی اس کے سارے مضامین پڑھ ڈالے۔ اس میں شائع ہونے والی یہ تحقیقات آپ کی وسیع معلومات، پختہ ایمان اور مضبوط عقیدہ پر گواہ ہیں۔ اس سے

مولانا محمد منور صاحب مرحوم (۱۹۷۲ء - ۱۹۷۳ء)  
مولانا جلال الدین صاحب قمر (۱۹۷۳ء - ۱۹۷۷ء)  
مولانا فضل الہی صاحب بشیر (۱۹۷۷ء - ۱۹۸۱ء)  
مکرم فلاح الدین عودہ صاحب (۱۹۸۱ء - ۱۹۹۱ء)  
مولانا محمد حمید کوثر صاحب (۱۹۹۱ء - ۱۹۹۸ء)  
مکرم موسیٰ اسعد عودہ صاحب (۱۹۹۹ء - ۲۰۰۰ء)  
مکرم فلاح الدین عودہ صاحب (۲۰۰۰ء - ۲۰۰۱ء)  
اور موجودہ مدیر مکرم ڈاکٹر ایمین فضل عودہ صاحب ہیں۔

اثر و نفوذ ::

ذیل میں بعض غیر از جمات عرب شخصیات کی چند شہادتیں درج کی جاتی ہیں جن سے بخوبی پتہ لگتا ہے کہ یہ رسالہ عالم عرب میں کس قدر مقبول تھا اور اس نے خدا کے فضل سے کس قدر شاندار خدمت اسلام کی ہے۔

شرعی عدالت کے وکیل کا تبصرہ ::

یافا، فلسطین کے اخبار ”الصراط المستقیم“ کے مالک اور ایڈیٹر شیخ عبد اللہ افندی القلقلی نے رسالہ البشری پر

ثابت ہوتا ہے کہ اس مجلہ کے شائع کرنے کے پیچھے، خدا تعالیٰ سے گہرا اخلاص، نیک نیتی اور سچائی سے گہرا پیار کا فرما ہے۔ یوں لگتا ہے کہ وہ قلم جو اس مجلہ کو تحریر کرتا ہے اور اس جماعت کے منکرین کے جواب دیتا ہے وہ روح القدس سے تائید یافتہ ہے۔

(”البشری“ فلسطین دسمبر ۱۹۳۶ جلد دوم شمارہ ۱۲)

کامیاب دفاع رسول پر مبارکباد ::

۱۹۷۰ء میں ایک یہودی اخبار میں ہمارے سید و مولیٰ، سید المرسلین، خاتم النبیین محمد ﷺ کے خلاف ایک مضمون نشر ہوا۔ ”البشری“ نے فوراً اس کا ایسا دندان شکن جواب دیا کہ غیر از جماعت احباب نے بھی دلی مبارکباد دی۔ اس ضمن میں موصول ہونے والے پیغامات میں سے دو درج ذیل کئے جاتے ہیں:

پیغام نمبر ۱: یہ خط عکا شہر کی مجلس اوقاف اسلامیہ کے سیکرٹری مکرم محمد حبیبی صاحب کی طرف سے تھا۔ انہوں نے لکھا کہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور آپ کی پر زور تائید کرتے ہیں کہ آپ لوگ آگے بڑھے اور رسول انسانیت اور امن و سلامتی کے پیکر سیدنا محمد ﷺ کے دفاع کا جھنڈا تھام لیا۔ آپ ﷺ تو ہدایت اور دین حق لے کر آئے تھے تاکہ اسے سب ادیان پر غالب کر دیں خواہ کافر اسے ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ ہم آپ کا ایک بار پھر شکر یہ ادا کرتے ہیں کہ ۲۳ - ۲ - ۱۹۷۰ کو اخبار ”یدیعت احرونوت“ میں حضرت خاتم النبیین و المرسلین کے خلاف چھپنے والے افتراء کا آپ نے خوب رد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و مددگار ہو۔ آمین۔

پیغام نمبر ۲: دوسرا خط کابل سے مکرم محمد علی ریان صاحب کا تھا۔ انہوں نے تحریر فرمایا: میں آپ کا شکر یہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اخبار ”یدیعت احرونوت“ میں حضرت محمد ﷺ کے خلاف چھپنے والے مقالے پر خوب احتجاج کیا اور نہایت کامیاب دفاع کیا۔ اس مقالے کے خلاف یہی ایک احتجاجی جواب ہے جو میری نظر سے گذرا ہے حالانکہ ان ممالک میں بے شمار اسلامی تنظیمات ہیں۔

(”البشری“ فلسطین جلد ۳۰ شمارہ ۷۶)

”البشری“، جامعہ احمدیہ ربوہ ::

پاکستان سے عربی زبان میں شائع ہونے والا یہ سہ ماہی رسالہ ۱۹۵۸ء سے شروع ہو کر ۱۹۷۳ء تک جاری رہا۔ اس کا پہلا شمارہ جولائی ۱۹۵۸ء میں نکلا۔ اس کے سب سے پہلے رئیس التحریر حضرت مولانا ابو العطاء صاحب جالندھری مرحوم تھے۔ اس



کے پہلے شمارہ کے پہلے صفحہ پر ”اهدافنا وغایاتنا“ کے عنوان سے اس رسالے کے اجراء کے مقاصد بیان کئے گئے ہیں۔ اس شمارے کے بیرونی نائٹیل پیج پر ہمبرگ (جرمنی) اور ہیگ (ہالینڈ) کی احمدیہ مساجد کی تصاویر ہیں۔ یہ رسالہ نصرت آرٹ پریس ربوہ سے چھپا۔ مارچ ۱۹۵۹ء کے شمارے سے اہم تبدیلی یہ ہوئی کہ یہ رسالہ جامعہ احمدیہ ربوہ کے زیر انتظام شائع ہونا شروع ہوا اور مکرم و محترم ملک مہرک احمد صاحب مرحوم استاذ الجامعہ اس کے رئیس التحریر مقرر ہوئے۔

اس رسالہ کے طابع و ناشر کے طور پر پہلے حضرت مولانا ابو العطاء جالندھری مرحوم کا نام آتا ہے۔ ان کے بعد سید عبدالباسط صاحب اور ان کے بعد حمید احمد خالد صاحب ایم اے کا نام شائع ہوتا رہا ہے۔ رسالہ کے مساعداً التحریر کے طور پر بشیر احمد اختر صاحب اور سجاد احمد صاحب کا نام بھی قابل ذکر ہے۔

ایک نام کا ذکر ضروری ہے اور وہ نام اس رسالہ کے رئیس التحریر محترم ملک مبارک احمد صاحب مرحوم کا ہے۔ کم و بیش ہر رسالہ میں آپ کا نمایاں حصہ ہوتا تھا۔ بعض شمارے جو خاص شمارے کہلا سکتے ہیں سارے کے سارے آپ کے ترجمہ کردہ مضامین پر مشتمل ہیں۔ مثلاً جلد ۶ میں ایک شمارہ (۳۹ صفحات) حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اردو کتابچہ ”سراج الدین عیسائی کے چار سوالوں کا جواب“ کے ترجمہ پر مشتمل ہے۔ ایسا ہی جلد ۸ کا ایک شمارہ (۴۷ صفحات) ”ماہی الاحمدیہ“ فی الرد علی ماہی القادبانیہ۔ یہ ابوالحسن ندوی کے ایک کتابچہ کے رد پر مشتمل ہے۔ نیز ایک شمارہ میں حضرت خلیفۃ المسیح الثانی کے مضمون ”رحمہم اللعالمین ﷺ“ کا عربی ترجمہ ہے۔

ایک اور اہم نام کے بغیر اس رسالہ کا تعارف نامکمل رہے گا۔ یہ رسالہ جامعہ احمدیہ کے زیر انتظام نکلتا تھا اور اس وقت کے جامعہ کی روح رواں ایک وجود باوجود تھا اور وہ تھے اس وقت کے پرنسپل جامعہ احمدیہ حضرت سید میر داد احمد صاحب مرحوم (ابن حضرت سید میر محمد اسحاق صاحب)۔ ان کا نام نامی ”رئیس الادارۃ“ کے طور پر رسالہ کے نائٹیل پیج پر ہوتا تھا۔ جلد ۹ عدد ۳۵، ۳۶ء کے نائٹیل پیج پر آپ ہی کی تصویر شائع ہوئی تھی اور اندر پہلے صفحہ پر عنوان تھا: واسیدہ، کوکت ذرئی حوسی من سماء الاحمدیہ (یعنی وائے افسوس، ایک سردار فوت ہو گیا۔ آسمان احمدیت کا ایک اور درخشندہ ستارہ ڈوب گیا۔

### مجلہ ”التقویٰ“ لندن ::

عرب دنیا میں تبلیغ کو وسیع اور تیز کرنے، عرب احمدی احباب سے رابطہ رکھنے، ان کی تبلیغی

ترقی اور علمی لٹریچر کی ضروریات پوری کرنے، اسی طرح عربی زبان میں تراجم، مزید لٹریچر کی تیاری، اور عربی زبان میں ایک رسالہ کے اجراء کے لئے جنوری ۱۹۸۶ء میں حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے لندن میں ایک مرکزی عربک ڈیسک قائم فرمایا۔ پھر ۱۲۔ ۱۔ ۱۹۸۸ء کو دعا کے ساتھ آپ نے اس عربی ماہانہ رسالہ کا اجراء فرمایا اور اس کا نام ”التقویٰ“ تجویز فرمایا۔ اس کا ایڈیٹوریل بورڈ بھی حضور نے مقرر فرمایا جو درج ذیل احباب پر مشتمل تھا: صفدر حسین عباسی صاحب (چیرمین بورڈ)، عبدالمؤمن طاہر صاحب، نصیر احمد قمر صاحب، منیر احمد جاوید صاحب، عبدالمجید طاہر صاحب، حسن عودہ (رئیس التحریر)۔ مؤخر الذکر شخص کو حضور انور نے اس کی بعض حرکات کی بناء پر مارچ ۱۹۸۹ء میں معطل کر دیا تھا۔ بعد ازاں وہ جلد ہی مرتد ہو گیا۔

بعد میں حضور انور نے حضرت الحاج محمد حلیمی الشافعی صاحب مرحوم اور مکرم عبدالجلیل عامر صاحب کے نام بھی اس فہرست میں شامل فرمائے۔

عرب دنیا میں پہنچا۔ بہتوں کے شکوک و شبہات دور ہوئے اور کئی روجوں نے ہدایت پائی۔ یہ رسالہ دنیا بھر کے بڑے بڑے علماء، مفتیان، فقہاء، مذہبی مفکرین، عرب حکمرانوں، بڑی بڑی لائبریریوں، یونیورسٹیوں اور تنظیموں کو بھجوا یا جاتا رہا۔ بعد میں غیر عرب ممالک میں خصوصاً یورپ اور افریقہ وغیرہ میں رہنے والے عربوں اور عربی دان طبقہ کی طرف زیادہ توجہ دی گئی اور دلچسپی لینے والے نادار قارئین کو مفت دیا گیا۔ چنانچہ اس ارشاد پر عمل کیا گیا اور اس کے نہایت بابرکت پھل ملے۔ ان امور کی قدرے تفصیل قارئین ہی کے خطوط اور بیانات کی روشنی میں پیش ہے۔

### اہل صحافت کے تبصرے ::

ناروے میں مقیم ایک غیر از جماعت عرب صحافی ڈاکٹر احمد ابو مطر لکھتے ہیں:

”اگست ۱۹۹۵ء کے شمارہ میں ”نصوص اسلامیہ مقدسہ“ کے زیر عنوان مضمون پر میں آپ

اسی رسالہ کے ذریعہ مجھے علم ہوا کہ احمدی حقیقی مسلمان ہیں۔ ان کے عقائد میں کوئی ایسی بات نہیں جو انہیں بدعتی یا غیر مسلم قرار دے۔ شیعہ دوسرے مسلمانوں کو کیا کچھ نہیں کہتے مگر اس کے باوجود انہیں غیر مسلم قرار دینے کی کوئی جرات نہیں کرتا، تو احمدیوں کو جو کلمہ شہادت پڑھتے ہیں کوئی کس بناء پر دائرہ اسلام سے خارج قرار دے سکتا ہے؟ یہ بگڑے ہوئے علماء، حدود اللہ کو بدلتے اور احمدیوں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ میرے نزدیک تو احمدی دوسرے مسلمانوں سے بہت بہتر اسلام رکھتے ہیں کیونکہ وہی ہیں جو اسلام کی بہترین رنگ میں تبلیغ کرتے ہیں۔..... (ڈائریکٹر مرکز محمود للدعوة الاسلامیہ ناگجیر یا)

لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ واقعی آپ نے صحیح اسلامی موقف پیش کیا ہے۔ آج بہت سے لوگ دین کے نام پر کئی قسم کی ہلاکت خیز حرکتیں کر رہے ہیں خصوصاً جو آزادی فکر و اجتہاد پر پابندی لگاتے ہیں۔ یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا سب سے بہترین عطیہ عقل انسانی ہے۔“

لبنان کے ایک صحافی محمود رمضان صاحب لکھتے ہیں:

”میں لبنانی ہوں اور جینیوا میں مقیم ہوں۔ مجھے دینی مسائل کے بارہ میں بہت دلچسپی ہے مگر مجھے اسلامی لٹریچر میں بہت سے رخنے اور تضادات نظر آتے ہیں۔ ان تضادات کو سلجھانے کے لئے میں نے بہت مطالعہ اور سوچ بچار کی مگر ناکام رہا۔ خوش قسمتی سے ایک پاکستانی احمدی نوجوان سے ملاقات ہوئی اور اس سے گفتگو کے ذریعے مجھے احساس ہوا کہ اس شخص کے پاس قرآن کریم کی مشکل آیات کی ایسی تفسیر ہے جو نہایت معقول ہے۔ اس تفسیر سے قرآنی آیات میں

بظاہر نظر آنے والا تضاد رفع ہو جاتا ہے اور کسی ایسی نامعقول تاویل کی ضرورت بھی باقی نہیں رہتی جو بعض علماء کرتے ہیں۔ خصوصاً وفات مسیح کے بارہ میں احمدیت کا موقف بڑا مدلل اور واضح ہے۔ یہ احمدی نوجوان عربی نہیں جانتا تھا مگر اس نے عربی لٹریچر بھجوانے کا وعدہ کیا۔ بعد ازاں وہ عربی رسالہ ”التقویٰ“ کے بعض شمارے لایا۔ مجھے اس رسالہ کا انداز بہت اچھا لگا ہے کیونکہ اس میں جدید سائنس اور وفات مسیح کے بارہ میں جماعت احمدیہ کے مسلک میں حسین تطابق نظر آتا ہے۔ براہ کرم مجھے مزید لٹریچر ارسال کریں شاید اللہ تعالیٰ میری صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائے۔

غانا سے ایک مجلہ کے ایڈیٹر مکرم ابو بکری صاحب لکھتے ہیں۔

”میری خوشی کی اس وقت کوئی انتہا نہ تھی جب آپ کی طرف سے اسلام کے روحانی جہاد میں سرگرمیہ رسالہ ملا تھا۔ مگر اب آپ اسے بند کرنا چاہتے ہیں۔ اے میرے اسلامی بھائیو..... مجھے اس رسالہ کی شدید ضرورت ہے کیونکہ اسی کے ذریعہ تو مجھے احمدیت کا تعارف ہوا تھا اور اس جماعت کی عظیم خدمات کا پتہ چلتا ہے۔ آپ اس طرح کریں کہ اس رسالہ کے تبادلہ میں آپ میرا رسالہ قبول فرمائیں۔ مگر خدا را ”التقویٰ“ بھی جہاد گز بند نہ کریں۔“

لندن میں مقیم ایڈ بہت بڑے عرب سکالر، صحافی اور کئی کتب کے مصنف شیخ حسین العالمی لکھتے ہیں۔

”التقویٰ“ میں چھپنے والے امام جماعت احمدیہ کے خلجی جنگ کے بارہ میں خطبات میں ان دنوں پڑھ رہا ہوں۔ براہ کرم مسلمانوں کے سیاسی مسائل کے حل کے بارہ میں خلیفہ صاحب کے یہ سب خطبات مجھے ارسال کریں۔ کیونکہ مجھے ان خطبات سے اپنی تصنیفات کی تیاری میں بڑی مدد ملے گی۔“

### اہل دانش کے تبصرے ::

الجزائر سے ایک بہن نے لکھا:

”آپ کا مجلہ ”التقویٰ“ ملا۔ میری خوشی کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ بہت حیران ہوئی کہ میرے ایسے بھائی ہیں جنہوں نے تراجم قرآن کر کے ایسی شاندار خدمت کی ہے۔ مگر پاکستانی نام نہاد علماء کی طرف سے ہونے والے ظلم پر افسوس ہوا۔ اس رسالہ کی افادیت کے پیش نظر ہم نے اسے اپنی مسجد کی لائبریری میں رکھا ہے۔ میں بڑی ہی خوشی کے ساتھ آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ جس طرح اسلام کے محاسن پیش کر رہے ہیں اس کی دن بدن قائل ہوتی جا رہی ہوں۔ گویا میں بھی آپ میں سے ایک ہوں۔ مجھے تو اسی گھر کی تلاش تھی۔

سری لنکا سے ایک عالم دین مکرم محبتی



صاحب کس مؤمنانہ انکساری اور تواضع سے لکھتے ہیں:

”میں نے ہندوستان سے مولوی فاضل کیا ہے۔ مجھے احمدیت کا قبل ازیں کچھ زیادہ علم نہ تھا۔ اب مجھے پتہ چلا ہے کہ میں تو اس گدھے کی طرح کی تھا جس پر کتا میں لدی ہوں۔ الحمد للہ کہ اس نے مجھے بچا لیا اور میرا دل کھول دیا تاکہ حق اس میں داخل ہو۔ اور یہ اس طرح ہوا کہ کولبو میں ”بیت الحمد“ کے امام صاحب نے ”التقویٰ“ رسالے کے بعض شمارے ارسال کئے۔ جزا ہم اللہ احسن الجزاء۔“

تیونس سے محمد شریف صاحب لکھتے ہیں۔

”مجھے ”التقویٰ“ پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ اس میں تو ایسے اسلامی اور تحقیقی مضامین ہیں جو رواداری کی تعلیم دیتے ہیں۔ امت مسلمہ کو اس وقت ایسے ہی رسالوں کی شدید ضرورت ہے۔ اس کے جو بلی نمبر نے تو مجھے حیران کر دیا۔ تعجب ہے کہ ایسی جماعت سے اب تک ہم کیسے بے خبر رہے؟! ہمارے علماء نے تو آپ کی جماعت کے بارہ میں ہمیں اندھیرے میں رکھا ہوا ہے۔ براہ کرم ایسی نیک جماعت کے بارہ میں مزید معلومات والا لٹریچر دیں۔ اس جماعت نے تو واقعی اپنے تن من دھن اور اپنے علماء کو دنیا بھر میں اسلامی اقدار پھیلانے کے لئے وقف کر ڈالا ہے۔“

سڈنی آسٹریلیا سے ایک عرب دوست حسین حمید صاحب نے لکھا:

”مجلہ ”التقویٰ“ میں ”موازنہ تفسیر القرآن“ کے موضوع کے تحت آپ نے نہایت مفید سلسلہ مضامین شروع کیا ہے۔ براہ کرم اسے مکمل کئے بغیر نہ چھوڑیں تاکہ لوگوں کو قرآن کی صحیح اور اس کے شایان شان تفسیر پتہ لگے۔ انہیں قرآن کے عظیم دلائل کی خبر ہو۔ مسلمانوں کی اکثریت قرآن کے معقول اور صحیح مفاہیم سے بے خبر ہے۔ یہ لوگ قرآن کو عقل سے دور سمجھتے ہیں۔ قرآن کے اکثر تراجم و تفاسیر میں خرافات اور اسرائیلیات شامل کر دی گئی ہیں اور افسوس ہے کہ اکثر مسلمان انہی نامعقول تفاسیر سے چبے بیٹھے ہیں۔“

مراکش سے محمد القاہی صاحب لکھتے ہیں:

”میں نے فلسفہ میں ڈگری کی ہوئی ہے۔ میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت تصور کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رسالہ کے ذریعہ مجھے صراطِ مستقیم دکھائی۔ میں آپ سے یہ بات چمپا نہیں سکتا کہ میں مجلہ میں چھپنے والی ہر چیز سے بے حد متاثر اور مسرور ہوتا ہوں۔ اس مجلہ کا مطالعہ کر کے میں دوسروں کے سامنے سب کچھ بے کم و کاست پیش کر دیتا ہوں جس کی وجہ سے میں نوجوانوں کے حلقہ میں بڑا عالم سمجھا جانے لگا ہوں۔“

اردن سے ہمارے احمدی دوست عبدالرحمان محمد صاحب تحریر کرتے ہیں:

”میں نے رسالہ ”التقویٰ“ اپنی یونیورسٹی کے بعض دوستوں کو دکھایا تو انہیں بہت ہی اچھا لگا۔ بعض نے مزید کا مطالبہ کیا ہے۔ جماعت کے پیش کردہ افکار پڑھ کر یہ لوگ کہتے ہیں کہ واقعی یہ ایسے انقلابی افکار و خیالات ہیں جو سابقہ غلط افکار یعنی اسرائیلیات کا قلع قمع کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو مبارک ہو۔“

### درسگاہوں کے نصاب میں ::

افریقہ کے کئی عربی مدارس اور اسلامی مراکز (جو ہماری جماعت کے نہیں) بڑے اصرار کے ساتھ ہمارا رسالہ منگواتے ہیں تاکہ اسے اپنے نصاب میں شامل کریں اور اپنی لائبریریوں میں رکھیں۔ بطور نمونہ نائیجیریا کی ایک ایسی ہی درسگاہ ”مرکز محمود لدلہ عوۃ الاسلامیہ“ کے ڈائریکٹر محمود احمد تیجانی کے متعدد خطوط میں سے بعض اقتباسات پیش ہیں۔ لکھتے ہیں:

”براہ کرم ”التقویٰ“ اور دیگر کتب ہمیں ارسال کریں اور کرتے رہیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ مخالفین کا پراپیگنڈہ کہاں تک درست ہے۔

میں آپ کے رسالہ سے کانویونیورسٹی میں طالب علمی کے زمانہ میں متعارف ہوا تھا۔ میں جب بھی

کہ لفظ مسلمان کا سب سے سچا اور حقیقی اطلاق احمدی مسلمانوں پر ہوتا ہے۔ لفظ مسلم کے آپ ہی سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ اور چونکہ اس عظیم حقیقت کا علم مجھے ”التقویٰ“ کے ذریعہ ہوا ہے اس لئے براہ کرم اس رسالہ کے باقی شمارے بھی اگر میسر ہوں تو مجھے ارسال کر دیں تاکہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی تفسیر کی اقتضا میرے پاس مکمل ہو جائیں۔ مجھے ان کا ہم نام ہونے پر فخر ہے۔ اسی طرح کلام الامام کا کالم بھی مجھے بہت ہی پسند ہے۔

ہماری درسگاہ کو اس رسالہ کی سخت ضرورت ہے۔ ہم اسے اپنی درسگاہ کی لائبریری میں رکھنا چاہتے ہیں۔ خاکسار خود بھی طلباء، اساتذہ اور دوست احباب کے سامنے احمدیت کی حقیقی شکل پیش کرتا رہتا ہے۔“

چین کے صوبے قانسو کے شہر لانچو (Lanzhou) میں ایک دینی درسگاہ المدردسہ العربیہ بلانشو کے پرنسپل لکھتے ہیں:

”ہمارا یہ دینی مدرسہ ۱۰ سال سے قائم ہے جو یہاں کے مسلمانوں کی ذاتی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اس میں ۲۰۰ سے زائد طلبہ و طالبات ہیں اور ۵ کلاسز ہیں۔ اس کے اکثر اساتذہ برائے نام گذارہ لیتے ہیں۔ اب تک کئی طلباء فارغ التحصیل ہو چکے

یوں لگتا ہے کہ وہ قلم جو اس مجلہ کو تحریر کرتا ہے اور اس جماعت کے منکرین کے جواب دیتا ہے وہ روح القدس سے تاسید یافتہ ہے۔

ہیں۔ براہ کرم اپنا یہ مشہور رسالہ ہمارے مدرسے کے نام جاری کر کے ہماری مدد کریں اور ہمیشہ ہمیں بھیجتے رہیں۔“

### لائبریریوں وغیرہ کی طرف سے مطالبے ::

تیونس سے ایک لائبریری کے ہیڈ عبدالمعید عجی صاحب لکھتے ہیں:

”ہمیں آپ کے رسالہ کا دوسرا شمارہ ملا ہے۔ اس کے مضامین نہایت بلند پایہ ہیں۔ تحقیقی مقالات بڑے گہرے اور با مقصد ہیں۔ براہ کرم اس مجلہ کے سارے شمارے ہمیں عنایت کریں۔“

سری لنکا کے شہر الوجبہ کی ایک مسجد کے امام و خطیب نے اپنے خط میں تحریر فرمایا:

”میں نے ”التقویٰ“ رسالہ میں جماعت کی عربی کتب کا ذکر بھی پڑھا ہے۔ میری شدید خواہش ہے کہ آپ جماعت کی یہ عربی کتب ہماری مسجد کو ارسال کریں۔ میں خود بھی ان سے استفادہ کروں گا نیز دوسرے دوستوں کو بھی دوں گا جو ہماری مسجد کی لائبریری سے آپ کا رسالہ ”التقویٰ“ مستعار لے جا کر مطالعہ کرتے ہیں۔“

اسی طرح بیروت سے ”اذاعتہ الاسلام“

انامی تنظیم نے رسالہ باقاعدہ بھجوانے کی درخواست کی۔ عمان کی ایک دینی تنظیم ”دعاء“ کے ترجمان لکھتے ہیں:

”میں مجلہ ”التقویٰ“ بڑی دلچسپی اور گہری نظر سے پڑھتا ہوں۔ اس میں ہر مضمون پر، خواہ دینی ہو یا دنیوی، سیر حاصل بحث کی جاتی ہے۔ انداز بیان بالکل اچھوتا اور آسان ہوتا ہے۔ میں یہ رسالہ اپنے دوستوں کو بھی پڑھنے کے لئے دیتا ہوں۔“

الجواز سے جمال اغزول صاحب نے لکھا:

”مجھے ایک دوست سے مجلہ ”التقویٰ“ کے چار شمارے ملے ہیں۔ مجھے باقی شماروں کے حصول کا شوق ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس اس رسالے کی ساری کاپیاں ہوں تاکہ میں جلد کرا کے اپنی لائبریری میں محفوظ رکھوں اور مختلف مضامین کی تیاری میں ان سے مدد لے سکوں۔“

### مضبوط ہتھیار ::

گیمبیا میں ہمارے مقامی معلم مکرملی محبت فاتی صاحب لکھتے ہیں:

”یہ رسالہ عربی قاری کے لئے روشن چراغ اور ہم مبلغین کے لئے مضبوط ہتھیار کا درجہ رکھتا ہے۔ اس میں شائع ہونے والے مضامین نہایت دیانت داری، احتیاط اور باریک نظر سے تیار کئے جاتے ہیں۔ زبان نہایت متین، جدید اور خوبصورت ہے۔ ہر تحریر سے اخلاص اور سچی ہمدردی چھلکتی نظر آتی ہے۔ کہیں احادیث مبارکہ ہیں تو کہیں سیرت رسول ﷺ اور کہیں صحابہ کرام کی عظیم قربانیوں کا بابرکت تذکرہ۔ یہ رسالہ تو ہماری تمام دینی، علمی ضروریات کو پورا کر دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی عظیم دلیل بن گیا ہے۔ یہ رسالہ حدیث مبارکہ ”لَوْ كَانِ الْإِنْسَانُ مُعْتَلِقًا بِالثَّرَى لَنَالَهُ ذُجْلٌ أَوْ دِرْحَالٌ مِنْ هَوْلَاءِ“ کا واضح نقشہ پیش کر رہا ہے۔ کیونکہ یہ حدیث مبارکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وجود پر فردی طور پر پوری ہوئی ہے اور اب اجتماعی شکل میں پوری ہو رہی ہے۔

”اے انسانی روح! خدائے رحمان کی کتنی ہی آیات ہیں جن کے پاس سے تم غافلانہ حالت میں گذر جاتی ہو۔ اے انسانی روح! تم اس داعی کی آواز پر لبیک کیوں نہیں کہتی۔“

موریطانیہ سے محمد سنبری صاحب لکھتے ہیں:

”میں نے اس رسالہ سے وہ فائدہ اٹھایا ہے جو میں نے کئی سال تک اپنی درسگاہ سے نہ اٹھایا تھا۔ ہم جماعت کے بارہ میں بہت کچھ سنتے رہے ہیں مگر اب حقیقت کا علم ہوا ہے۔ کاش میرے اصلی وطن مابلی میں بھی آپ کے مراکز اور مساجد ہوں۔ (یاد رہے کہ یہ خط کافی پرانا ہے۔ اب تو خدا کے فضل



سے مالی میں ہمارا مشن اور لاکھوں احمدی احباب ہیں) میں آپ سے یہ بات چھپا نہیں سکتا کہ میرے بعض عیسائی دوست تھے جو میرے ساتھ اکثر دینی بحث کرتے ہوئے کہتے کہ ہمارا دین سب سے بہتر دین ہے۔ اس کے علاوہ نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ مگر میں ان کا کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکتا تھا کیونکہ ہم لوگ بعض ایسے عقائد رکھتے تھے جو ان کے موقف کی تائید کرتے تھے۔ مگر جب مجھے مجلہ ”التقویٰ“ ملا تو میں نے اس میں سے بعض باتیں ترجمہ کر کے ان عیسائی دوستوں کو سنا نا شروع کیں۔ وہ بھلا ہمارے ان دلائل کو کیسے توڑ سکتے تھے جو انہیں کی مقدس کتاب سے لیے گئے تھے۔ آخر انہوں نے فرار میں ہی عافیت سمجھی۔

مگر دوسری طرف میرے مسلمان دوست ہیں جو مجھے مجلہ ”التقویٰ“ کے مطالعہ سے منع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تم نے پہلی دینی درس گاہ میں ہمارے ساتھ جو پڑھا تھا اسی پر اکتفا کرو۔ مگر اس غیر منصف درس گاہ میں تو وہ کچھ پڑھایا گیا تھا جسے عقل سلیم دور سے دھکے دیتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ فیصلہ کرنے سے پہلے وہ دونوں اطراف کی سنے ورنہ وہ ظلم کر بیٹھے گا۔“

## مدینہ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل عالم کا اقرار:

رابطہ عالم اسلامی والے سوری عرب، کویت اور مصر کی بعض یونیورسٹیوں میں طلباء کو خاص طور پر احمدیت کے خلاف تیار کر کے افریقہ میں کام کرنے کے لئے بھیجتے ہیں۔ لیکن خدا کی عجب قدرت ہے کہ ان علماء میں سے اکثر مقابلہ میں آتے ہی کپکے ہوئے پھل کی طرح آغوش احمدیت میں آتے گرتے ہیں۔ پھر یہ سب بنائے مبلغ احمدیت کے دفاع میں ”رابطہ“ کے مقابلہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ”رابطہ“ والے انہیں پہلے بڑی بڑی تنخواہیں اور بڑی مراعات دیتے ہیں۔ چنانچہ بورکینا فاسو کے ایک عالم دین مکرم کنڈا ابراہیم صاحب بیان کرتے ہیں: میں مدینہ منورہ یونیورسٹی کی شاخ دعوت و ارشاد میں اعلیٰ دینی تعلیم کی ڈگری حاصل کر کے اپنے وطن واپس لوٹا اور دعوت و ارشاد میں مصروف ہو گیا۔ ایک روز احمدی مبلغین سے بحث ہو گئی جس میں میں مغلوب رہا۔ اس پر میں نے فیصلہ کیا کہ احمدیت کی اصلیت جان کر رہوں گا۔ دوران تحقیق خوش قسمتی سے مجھے ”التقویٰ“ رسالہ کے بعض شمارے ہاتھ لگے جن میں متعدد مسائل پر مضامین تھے۔ یہ مضامین واقعی اسلام کو حقیقی اور خوبصورت شکل میں پیش کر رہے تھے جس پر اہل اسلام کو فخر کرنا چاہیے۔ اس پر مجھے یقین ہو گیا کہ احمدیت سچی ہے اور میں 1991ء میں احمدی مسلمان ہو گیا۔

یاد رہے کہ اب یہ عالم دین ہمارے مبلغ کے طور پر خدمت اسلام بجلا رہے ہیں۔ الحمد للہ۔

**832 بیعتیں:**

محترم امیر صاحب سینگال لکھتے ہیں:

”سینگال کے CHAKO نامی ایک گاؤں میں میں نے ایک احمدی نوجوان کو ”التقویٰ“ کا جوہلی نمبر دیا۔ اس نے آگے مدرسہ کے عربی کے استاد کو یہ رسالہ دیا اور تبلیغ شروع کر دی۔ استاد نے رسالہ پڑھا اور نوجوان کو کہا کہ جب آپ کے مبلغ آئیں تو مجھے ضرور ملوانا۔ ایک دن خاکسار اس گاؤں کے دورہ پر گیا تو ان استاد صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے چند سوالات کئے اور بیعت کر لی اور مجھے کہا کہ اس رسالہ کو پڑھ کر میں نے یقین کر لیا تھا کہ یہ جماعت سچی ہے۔ میں نے اپنے گاؤں میں جو یہاں سے دس میل دور ہے پہلے ہی جماعت کا تعارف کروا دیا ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے گاؤں چلیں اور احمدیت کا پیغام دیں۔ چنانچہ ہم لوگ وہاں گئے اور سارا گاؤں احمدی ہو گیا۔ اس استاد کے بعض دیگر عربی دان دوست اساتذہ نے بھی اس رسالہ کے ذریعہ اس دورہ میں احمدیت قبول کی اور وہ بھی اپنے مدرسوں سمیت

گیمبیا میں ہمارے مقامی مبلغ یولی باہ صاحب کیا ہی پیارے انداز میں لکھتے ہیں:

میں عرصہ سے بہت دلگیر ہوں کیونکہ ”میرے استاد“ سے میرا رابطہ ٹوٹ گیا ہے۔ یہ رسالہ تو میرے لئے ایسی لائبریری کی طرح ہے جس میں نادر و نایاب کتب ہوں اور جو ہر ماہ مجھے مل رہی ہوں۔ اے ”التقویٰ“ تو کب دوبارہ آئے گا۔ میری نظریں ہر لمحہ تیرے انتظار میں فرس راہ ہیں۔

اے میرے پیارے ”التقویٰ“ تو نے عالم اسلام کو دوبارہ زندگی بخشی ہے۔ تو نے خواب غفلت میں سوئی پڑی امت اسلامیہ کو اپنا پیغام پہنچایا۔ تو نے ملت اسلامیہ میں محبت و اخوت کے رشتے تقویٰ کی بنیاد پر دوبارہ قائم کر دیے ہیں۔ تو نے رسول اعظم ﷺ کی سنت کے مطابق اسلامی تعلیمات کو پھیلایا۔ اس لئے اے میرے پیارے تو شکر یہ اور تعریف کا مستحق ہے۔ اے پیارے ”التقویٰ“ تو اب ہم سے جدا نہ ہونا۔ اللہ اکبر خَربُثَ خَیْبَرِ۔“

انڈونیشیا ان ممالک میں سے ہے جہاں پر اسلام شروع زمانہ کے نیک دل اور پاک سیرت

ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور آپ کی پرزور تائید کرتے ہیں کہ آپ لوگ آگے بڑھے اور رسول انسانیت اور امن و سلامتی کے پیکر سیدنا محمد ﷺ کے دفاع کا جھنڈا تھام لیا۔ (سیکرٹری مجلس اوقاف عکا شہر)

عرب مسلمان تاجروں کے ذریعہ پہنچا اور پھیلا۔ یہ عرب وہاں پر بکثرت آباد ہو گئے۔ اس وجہ سے شروع سے ہی عربی زبان کا وہاں پر بڑا وسیع اور گہرا اثر ہے۔ ہزار ہائی مدارس ہیں۔ کئی عربی یونیورسٹیاں ہیں۔ ہزار ہا طلباء عرب ممالک میں جا کر اعلیٰ عربی اور دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ عربی دان علماء کی یہ کثرت وہاں پر ”التقویٰ“ کے لئے ایک زرخیز زمین مہیا کرتی ہے۔ چنانچہ انڈونیشیا سے ہمارے نہایت مخلص دوست پروفیسر ابو بکر باسلامہ صاحب (جو اب اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے ہیں) نے لکھا:

”اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رسالہ عربی دان احمدی مسلمانوں کے لئے انسائیکلو پیڈیا سے کم نہیں۔ اس سے صراحت حضرت مسیح موعود علیہ السلام ثابت کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ میں آپ کا دوبارہ شکر یہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ رسالہ ارسال فرمایا جس میں سیدنا حضور انور کی فصاحت جماعتی خبریں اور دیگر دلچسپ مضامین ہیں۔ اگر کبھی مجھے ”التقویٰ“ نہ ملے یا اسکے ملنے میں تاخیر ہو جائے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں۔“

یونیورسٹی میں اپنے ساتھی پروفیسر حضرات کو بھی خاکسار یہ رسالہ دیتا ہے۔ اسے پڑھنے کے

بعد وہ مجھ سے جماعت احمدیہ کے عقائد اور دیگر موضوعات کے بارہ میں گفتگو کرتے ہیں۔ اب ان کے ذہنوں سے احمدیت کی منفی تصویر زائل ہو چکی ہے۔ ان میں سے بعض کے اسماء ارسال ہیں تا ان کو آپ براہ راست رسالہ بھیجوا کر سکیں۔ ان میں سے بعض ازہر یونیورسٹی کے فارغ التحصیل ہیں اور بعض یہاں مرکزی وزیر بھی رہ چکے ہیں۔“

ایک اور خط میں تحریر فرمایا:

”الحمد للہ ”التقویٰ“ کے جون اور جولائی ۸۹ء کے دو نسخے مل گئے ہیں۔ ان میں شائع شدہ مضامین بہت عمدہ اور بڑے معیاری ہیں۔ ایسے ہی مضامین کی تبلیغ و تربیت کے لئے ضرورت ہے۔ یہاں ”لاہوریوں“ نے ۲۳ اور ۲۵ دسمبر ۸۹ء کو جوہلی منائی۔ اس موقع پر انہوں نے مختلف اسلامی جماعتوں کو دعوت دی۔ ہم بھی مدعو تھے۔ انہوں نے بہت لٹریچر بھی شائع کیا جس میں جماعت کو ضال اور خارج از اسلام قرار دیا اور کہا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نبوت کا قطعاً کوئی دعویٰ نہیں کیا بلکہ یہ (نعوذ باللہ) حضرت خلیفۃ المسیح الثانیؑ کی اختراع ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح کی باتوں سے لوگ ان کی طرف مائل ہوں گے۔“

مگر ان کے جلسوں میں خدا کی تقدیر ظاہر ہوئی اور جماعت احمدیہ اور دیگر لوگوں کی طرف سے سوالوں کے دوران انہیں بری طرح زک اٹھانا پڑی۔ حاضرین میں بڑے بڑے علماء تھے جنہوں نے ان سے کہا کہ اگر بالفرض مرزا صاحب ہی حقیقی مسیح موعود ہیں تو لا زماً وہ غیر تشریحی نبی ہوں گے۔ یہ ختم نبوت کے خلاف نہیں۔ یہی یہاں کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔

اس دوران ایک مسلمان عالم دین کھڑے ہوئے اور ثابت کیا کہ حضور علیہ السلام نے بغیر شریعت والی نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ پھر انہوں نے ”التقویٰ“ رسالہ کا ایک شمارہ نکال کر کہا کہ یہی جماعت حقیقی جماعت ہے اور یہی اسلامی تعلیم پھیلا رہی ہے اور قرآن کی زبان کو زندہ کر رہی ہے۔ قرآنی تعلیم کو پھیلانا اسی کی خصوصیت ہے۔

یہ واقعات اللہ تعالیٰ کی تائید کا نشان ہیں اور اِنْسِی مُعِیْنٌ مَنْ اَرَادَ اِعَانَتَكَ کی بشارت کو پورا کرنے والے ثبوت۔ اللہ اکبر خَربُثَ خَیْبَرِ۔“

## دعوت مقابلہ دینے والے بزرگ کی بیعت:

یمن کے ایک بزرگ، جن کا نام ظاہر کرنا مناسب نہیں، احمدیت سے اپنے ابتدائی تعارف کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اتفاقاً آپ کے رسالہ ”التقویٰ“ کا چوتھا اور پانچواں شمارہ میری نظر سے گذرا۔ میں آپ سے یہ



بات چھپا نہیں سکتا کہ نہ جانے کیوں مجھے آپ کی دعوت کے بارہ میں انشراح صدر محسوس ہو رہا ہے۔ براہ کرم مجھے اپنے عقائد و تعلیم کے بارہ میں مزید معلومات بہم پہنچاویں خواہ کتب ہوں یا کچھ اور۔ آپ کے اصولوں کو دیکھ کر یا تو میں آپ کی جماعت میں شامل ہو کر اہل یمن کو اس طرف بلاؤں گا یا آپ سے مناظرہ کر کے حق و باطل کو واضح کر دوں گا۔

میں کوئی معمولی شخص نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعہ مجھے علم بخشا ہے اور بعض اوقات رویا کے ذریعہ۔ مجھے تفسیر قرآن کریم کی قدرت عطا کی گئی ہے۔ میں نے کئی غلط تفسیر کی تصحیح کی ہے۔ مثلاً یہ کہ عذاب قبر جیسی کوئی چیز نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب خلیفۃ اللہ بنایا گیا تو آپ جنت میں نہ تھے بلکہ زمین پر تھے۔ اور جب آپ نے شجرہ کھایا تو آپ اپنے مرتبہ سے گر گئے۔ انسان اور خدا کے درمیان براہ راست رابطہ ہو سکتا ہے۔ خدا نے ہر چیز انسان کے لئے مسخر کی ہے۔ باہم دشمنی نہیں ہونی چاہیے وغیرہ۔

اس کے علاوہ بھی اور باتیں ہیں شاید ہم ان کے بارہ میں اختلاف کریں یا اتفاق۔ بہر حال میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اصولوں پر اطلاع پاؤں تاکہ یا تو ہم اکٹھے آگے بڑھیں اور لوگوں کو رب العالمین کی طرف بلائیں یا پھر باہم مقابلہ پر نکلیں۔

میری ایک ہی حجت قرآن کریم ہے۔ سنت اور احادیث پر میں ایمان نہیں رکھتا سوائے ایک محدود حد تک۔ تورات و انجیل پر میرا ایمان ہے۔ ایک مسلمان کے لئے یہ ضروری ہیں۔ اگرچہ میرا یہ بھی ایمان ہے کہ ان کتب میں بعض حصے خدا کی طرف سے نہیں بلکہ بعد میں غلطی سے دوسرے لوگوں نے اپنے انبیاء کے سیرت نامے کے طور پر داخل کر دیئے ہیں۔

صراط مستقیم صرف ایک ہی راہ ہو سکتی ہے ناجی امت صرف ایک ہی ہوگی۔ سب نہیں ہو سکتیں۔ یہ میرے اصولوں میں سے بعض اصول ہیں۔ آپ بھی مجھے اپنے اصولوں سے مطلع کریں۔

میرا یہ خط مرزا صاحب کے سامنے پیش کئے جانے کی درخواست ہے۔ اگر وہ مسکرائے تو وہ حق پر ہو گئے اور میں غلطی پر۔ اور اگر ان کے چہرے پر غصے کی علامات ظاہر ہوئیں تو وہ غلطی پر اور میں حق پر ہوں گا۔

میرے اس خط کو حقیر نہ جانیں۔ میں ہاشمی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ خدا مجھے وہ دے جو کسی اور کو نہ دیا ہو۔ ہو سکتا ہے کہ میں ہی ان امتوں کا مہدی ہوں۔ میں نے یہ خط ایک خاص حالت میں لکھا ہے۔ اگر یہ حالت نہ ہوتی تو میں اس خط کو حقیر سمجھتا اور پھاڑ دیتا اور اپنے آپ کو مجنون خیال کرتا۔

## حضور انور کا پُر معارف

### جواب ::

اس بزرگ کا یہ دلچسپ خط حضور انور کی خدمت میں برائے ملاحظہ پیش کیا گیا۔ آپ نے جو جواب عطا فرمایا اس کے بعض اقتباسات قارئین کی دلچسپی اور معلومات کے لئے پیش ہیں۔ فرمایا کہ ان صاحب کو لکھیں کہ:

”آپ کا بہت دلچسپ خط ملا ہے۔ آپ نے آخر پر جو بات کہی ہے اس سے پہلے میں مسکرا ہی رہا تھا۔ خط پڑھ کر غصہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے یہی تعلیم دی ہے کہ کوئی گالیاں بھی دے تو اس کے لئے دعا کرو اور یہ سب کچھ ہنس کر برداشت کرو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا شعر ہے:

گالیاں سن کے دعا دو پا کے دکھا آرام دو  
کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار  
لیکن آپ کے خط میں تو گالیاں نہیں بلکہ بہت ہی اچھا مضمون تھا اور نہایت صاف گوئی سے آپ نے کام لیا ہے۔ قول سدید سے بات کی ہے۔ اس

پیش کیا ہے یہی درست تصور ہے لیکن قبر کا جو روحانی مفہوم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام پر روشن کیا گیا ہے اس کی روشنی میں یہ سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور ایک نیا جہان روشن ہو جاتا ہے۔۔۔۔۔

یہ کہنا درست ہے کہ آدم اس دنیا میں ہی تھے جب غلیفہ بنائے گئے لیکن یہ کہنا درست نہیں کہ جنت میں نہیں تھے۔ جنت اور شجرہ ممنوعہ کے متعلق میں بارہا روشنی ڈال چکا ہوں کہ جنت دراصل وہ روحانی تعلیم ہے جو انبیاء لیکر آتے ہیں۔ اس سے انحراف پہلے دنیاوی جہنم اور پھر اخروی جہنم پیدا کرتا ہے۔ شجرہ ممنوعہ، شجرہ خشیش کی ہی قسم ہے یعنی خدا کی تعلیم سے باہر قدم رکھنا۔

یہ درست ہے کہ انسان میں شرنہیں لیکن خیر سے باہر شر کا پہلو ہوتا ہے۔ جو جس قدر خیر سے باہر ہوگا اسی قدر شر میں ہوگا۔ خیر اور شر کی مثال روشنی اور سائے کی سی ہے۔

یہ سو فیصد درست ہے کہ انسان براہ راست خدا سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی بالکل درست ہے کہ ہر چیز خدا تعالیٰ نے انسان کے لئے مسخر کی ہے۔

قرآن کریم ہی حجت ہے اور احادیث وہی

اس کے پہلے شمارہ کے پہلے صفحہ پر ”آہد افسنا وغیا اتنا“ کے عنوان سے اس رسالے کے اجراء کے مقاصد بیان کئے گئے ہیں۔ اس شمارے کے بیرونی ٹائٹیل بیچ پر ہمبرگ (جرمنی) اور ہیگ (ہالینڈ) کی احمدیہ مساجد کی تصاویر ہیں۔ یہ رسالہ نصرت آرٹ پریس ربوہ سے چھپا۔

قابل قبول اور قابل استناد ہیں جو قرآن سے متناقص نہ ہوں۔۔۔۔۔ تورات و انجیل کے متعلق آپ کے نظریہ سے بالکل اتفاق ہے۔۔۔۔۔

صراط مستقیم ایک ہی ہو سکتی ہے، یہ درست ہے لیکن شروع سے لیکر تمام انبیاء صراط مستقیم پر ہی آئے ہیں اس لئے ان معنوں میں اس بات کا آپ کی اس بات سے تضاد نہیں کہ تورات و انجیل پر بھی میرا ایمان ہے۔

صراط مستقیم تو ایک ہی ہوگی لیکن وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا میں یہ پیغام ہے کہ ہر شخص جو تقویٰ سے خدا تعالیٰ کی طرف جانا شروع کرے اسکو خدا اپنے قرب کی مختلف راہیں دکھاتا ہے۔

آپ کے متعلق مجھے خوشی بھی ہے اور فکر بھی۔ خوشی اس لئے کہ آپ کے اندر واضح طور پر صداقت و شرافت کی روشنی دکھائی دے رہی ہے۔ اور فکر اس لئے کہ بعض دفعہ انسان خدا تعالیٰ کے تھوڑے سے فضل اور شفقت پر ٹھوکر کھا جاتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا

خط پر ناراض ہونا تو بڑی حماقت ہوگی۔ جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دعویٰ مہدویت کا تعلق ہے اسکے ثبوت کے لئے عام دنیا کے انسانوں کے لئے تو اور بہت سے دلائل بھی پیش کئے جاسکتے ہیں لیکن آپ کو چونکہ قرآن کریم سے محبت ہے اور آپ اسکا باریک نظر سے مطالعہ کرتے ہیں اسلئے آپ کے لئے سب سے اچھی دلیل یہی ہے کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تفسیر کا مطالعہ کر کے دیکھیں اور پھر اپنے دل کی گواہی لیں کہ کیا یہ شخص اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہے یا دوسرے لوگوں کی طرح انسانی نظر سے اور کیا لا بَسْمَہٗ اِلَّا الْمُطَهَّرُونَ میں انکا مُطَهَّرُونَ کا مقام ہے یا نہیں؟

آپ نے جو نکات بیان فرمائے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فراست عطا فرمائی ہے لیکن مزید رہنمائی کے لئے یہ آسمانی نور کی محتاج ہے۔ آپ کے نکات احمدی تعلیم کے قریب تر ہیں لیکن تھوڑی سی اور روشنی پڑ جائے تو نور علی نور ہو جائیں۔۔۔۔۔

حیات موت حیات کا جو تصور آپ نے

## اک نشان کافی ہے ::

حضور انور کے ان کلمات مبارکہ نے اس بزرگ پر جادو کا سا اثر کیا۔ چنانچہ ایڈیٹر ”التقویٰ“ کے نام اگلے خط میں انہوں نے لکھا:

”آپ کے لمبے عرصہ کے بعد ملنے والے خط سے بہت خوشی ہوئی اور اس سے بڑھ کر خوشی ہمارے روحانی معلم حضرت مرزا طاہر احمد صاحب ایدہ اللہ جل شانہ کے جواب سے ہوئی۔ ان کے کلمات مبارکہ واقعی ان کے مشن کی سچائی پر دلالت کرتے ہیں۔ ان کے اس فرمان سے میں سو فیصد اتفاق کرتا ہوں کہ انسان بعض دفعہ تھوڑے سے علم پر جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہوتا ہے مغرور ہو جاتا ہے اور سمجھ بیٹھتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں بڑا مقام اور شان رکھتا ہے۔ واقعی میں آسمانی نور کا محتاج ہوں۔ ہمیں ایک ایسے امام کی اشد ضرورت تھی جو صراط مستقیم کی طرف ہماری راہنمائی فرماتا۔ جو باتیں سمجھنی مشکل ہیں وہ واضح فرماتا۔ اہل الذکر کی طرف لوٹنا واجب ہے یعنی ایسے امام کی طرف جسے اللہ تعالیٰ نے علم و معرفت اور عظیم روحانی درجہ عطا فرمایا ہو۔ مومن کی یہ بڑی ہی خوش بختی ہے کہ وہ ایسے امام کی پیروی کرے جو اسے اس راہ کی طرف لے جائے جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لئے بنائی ہے۔

حقیقت یہ ہے جس بات کی طرف بانی سلسلہ احمدیہ بلا رہے ہیں (خصوصاً بیعت کے الفاظ) وہ عقل اور اس فطرت اسلام کے عین مطابق ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ لہذا میں باوجود اپنی کم علمی کہ اپنے آپ کو آپ کی طرف کھنچا ہوا پاتا ہوں تا آپ لوگوں میں شامل ہو جاؤں اور اس امام کی پیروی میں آ جاؤں جسے اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے۔ سو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری یہ خواہش حضرت امام تک پہنچا دیں۔ نیز اُن سے درخواست کریں کہ میرے لئے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نور میں بڑھائے اور میرا دل ایمان پر مضبوط کر دے تاکہ میں بھی (اس روحانی فوج کا



سپاہی بن جاؤں۔ اللہ کے دین کی اشاعت کے لئے پوری جدوجہد کروں اور اللہ تعالیٰ سے غافل لوگوں کو ہوشیار کروں۔ ان شاء اللہ۔“

حضرت مسیح پاک نے کیا ہی سچ فرمایا ہے کہ:

صاف دل کو کثرتِ اعجاز کی حاجت نہیں اک نشان کافی ہے گردل میں ہو خوف کردگار

**بہت بٹے عالم اور شاعر کا**

**قبول احمدیت:**

مذہبِ مسیح میں ایک شامی دوست مکرم ڈاکٹر رحمن صاحب چند سال قبل مع فیملی احمدی ہوئے ہیں۔ وہاں پر ہمارے مبلغ مکرم محمد صدیق منور صاحب کے خط کے مطابق ”التقویٰ“ ہی ڈاکٹر صاحب کی ہدایت کا موجب بنا۔ آپ بہت بڑے عالم، زبردست مصنف اور بلند پایہ شاعر ہیں۔ انہوں نے احمدیت قبول کرنے کے فوراً بعد قطر کے بعض مولویوں کی طرف سے شائع ہونے والے اعتراضات کا جواب لکھا ہے جو کتابی شکل میں چھپنے کے لئے تیار کیا جا رہا ہے۔ ان کا انداز استدلال نہایت انوکھا اور موثر ہے۔ ان کا اخلاص مجھے مجبور کر رہا ہے کہ ان کے ایسے ہی ایک انوکھے جواب کو احباب کے فائدہ کے لئے یہاں درج کروں۔

مسجد مبارک قادیان پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام درج ہے ”مَنْ دَخَلَهُ كَسَانٌ اٰمِنًا“۔ ایک معترض نے کہا کہ یہ تو قرآنی آیت ہے جو خانہ کعبہ کے بارہ میں ہے۔ مرزا صاحب نے اسے اپنی مسجد پر چسپاں کر دیا ہے؟ اس اعتراض کے رد میں ڈاکٹر رحمن صاحب نے دیگر جوابات کے علاوہ لکھا کہ

”یہ اعتراض کرنے والے عرب، قاہرہ ایئر پورٹ پر اترتے ہیں تو اپنے سامنے بڑے موٹے الفاظ میں یہ آیت قرآنی لکھی ہوئی پاتے ہیں: اَدْخُلُوا مِصْرَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ۔ اب ہر چھوٹے بڑے کو پتہ ہے کہ قاہرہ خدا کے گھروں میں سے کوئی گھر نہیں ہے۔ بے شک اس شہر میں سینکڑوں مسجدیں ہیں مگر اس کے اندر دنیا بھر کے خصوصاً یورپ اور امریکہ کے سیاحوں کی ”خاطر تواضع“ کے لئے جوئے، شراب اور ہر قسم کی ”عیاشی“ کے ہزار ہا ڈے بھی قائم ہیں۔ پھر عیسائی مشنریوں کے گڑھے ہیں۔ امریکہ کے جاسوسی کے اڈے ہیں۔ اس کے باوجود اس شہر کے ماتھے پر یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے: اَدْخُلُوا مِصْرَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ اور کوئی مولوی یا شیخ اس پر اعتراض نہیں کرتا۔ بے شک ہر احمدی دعا گو ہے کہ قاہرہ دوبارہ امن کا گہوارہ بن جائے کہ اس شہر نے صدیوں خدمتِ اسلام کی ہے نیز اس لئے بھی کہ اسی میں اسلام کی عظمت ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ قادیان کی

مسجد مبارک کے ماتھے پر ”مَنْ دَخَلَهُ كَسَانٌ اٰمِنًا“ پڑھ کر یہ مولوی کیوں تیخ پا ہو جاتے ہیں؟ کیا جوئے، شراب اور بدکاری کے اڈوں سے اٹا پڑا یہ شہر ان لوگوں کے نزدیک خدا کے گھروں سے زیادہ پر امن ہے۔

پھر کیا یہ مولوی لوگ، رسول اللہ ﷺ کا وہ مشہور قول بھول گئے جو آپ نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا: مَنْ دَخَلَ بَيْتَ اَبِي سَفْيَانَ فَهُوَ اٰمِنٌ کہ جو ابوسفیان کے گھر میں داخل ہوا وہ امن پا گیا۔ حالانکہ ابوسفیان کا گھر اس وقت تک کفر و شرک، بتوں کی عبادت اور خدا اور رسول کی دشمنی کا گڑھ تھا۔ اگر ایسا گھر لوگوں کے لئے امن کا باعث بن سکتا تھا تو خدائے واحد کی عبادت کے لئے بنائے ہوئے خدا کے اس گھر یعنی مسجد مبارک قادیان کے بارے میں تبرک اور تقاؤل کے طور پر کیوں نہیں کہا جاسکتا کہ جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا۔

**مفتی اعظم کی حضور انور**

**سے ملاقات:**

ایک عرب ملک کے مفتی اعظم، جن کا نام ظاہر کرنا مناسب نہیں، اپنے پہلے خط میں رسالہ ”التقویٰ“ اور احمدیت سے اپنے ابتدائی تعارف کا ذکر

ہے۔ ”کسارۃ الخلیج“ کتاب بھی مل گئی ہے جسے اول سے آخر تک پڑھا ہے۔ یہ خطبات مجلہ ”التقویٰ“ میں بھی (جو اہل انصاف اور غیر متعصب لوگوں کے لئے نہایت مفید ہے) پڑھے تھے۔ اللہ تعالیٰ مولانا الامام کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ آمین۔

رسالہ ”التقویٰ“ کی پر شوکت زبان، نفاست، دیدہ زیبی اور مفید معلومات پر ہم آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت پر اکٹھا رکھے۔ آمین۔

پھر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز سے ان بزرگ کا پیارا تازہ بڑھا کہ حضور سے عرض کی کہ میں اپنے کسی کام کے لئے مع اہلیہ، بیٹی اور بیٹا لندن آ رہا ہوں اور حضور سے ملاقات کا خواہاں ہوں۔ حضور انور نے ان کے استقبال کا ارشاد فرمایا چنانچہ ایئر پورٹ پر ان کا استقبال کیا گیا۔ حضور سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ بہت سی تصاویر اتروائیں۔ حضور انور بھی ان کے اخلاص سے بہت متاثر ہوئے اور انہیں تحائف سے نوازا۔ فالحمد للہ علی ذلک۔

**”التقویٰ“ انٹرنیٹ پر**

سن ۲۰۰۰ سے مجلہ ”التقویٰ“ انٹرنیٹ پر

میں بڑی ہی خوشی کے ساتھ آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ جس طرح اسلام کے محاسن پیش کر رہے ہیں اس کی دن بدن قائل ہوتی جا رہی ہوں۔ گویا میں بھی آپ میں سے ایک ہوں۔ مجھے تو اسی گھر کی تلاش تھی۔ (الجزائر کی ایک عرب خاتون)

بھی دیا جاتا ہے اور اس کے بھی بہت مبارک ثمرات ملنے لگے ہیں۔ الحمد للہ۔ ہالینڈ میں مقیم ہمارے ایک مصری احمدی دوست خالد صالح صاحب پیشہ صحافت سے منسلک ہیں۔ آپ ایک بلند پایہ دینی علمی گھرانہ میں پیدا ہوئے۔ بہت دیدار تھے مگر ملاؤں کی دین میں شدت پسندی کے خلاف تھے۔ مسلمانوں کی بری حالت دیکھ کر اور اس کا کوئی حل نہ پا کر اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ عیسائیت کے جال میں جا پھنسے حتیٰ کہ ایک عیسائی عورت سے شادی کر لی۔ مگر ان لوگوں کو اندر تک دیکھ کر انہیں بھی چھوڑ دیا۔ چونکہ سچے دل سے تلاش حق میں سرگرداں تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی سرگردانی پر رحم فرمایا اور احمدیت کے ذریعہ انہیں دوبارہ آغوشِ اسلام میں لے آیا۔ ہالینڈ میں کسی شال پر تفسیر کبیر (عربی) اور مجلہ ”التقویٰ“ ان کے ہاتھ لگا جو ان کی ہدایت کا موجب بنا۔ ان کے دوبارہ اسلام لانے کا بڑا دلچسپ خط ”التقویٰ“ میں چھپ چکا ہے۔

خالد صالح صاحب بتاتے ہیں کہ گذشتہ دنوں وہ انٹرنیٹ پر گفتگو کے ایک پروگرام میں شریک تھے۔ وہاں مختلف مکاتیب فکر کے مسلمان عربی میں خیال آرائی کر رہے تھے اور موضوع تھا ”بنی اکرم ﷺ پر

یہودیوں کی طرف سے کئے ہوئے جادو کا اثر“۔ اس دوران ایک مراکشی مسلمان شریک گفتگو ہوا اور اس نے اس باطل نظریہ کے خلاف ایسے مسکت اور معقول جواب دیئے کہ سب بہت خوش ہوئے اور پوچھنے لگے کہ یہ زبردست معلومات اور مضبوط دلائل آپ نے کہاں سے حاصل کئے ہیں اس مراکشی مسلمان نے کہا کہ میں نے جماعت احمدیہ کے انٹرنیٹ پر شائع ہونے والے عربی لٹریچر اور رسالہ ”التقویٰ“ سے یہ دلائل اخذ کئے ہیں۔ اس پر ان سے کہا گیا: اس کا مطلب ہے تم احمدی ہو؟ وہ کہنے لگے کہ میں احمدی تو نہیں مگر اس بات میں قطعاً کوئی شک نہیں کہ احمدیوں کے اکثر عقائد سے مجھے اتفاق ہے۔ انہی کے عقائد اسلام اور رسول اللہ ﷺ کو ایسی شکل میں پیش کرتے ہیں جو اصل حقیقی، خوبصورت اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔

اسی طرح امیر صاحب سید گال محترم منور احمد صاحب خورشید نے MTA جرمنی کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ جب سے انٹرنیٹ پر مجلہ ”التقویٰ“ دیا جانے لگا ہے فوری تبلیغی و تربیتی ضرورتیں پوری کرنے میں بڑی آسانی ہو گئی ہے۔ ہم انٹرنیٹ سے ”التقویٰ“ کے بنے بنائے مضامین فوراً لے کر چھاپ لیتے ہیں اور اس سے نوبتائیں کی بروقت راہنمائی ہو جاتی ہے۔

**حلمی شافعی صاحب مرحوم کا ذکر خیر:**

اب خاکسار اس بزرگ ہستی کے بارہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہے جس کے ذکر کے بغیر مجلہ ”التقویٰ“ کی کہانی مکمل نہیں ہوتی۔ وہ ہستی جسے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز، حضرت الحاج محمد حلمی الشافعی کہہ کر یاد فرمایا کرتے ہیں۔ یہ نابغہ روزگار بعد میں آیا اور سب پر سبقت لے گیا۔ آپ کی خدمات کے مختصر تذکرہ سے قبل تمہید کے طور پر حضور انور کے ان تاریخی کلمات میں سے ایک اقتباس پیش ہے جو ان کی وفات پر حضور نے ارشاد فرمائے فرمایا:

”احبابِ جماعت کو پتہ لگ ہی چکا ہوگا کہ ہمارے ایک بہت ہی پیارے بھائی، بہت مخلص اور فدائی انسان، حضرت السید حلمی الشافعی کا وصال ہو گیا ہے۔“

لقاء مع العرب کے متعلق عربوں کی طرف سے جو خط مجھے ملا کرتے تھے ان میں حلمی شافعی صاحب کے متعلق بڑے تعریفی کلمات ہوا کرتے تھے۔ ان کا انداز بیان بہت ہی پیارا تھا۔ اور میں ان سے کہا کرتا تھا لقاء مع العرب میں یہ بات ریکارڈ ہوگی کہ مجھے آپ کے ترجمے کا ایسا مزہ آتا ہے کہ کسی اور کا نہیں آتا کیونکہ آپ لگتا ہے کہ میری جان میں اتر کر ترجمہ کر رہے ہیں۔ میرے رونے پر رو پڑتے تھے۔ میرے ہنسنے پر ہنس پڑتے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ



# جماعت احمدیہ کا مرکزی ترجمان

## ہفت روزہ الفضل انٹرنیشنل لندن

مکرم کرشن احمد صاحب نامہ نگار ”دینک جاگرن“ (جالندھر) قادیان

کیا شان ہے الفضل انٹرنیشنل کی کہ اسے اپنے نمونہ کے پرچہ میں ایسی رپورٹ شائع کرنے تو فیض ملی جس سے سرور کائنات حضرت محمد عربی ﷺ کی ایک عظیم الشان صداقت کا اظہار ہوا۔

اس طرح اس پرچہ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہوا کہ اس میں سیدنا حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الرابع ایده اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے اس خطاب کے متعلق بھی رپورٹ شائع ہوئی جو حضور انور ایده اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے پہلی مرتبہ قادیان کے جلسہ سالانہ سے موافقتی سارے کے ذریعہ ارشاد فرمایا۔

ہفت روزہ الفضل انٹرنیشنل عرصہ 8 سال سے باقاعدگی سے لندن سے شائع ہو رہا ہے اور عالمگیر

ایسی جماعتوں کی صداقت کی ایک عظیم دلیل یہ ہوتی ہے کہ جب بھی طائفہ طائفہ ان کے روحانی کاموں میں روکاؤ نہیں ڈالتی میں اللہ تعالیٰ تمام روکاؤوں کو محض اپنے فضل سے دور کر کے ان کیلئے ترقیات کے سامان فراہم فرمادیتا ہے۔

فرعون زمانہ ضیاء الحق نے نہ صرف روزنامہ الفضل ربوہ پر پابندیاں لگائیں بلکہ خلیفۃ المسیح کو بھی پاکستان سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا چنانچہ حضور انور اللہ تعالیٰ کی منشاء سے لندن تشریف لے گئے اور وہاں عالمگیر جماعت کیلئے تبلیغی و تربیتی سرگرمیاں شروع فرمادیں۔ اس تعلق میں آپ نے ہفت روزہ الفضل انٹرنیشنل جاری فرمایا جس کے پہلے مدیر مکرم رشید احمد صاحب چودھری تھے۔ اس وقت اس اخبار کے مدیر

ترجمہ میں بھی بالکل ویسے ہی مترادفات ملے! یہ حیران کن حقیقت اس وقت سامنے آئی تھی جب عربی ترجمہ کو اصل اردو خطبہ سے ملایا جاتا تھا۔

یہ بات محتاج بیان نہیں کہ ”التقویٰ“ کے تقریباً ہر شمارے کا اکثر حصہ اور بعض دفعہ سارے کا سارا شمارہ آپ ہی کے مقالات یا تراجم پر مشتمل ہوتا تھا جن کو بیک وقت شائع کرنے کے لئے ہم آپ کے مختلف قلمی نام استعمال کرتے تھے۔

لیکن آپ کی اصل عظمت ایک اور بات میں تھی۔ اور وہ یہ کہ اگرچہ آپ نہایت ہی اعلیٰ پایہ کی تصنیف کرنے پر قادر تھے مگر حضرت مسیح موعود اور آپ کے خلفاء کے ارشادات کو آپ اس قدر مبارک اور مقدم خیال فرماتے تھے کہ آپ کہا کرتے تھے کہ میرا ضمیر یہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ حضور اقدس اور خلفاء کی کتب اور خطبات وغیرہ کے ترجمہ کرنے کی بجائے اپنی طرف سے کچھ تصنیف کروں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان عرب احمدیوں پر جو اپنے مقالات یا کتابیں لکھنے میں مصروف ہیں جبکہ حضور اقدس اور آپ کے خلفاء کے ارشادات کا ہزارواں حصہ بھی ہم نے ابھی تک ترجمہ کر کے عرب دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا!!

خدا رحمت کند ایں عاشقان پاک طینت را

### روح رواں

قارئین کو اب تک یقیناً یہ ادراک ہو چکا ہوگا کہ ”التقویٰ“ کی روح رواں تو حضور انور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد حضور ہی کی مسلسل ذاتی دلچسپی اور نگرانی، قدم قدم پر اہمائی، حوصلہ افزائی اور دعاؤں کے طفیل ہی یہ رسالہ اس مقام پر پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص رحم و کرم سے ہمارے پیارے آقا کو کامل شفا عطا فرمائے اور آپ کا نہایت بابرکت سایہ، کامل صحت کے ساتھ، ہمارے سردوں پر تادیر سلامت رکھے (آمین) کیونکہ خلیفہ وقت جماعت کے لئے ”سر“ کی حیثیت رکھتا ہے۔ بلکہ جاننے والے جانتے ہیں اور دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ آیت کریمہ انہ کان ظلوماً جھولاً کی جو تفسیر خلیفہ راشد اپنے عمل سے کر کے دکھاتا ہے اس سے تو یوں لگتا ہے کہ خلیفہ وقت ہی جماعت کا سب کچھ ہے۔ سر بھی اور دھڑ بھی۔



جیسے ایک ہی طبلے کی تاپ پر ہم دونوں کے دل دھڑک رہے ہیں۔ جس مزاج کے ساتھ میں بات کرتا تھا بعینہ وہی مزاج ڈال کر ترجمہ کرتے تھے۔ آواز کا زیر و بم انہی جذبات کے ساتھ ابھرتا اترتا۔ یہ جو خاص ملکہ خدا نے ان کا دیا تھا، اور پھر چہرے پر اسی طرح غم کے آثار، مسکراہٹ، چہرہ کھل اٹھنا، یہ وہ چیزیں تھیں کہ جنہوں نے ترجمے کے مضمون میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے۔ میرے علم میں آج تک کوئی ایسا ترجمہ کرنے والا نہیں آیا جو اپنے چہرے کے انداز، الفاظ کے چناؤ اور طرز کلام میں بات کرنے والے سے مکمل ہم آہنگی پیدا کر لے۔ بڑے اچھے اچھے ترجمہ کرنے والے جرمنی میں بھی ہیں مگر یہ جو باتیں ہیں یہ بالکل ایک عجیب شان تھی۔ اور یہی وجہ تھی کہ ساری دنیا میں اس لحاظ سے بہت ہی ہر دل عزیز تھے۔ اور محبت، خلافت سے ایسی کہ اس کی مثال کم ملتی ہے۔ ان کی ایک اپنی شان تھی۔

ایک عشق تھا اس کام سے۔ خدمت دین کے ساتھ تو ویسے ہی ایک ایسا عشق کہ تراجم میں تفسیر کبیر کے ترجمہ میں اور ہر دوسرے کام میں صف اول کے مخلص فدائی اور انصار اہل اللہ میں سے تھے۔ (برموقع درس القرآن ۲۴ رمضان المبارک ۱۴ فروری ۱۹۹۶ء بمقام مسجد فضل لندن)

خاکسار عرض کرتا ہے کہ تحریری ترجمہ میں بھی علمی صاحب کا بعینہ یہی رنگ تھا کہ گویا حضور کی روح میں ڈوب کر ترجمہ کر رہے ہیں۔ اس بات کا اندازہ اس سے لگائیں کہ علمی صاحب شروع میں ”التقویٰ“ کے لئے حضور انور کے خطبات جمعہ کا عربی تحریری ترجمہ مصر سے کر کے بھیجتے تھے۔ خطبہ کا رواں ترجمہ محترم ملک خلیل احمد صاحب انگریزی زبان میں کرتے تھے۔ جسے بعد میں وہ لکھتے اور پھر کیسٹ سے اصل خطبہ سن کر ترجمے کو کسی قدر بہتر بناتے۔ یہ انگریزی ترجمہ علمی صاحب کو ارسال کیا جاتا تھا اور آپ اسے عربی قالب میں ڈھالتے۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ قاہرہ میں بیٹھے علمی صاحب اس تحریر شدہ رواں انگریزی ترجمہ کو کچھ ایسے انداز میں عربی میں ڈھالتے تھے کہ یہ عربی ترجمہ حضور انور کے اصل الفاظ کے بہت ہی قریب ہوتا تھا۔ بلکہ اگر حضور نے بعض مقامات پر بعض مترادفات استعمال فرمائے ہوتے تو آپ کے

## ”دیکھو میرے دوستو اخبار شائع ہو گیا“

الحام حضرت مسیح موعود علیہ السلام 11 فروری 1906ء

جماعت احمدیہ کی مساعی کو شائع کر رہا ہے۔ اس اخبار کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضرت امیر المومنین ایده اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے لندن میں ہجرت کر کے رہائش اختیار کرنے کی وجہ سے ان دنوں جماعت کا مرکزی ترجمان ہے۔ جس میں حضور انور کے خطبات جمعہ، جلسہ ہائے سالانہ کے خطابات، مجالس عرفان اور حضور انور کی مصروفیات پر مشتمل رپورٹیں سب سے پہلے چھپتی ہیں اس کے بعد ہی کسی اور اخبار یا رسالہ کی زینت بنتی ہیں۔

چونکہ یہ مرکزی ترجمان ہے اس لئے اس میں نہ صرف عالمگیر طور پر جماعت احمدیہ کی مساعی کی رپورٹیں چھپتی ہیں بلکہ جماعت احمدیہ جرمنی اور اس کی ذیلی تنظیموں کی ہر ہفتہ چار صفحات پر مشتمل مساعی کی رپورٹ شائع ہوتی ہے۔

اس اخبار میں باقاعدگی سے مضامین لکھنے والوں میں محترم مولانا دوست محمد صاحب شاہد، محترم خالد سیف اللہ صاحب آسٹریلیا، محترم محمود ملک صاحب ہیں۔ محمود ملک صاحب کا الفضل ڈائجسٹ نہایت مقبول ہے جس میں جماعت کے مختلف اخبارات و رسائل کے مضامین کا خلاصہ شائع کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اخبار کو اور اس کیلئے کام کرنے والے تمام ارکین کو مقبول خدمت دین بجالانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

مکرم نصیر احمد صاحب قمر ہیں۔ اس اخبار کی پہلی اور باقاعدہ اشاعت 7 جنوری 1994ء کو ہوئی تھی۔ دلچسپ اور ایمان افروز بات یہ ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو 11 فروری 1906ء کو الہام ہوا تھا:

”دیکھو میرے دوستو اخبار شائع ہو گیا“

حروف ابجد کے مطابق مندرجہ بالا الہام کے اعداد شمار لگائے جائیں تو 1994 بنتے ہیں اس طرح سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا الہام نہایت شان سے پورا ہوا اور اس بات کا ذکر نہایت ایمان افروز رنگ میں اخبار الفضل انٹرنیشنل کے پہلے مدیر مکرم رشید احمد چودھری نے اپنے اس ادارہ میں فرمایا ہے جو کہ الفضل انٹرنیشنل کے نمونہ کے پرچہ میں شائع ہوا ہے۔

الفضل انٹرنیشنل کے اس نمونہ کے پرچہ کو ایک خاص ذریعہ بھی امتیاز حاصل ہوا کہ اس میں حضور انور ایده اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے دورہ ناروے اور دورہ قطب شمالی کی رپورٹ کے ساتھ ساتھ اس امر کا بھی ذکر تھا کہ حضور نے آنحضرت ﷺ کی پیشگوئی کے مطابق کہ دجال کے زمانہ میں دن بڑا ہو جائے گا تب نمازیں اندازے کر کے ادا کیا کرنا۔ نمازیں وقت کے اندازہ کے مطابق ادا فرمائیں۔ رپورٹ میں درج ہے کہ حضور نے 25 جون 1993ء کو قطب شمالی میں پہلا تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا اور 26 جون 1993ء کو نماز فجر 4 بجے سورج کی موجودگی میں ادا فرمائی۔ سبحان اللہ

خالص اور معیاری زیورات کا مرکز

**الرحیم جیولریز**

پروپر اسٹر۔ سید شوکت علی اینڈ سنز

پتہ۔ خورشید کلا تھ مارکیٹ۔ حیدری نار تھ ناظم آباد۔ کراچی۔ فون: 629443



# تقسیم ملک کے بعد بھارت بالخصوص قادیان سے شائع ہونے والے ہمارے اخبار و رسائل

منصور احمد استاذ جامعہ احمدیہ قادیان

قارئین جانتے ہیں کہ 1947ء کی ہندو پاک تقسیم کے بعد شعائر اللہ کی حفاظت اور اس کی دیکھ بھال کے لئے اولوالعزم خلیفہ مصلح موعود حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ کی ہدایت کے مطابق قادیان میں 313 افراد کو رکھا گیا جو بعد میں درویش کے نام سے موسوم ہوئے۔ لیکن ہر درویش کا یہ کہنا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انہوں نے شعائر اللہ کی حفاظت نہیں کی بلکہ شعائر اللہ نے ان کی حفاظت کی۔

قادیان دارالامان میں 313 درویش کے علاوہ پنجاب کی پوری آبادی پاکستان ہجرت کر گئی۔ قادیان ہندوستان کے تمام صوبوں، تمام جماعتوں سے منقطع ہو کر رہ گیا۔ اخبارات و رسائل بند ہو گئے۔ جلسہ سالانہ کا انعقاد تو ہوتا رہا لیکن مہمانوں کی آمد نہیں کے برابر تھی۔ کچھ عرصہ جمود کی کیفیت رہی۔ جو درویش 313 قادیان میں تھے وہ بھی اپنے محلہ کے اندر کئی سال تک محصور رہے۔ محلہ سے باہر کہیں بھی ان کی آمد و رفت نہیں ہوتی تھی۔ قارئین اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دو سال بعد پہلی دفعہ بعض درویشان کو قادیان سے باہر جانے کا موقع ملا ہے۔ اپریل 1949ء میں پہلی دفعہ چار افراد پر مشتمل ایک وفد ایک ضروری کام کے پیش نظر پولیس کے حفاظتی دستہ کے ساتھ بنا لیا اور جلد از جلد اپنا کام ختم کر کے پولیس کی حفاظت میں قادیان واپس آ گیا۔

آہستہ آہستہ جب حالات معمول پر آتے گئے تو اس بات کی شدت سے ضرورت محسوس ہوئی کہ اخبار و رسائل کا سلسلہ اب پھر از سر نو قادیان دارالامان سے شروع ہوتا کہ بالخصوص ہندوستان کے احمدی اس کے ذریعہ سے پھر اپنے وطن اور مرکز قادیان سے جو سکیں اور قادیان میں مقیم درویشان کی مساعی جلسہ سالانہ کی خبریں اور یہاں کے لیل و نہار، مرکز سے جڑی خبروں اور حالات و واقعات سے آگاہ ہو سکیں۔ نیز خلیفہ وقت کے ارشادات و احکامات اس کے ذریعہ سے ہر احمدی تک پہنچ سکیں۔ چنانچہ اس مقصد کے لئے درویشان کرام نے ملکر ایک رسالہ جاری کیا اور اس کو اپنے یعنی ”درویش“ کے نام سے موسوم کیا اور اس کے سرورق پر باقاعدگی سے یہ لکھا جاتا رہا:

”بزم درویشان قادیان دارالامان کا ماہنامہ ”درویش“ رسالہ ہذا کے بارہ میں مختصر وضاحت ذیل میں کی جاتی ہے۔

ماہنامہ درویش:

انقلاب 1947 کے بعد مرکز احمدیت قادیان مشرقی پنجاب سے شائع ہونے والا سب سے پہلا ماہنامہ۔

پہلا پرچہ: ستمبر 1951

زیر نگرانی: محترم صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب ناظر دعوت و تبلیغ صدر انجمن احمدیہ قادیان۔

ایڈیٹران: مبارک طالب پوری

صاحب: سعید احمد صاحب بی اے آرزو۔ محمد صادق ناقد صاحب۔ مبارک علی صاحب واقف زندگی۔

نائبین: بشیر احمد صاحب ناصر۔ محمد صادق ناقد صاحب۔ عبدالرحیم صاحب فانی۔ مولوی عبدالحق صاحب قریشی۔ مولوی منظور احمد صاحب سیالکوٹی۔

یہ رسالہ ہر ماہ تین تاریخ کو شائع ہوتا اس میں مذہبی علمی اور ادبی مضامین شائع ہوتے اور ساتھ ہی قادیان کی خبریں، مساعی اور درویشان قادیان و صحابہ کرام کے حالات اس رسالہ کی رونق بنتے رہے۔

اخبار بدر کے جاری ہونے پر ماہنامہ درویش بند ہو گیا۔ اخبار بدر کے بے سفر اور اس کی عظیم خدمت پر ایک مستقل مضمون قریشی محمد فضل اللہ صاحب نائب مدیر بدر کی طرف سے شائع اشاعت ہو رہا ہے۔

ماہنامہ ”مشکوٰۃ“

ایک ایسے رسالے کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی جو خاص طور پر نوجوانوں کے لئے ہو اور انہیں پیش نظر رکھ کر اور ان کی ضروریات اور تقاضوں کے مطابق اس میں دینی و دنیاوی علمی مضامین شائع ہوں اور خدام خصوصیت کے ساتھ اس سے استفادہ کر کے اپنے علمی معیار کو بڑھائیں۔ چنانچہ

☆..... مجلس خدام الاحمدیہ کے ترجمان کے طور پر رسالہ ”مشکوٰۃ“ اولاً فاتح کے نام سے اکتوبر 1981 کو نمونہ جاری ہوا۔

زیر نگرانی: محترم صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب صدر مجلس خدام الاحمدیہ بھارت۔

☆..... پھر مشکوٰۃ کے نام سے مارچ 1982ء سے باقاعدگی سے شائع ہو رہا ہے۔

ایڈیٹران: مکرّم منیر احمد صاحب خادم۔

مکرّم قریشی محمد فضل اللہ صاحب۔ مکرّم بلال احمد شمیم صاحب۔ مکرّم زین الدین صاحب حامد۔ اس وقت مکرّم زین الدین صاحب حامد مدیر کے فرائض سرانجام دے رہے ہیں۔

نائبین: مکرّم اور یس احمد صاحب اسلم۔ مکرّم نور الدین صاحب انور۔ مکرّم قریشی محمد فضل اللہ صاحب۔ مکرّم مقبول احمد صاحب بی کام۔ مکرّم طارق

کاپی مکرّم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد صدر مجلس انصار اللہ بھارت نے حضرت صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب ناظر اعلیٰ و امیر جماعت احمدیہ قادیان کو دی۔ اور ایک کاپی مکرّم مولانا حکیم محمد دین صاحب نے صدر مجلس انصار اللہ بھارت کو عنایت فرمائی۔

یہ رسالہ سہ ماہی ہے نصف ہندی میں اور نصف اردو میں نکلتا ہے۔ یہ رسالہ بھارت میں مجلس انصار اللہ کی کارگزاریوں اور کادشوں کو منظر عام پر لانے کیلئے انشاء اللہ مفید ثابت ہوگا۔

ماہنامہ Samadhana Vazhi (تامل):

جماعت احمدیہ چینی (مدراں) کی طرف سے نکلنے والا یہ ماہنامہ رسالہ ہے جو کہ 33 سال سے مسلسل نکل رہا ہے۔

ایڈیٹر: اس کے موجودہ ایڈیٹر مکرّم مولوی محمد ایوب صاحب فاضل ہیں اور نائب مدیر کے فرائض مکرّم ایم بشارت احمد صاحب سرانجام دے رہے ہیں۔ اس کے پہلے ایڈیٹر مکرّم مولانا محمد عمر صاحب فاضل مبلغ انچارج کیرلہ و چیف ایڈیٹر رسالہ ”ستہ دو تن“ تھے۔

اس رسالہ میں درس القرآن، درس حدیث، ملفوظات حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام، حضرت خلیفۃ المسیح الرابع ایڈ اللہ تعالیٰ نصرہ العزیز کے کھل خطبہ جمعہ کا ترجمہ، اسی طرح مجلس عرفان مستقل طور پر شامل اشاعت ہوتے ہیں۔

سہ ماہی ”یوگا رشمی“

☆..... مقام اشاعت: منگور (کرناٹک)

☆..... ایڈیٹر: مکرّم محمد یوسف صاحب

☆..... سن اجراء: 1975

☆..... زبان: کنڑا

درس قرآن، درس حدیث اور ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس رسالہ کے مستقل کالم ہیں۔ علاوہ ازیں دینی، علمی و تبلیغی مضامین اس میں شائع ہوتے۔ جب سے نومبائین بکثرت جماعت میں شامل ہو رہے ہیں ان مقامی رسائل کی افادیت پہلے سے بہت بڑھ گئی ہے۔

ماہنامہ ”البشری“

☆..... مقام اشاعت: کلکتہ (مشرقی بنگال)

☆..... ایڈیٹر: مکرّم جناب ماسٹر مشرق علی

صاحب طا

☆..... سن اجراء: 1971

یہ رسالہ بنگلہ زبان میں نکلتا ہے اور اہل بنگال کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لحاظ سے مفید ثابت ہوا ہے اور جیسا کہ ذکر کیا گیا نومبائین کے بکثرت اضافہ کے ساتھ ساتھ ان مقامی رسالوں کی اہمیت و افادیت میں بھی بہت اضافہ ہو گیا ہے۔

احمد خان صاحب۔ مکرّم ظہیر احمد جاوید صاحب۔ مکرّم حبیب احمد صاحب طارق۔ مکرّم فخر احمد صاحب چیمہ۔ مکرّم نصیر احمد صاحب عارف۔ مکرّم عطا الہی احسن غوری صاحب۔ مکرّم شاہد احمد صاحب ندیم۔

پہلے یہ رسالہ سہ ماہی نکلتا تھا پھر دو ماہی ہوا اور اب ماہانہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے فضل سے اس کا معیار دن بدن بلند ہوتا جا رہا ہے۔ اخبار بدر میں چونکہ ٹھوس علمی مضامین کے علاوہ مشکل زبان کا استعمال بھی ہوتا ہے اس لئے یہ رسالہ اپنے آسان، عام فہم اور نوجوانوں کیلئے ان کے مناسب حال تفریحی، علمی و ادبی مواد پیش کرنے کے لحاظ سے تقسیم ملک کے بعد قادیان سے نکلنے والا پہلا رسالہ ہے۔ اور یہ چونکہ مجلس خدام الاحمدیہ کا ترجمان ہے لہذا اس میں مجلس کی رپورٹیں اور کارگزاریاں بالخصوص شائع ہوتی ہیں۔

ماہنامہ ”راہ ایمان“ (ہندی)

اللہ کے فضل سے گزشتہ چند سالوں میں ہندوستان میں کثرت سے بیعتیں ہوئیں لوگ جو جو احمدیت میں شامل ہوئے ان میں ایک کثیر تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اردو نہیں جانتے۔ ان کی تعلیم و تربیت کے لئے ایک ایسے رسالے کی ضرورت محسوس کی گئی جو کہ ہندی زبان ہو۔

تاریخ اجراء: جولائی 1999

ایڈیٹر: مکرّم مولوی محمد نسیم خان صاحب

نائب ایڈیٹر: مکرّم عبدالرؤف صاحب تیر۔ یہ رسالہ ماہانہ ہے اور اس میں جیسا کہ لکھا گیا ہے نومبائین کی جماعتوں کی رپورٹیں اور کارگزاریاں شامل اشاعت کی جاتی ہیں۔ نیز حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفاء عظام کے اسلامی معلومات پر مشتمل مضامین اس رسالہ کی زینت بنتے ہیں۔

سہ ماہی ”انصار اللہ“

مجلس انصار اللہ بھارت کی طرف سے 2001 میں سالانہ اجتماع مجلس انصار اللہ بھارت کے موقع پر اس کی ایک کاپی نمونہ شائع کی گئی۔ اس سال اکتوبر 2002 سے اس کی باقاعدہ اشاعت شروع ہو گئی۔

ایڈیٹر: مکرّم مولانا محمد جمید کوثر صاحب استاذ جامعہ احمدیہ قادیان۔

نائبین: مکرّم منیر احمد حافظ آبادی صاحب وکیل الاعلیٰ تحریک جدید۔ مکرّم عبدالوکیل نیاز صاحب۔ جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا یہ رسالہ اسی سال اکتوبر 2002 سے شروع ہوا چنانچہ اس کی رسم اجرائی بھی اسی سال 17 اکتوبر کو سالانہ اجتماع مجلس انصار اللہ بھارت کے موقع پر ہوئی۔ رسم اجرائی کے موقع پر اس کی ایک



# براعظم افریقہ کے احمدی رسائل اور عیسائی دنیا پر ان کا اثر

..... از محترم مولانا عبدالوہاب بن آدم صاحب امیر و انچارج مشنری گھانا.....

جماعت احمدیہ عالمگیر، خدائی جماعت ہے۔ قادیان کی گننام ہستی سے اٹھنے والی آواز آج دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئی ہے، خدائی وعدہ ”میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا“ کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام براعظم افریقہ میں بھی پہنچا اور ہاتھوں ہاتھ لیا گیا آج براعظم افریقہ کا شاید ہی کوئی ملک ہو جہاں احمدیت متعارف نہ ہو۔ خدا کے فضل سے جماعت احمدیہ عالمگیر براعظم افریقہ میں اپنے قدم جما چکی ہے۔

خلافت ثانیہ کے آغاز کی بات ہے حضرت مصلح موعودؑ کی نظر سے صحیح بخاری کی ایک حدیث گزری اس میں لکھا تھا کہ:-

افریقہ سے ایک شخص نمودار ہوگا جو خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوگا۔

حضور کے دل پر اس حدیث کا گہرا اثر ہوا۔ اس سے آپ کے دل میں افریقہ میں تبلیغ اسلام کا خاص جوش پیدا ہوا۔ سوچا کہ کیوں نہ ایسی نوبت آنے سے قبل ہی براعظم افریقہ کو اسلام کے ذریعہ فتح کیا جائے یہی جوش و ولولہ اور اسلام کی محبت و غیرت تھی جس نے افریقہ میں مبلغین بھجوانے کی خواہش کو جنم دیا اور حضرت مصلح موعودؑ نے 1921ء میں مغربی افریقہ کے لئے حضرت مولانا الحاج عبدالرحیم نیر صاحب کا بطور مبلغ تقرر فرمایا۔ مغربی افریقہ میں احمدیت کے تعارف کی سیم خدائی سیم تھی۔ 1920ء میں غانا (اس وقت یہ جگہ گولڈ کوسٹ کہلاتی تھی) کے قصبہ اکرافو کے یوسف نیاکو Yusuf Nyanko نامی ایک مسلمان نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک سفید آدمی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ اس خواب سے بے حد متاثر ہوئے۔ انہیں اپنی خواب پر بے حد یقین تھا۔ اس نے اپنی خواب کا ذکر مسٹر عبدالرحمن پیڈرو (یہ نائیجیریا سے تعلق رکھنے والے ایک مسلمان تھے) سے کیا۔ انہوں نے اسے بتایا کہ:-

انہوں نے ایک مسلم مشن کے متعلق پڑھا ہے جس کا مرکز ہندوستان ہے اس کی ایک شاخ لندن میں بھی ہے۔

اکرافو کے اسی باشندے نے اپنی خواب کی اطلاع علاقہ کے چیف، چیف مہدی آیا کودی۔ چیف مہدی نے آکر اکرافو اور منکسم کے ارد گرد کے مسلمانوں کو اطلاع بھجوائی کہ منکسم میں ایک میننگ بلائی جائے جس میں مسٹر یوسف نیاکو کی خواب کے بارہ میں کوئی فیصلہ کیا جائے۔ چنانچہ جب اس علاقہ کے فائنٹی مسلمان منکسم میں جمع ہوئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ احمدیت کے مرکز قادیان میں ایک خط لکھا جائے جس میں مطالبہ کیا جائے کہ انہیں ایک مبلغ بھیجا جائے۔ چنانچہ اس خط کی بناء پر حضرت مصلح موعودؑ نے صرف

گولڈ کوسٹ کی بجائے سارے مغربی افریقہ کے لئے حضرت مولانا عبدالرحیم نیر صاحب کا تقرر فرمایا۔

(یاد رہے کہ افریقہ کے ملک نائیجیریا میں 1917 سے قبل جماعت قائم ہو چکی تھی تاہم کوئی مبلغ موجود نہ تھا) ابتدائی مبلغین جو مغربی افریقہ بھیجے گئے ان میں مولانا حکیم فضل الرحمن صاحب، مولانا نذیر احمد بشر صاحب، مولانا عطاء اللہ کلیم صاحب مرحوم شامل ہیں۔ سیرالیون میں مولانا نذیر احمد علی صاحب اور نائیجیریا میں مکرم نسیم سیفی صاحب مرحوم رہے۔ اور مشرقی افریقہ میں مولانا شیخ مبارک احمد صاحب اور مولانا محمد منور صاحب کا ذکر ملتا ہے۔

افریقہ کے مسلمان اس توہم میں مبتلا تھے کہ قرآن مجید بیلک میں پڑھنے سے درخت مرجھا جاتے ہیں، اگر حاملہ سن لے تو اس کا حمل ساقط ہو جائے گا لیکن ہمارے مبلغین اپنے ہاتھ میں قرآن اور بائبل لیکر نکلے بڑی جوانمردی سے دونوں کتب کا موازنہ کرتے ہوئے اسلام کا پیغام پہنچایا ہمارے مشن نے جب ذرا قدم جمائے تو ہسپتالوں اور سکولوں کے ذریعہ خدمت خلق کے ایک نئے باب کا آغاز کیا۔ اس وقت عیسائی سکول تھے جب مسلمان وہاں داخل ہوتے تو ان کو عیسائی نام دیئے جاتے اور وہ تمام حربے استعمال کرتے جن کے نتیجہ میں وہ مسلمان عیسائی کر لئے جاتے۔ ان ملکوں میں جماعت کے سکولوں کے قیام پر مسلمانوں نے سکھ کا سانس لیا۔

ہمارے مبلغین نے اشاعت اسلام کے لئے

اخبارات و رسائل کو بھی ذریعہ بنایا۔ غانا میں The Guidance کا آغاز ہوا۔ نائیجیریا سے The Truth نکالا گیا۔ مشرقی افریقہ سے Mapenzi Yamungu نامی اخبار نکالا گیا اور جنوبی افریقہ سے Al-Asr کی اشاعت کا آغاز ہوا۔ اسی طرح سیرالیون سے 1950ء کی دہائی میں The African Creasent نکالا گیا۔ یہ اخبار ملک کے اہل علم طبقہ اور مخلص مسلمانوں میں کافی مقبول تھا اس کی ادارت کے فرائض مولانا محمد صدیق صاحب امرتسری مرحوم مولانا بشارت صاحب مرحوم مولانا شیخ نصیر الدین صاحب اور مکرم مولانا محمد صدیق صاحب گورداسپوری نے مختلف اوقات میں انجام دیئے اس وقت مکرم طارق محمود صاحب جاوید امیر جماعت سیرالیون اس کے مدیر ہیں۔ ان اخبارات میں اسلام کی حقانیت پر مضامین شائع ہوتے نیز عیسائیوں کی طرف سے اٹھنے والے سوالوں کے جوابات دیئے جاتے۔

غانا سے مئی 1962ء میں اخبار The Guidance ماہوار نکلتا شروع ہوا۔ یہ اخبار بے حد مقبول ہے۔ اس کا ادارہ ریڈیو اور ٹی وی پر بڑھ کر

سنایا جاتا ہے۔ اخبار کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ وزارت خارجہ غانا اس رسالہ کے پرچے اپنے خرچ پر خرید کر دنیا بھر میں موجود غانا کی ایم پیسوں کو بھجوا کر کرتی تھی۔

چند سال پہلے کی بات ہے کہ جرمنی کے ایک مشہور مناد اور عیسائی مبلغ Evangelist Bonke غانا آئے۔ ان کا اعلان تھا کہ وہ دعا کے ذریعہ اندھوں کو بینائی بخش سکتے ہیں۔ بہروں کو شنوائی عطا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اس مقصد کے لئے ایک بڑے مجمع کا انتظام کیا ہم نے اپنے رسالہ کی مدد سے لکھا کہ ایسے معجزات صرف شعبہ بازی ہیں۔ مستند اکثری شہادت ہونی چاہئے کہ وہ لوگ اصلی اندھے ہیں۔ ایک شخص کا چند لٹوں کے لئے بیٹا ہونا کافی نہیں ایک دو دن دیکھا جائے کہ واقعی اس کی بینائی واپس آئی ہے کہ نہیں۔ ہم نے ایک صحافی Mr. Md. Mongu کو ساتھ لیکر Mampong کے School for the blind سے رابطہ کیا پرنسپل کو بتایا کہ ایک جرمن آئے ہیں جو اندھوں کا علاج کرتے ہیں۔ ہم نے ان سے چند طلباء مانگے تو انہوں نے کہا اساتذہ بھی ساتھ لے جائیں۔ ہم ان سب کو لیکر مجمع میں پہنچے ان صحافی نے مجمع میں اعلان کروایا کہ ہم اندھوں کے ایک سکول سے چند طلباء اور اساتذہ لائے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مہمان جرمن دوست انہیں بینائی بخشیں۔ یہ صحافی انگریزی، جرمن اور فرانسیسی زبان کے ماہر تھے۔ صحافی نے یہ بات انگریزی زبان میں کی تو جرمن مبلغ نے یہ تاثر دیا کہ شاید وہ بات کو سمجھ نہیں پائے۔ اس پر صحافی نے جرمنی زبان میں اسے اپنا مدعا بتایا۔ عیسائی مبلغ گھٹنوں دعا کرتے رہے مگر ان ”اصلی اندھوں کو بینائی بخشنے کا معجزہ نہ دکھاسکے۔ اگلے روز Ghanaian Times اخبار نے اس ناکامی کا خوب چرچا کیا۔

The Truth کا آغاز مولانا نسیم سیفی صاحب کی زیر ادارت ہوا۔ یہ ہفتہ وار اخبار تھا اس میں ایک کالم عیسائیوں کے سوالوں کے جوابات کے لئے مخصوص تھا رسالہ بے حد مؤثر اور مقبول تھا۔ نائیجیریا میں عیسائیت کے خلاف جتنی بھی کتابیں چھپیں وہ اسی رسالہ میں شائع ہونے والے مضامین پر مشتمل ہیں۔ اس رسالہ کی طاقت اور اثر کا اندازہ ایک واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے۔ نائیجیریا کی حکومت نے Mr. MBO کو انگلستان میں حکومت کا سفیر بنا کر بھیجا۔ ان صاحب نے انگلستان میں قیام کے دوران ایک تقریب میں کہا:-

”نائیجیریا میں عیسائیت پر بہت زور ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 50 سال کے اندر اندر سارا ملک عیسائی ہو جائے گا“

محترم مولانا نسیم سیفی نے یہ خبر پڑھی تو انکی غیرت اسلامی نے خاموش رہنا گوارا نہیں کیا۔ انہوں نے سفیر کے اس بیان کے خلاف اپنے رسالہ میں تحریک شروع کر دی۔ مضامین کا سلسلہ شروع کیا آپ نے اس بات پر زور دیا کہ اول تو یہ کہنا ہی غلط ہے کہ ملک میں عیسائیت پر زور ہے۔ یہ ملک تو مسلمان ملک ہے۔ اکثریت مسلمانوں کی ہے آپ نے اس میں ضمنی اعداد و شمار بھی پیش کئے۔ آپ نے لکھا کہ یہ اسلامی ملک ہے۔ عیسائی ملک نہیں۔ سفیر صاحب کو عیسائیت کے نمائندہ کے طور پر نہیں بھیجا بلکہ ملک کے نمائندہ کے طور پر بھیجا ہے جو اسلامی ہے۔ ایسے بیان سے پتہ چلتا ہے سفیر صاحب نے اپنی سفارت کا حق دیانت داری سے ادا نہیں کیا۔ آپ نے مضامین کا سلسلہ بڑی شد و مد سے جاری رکھا اور سفیر کی واپسی کا بھی مطالبہ کیا۔ آپ کا موقف ایسا مؤثر اور ٹھوس بنیاد پر مشتمل تھا نیز قلم اور سچائی کی طاقت بھی ساتھ تھی کہ حکومت نائیجیریا کو اپنا سفیر انگلستان سے واپس بلانا پڑا۔

## مشرقی افریقہ سے نکلنے والا

اخبار Mapenzi Yamungu تھا۔ یہ بھی بے حد مؤثر اخبار تھا مکرم شیخ امری عبیدی صاحب رسالہ کے مستقل مضمون نگار رہے۔ آپ کی نظمیں بھی اس کی زینت بنتی رہیں۔ آپ بہت اچھا لکھتے تھے۔ آپ کی شاعری انتہائی اعلیٰ درجے کی تھی۔ اس کے اعلیٰ معیار کا ہی ثبوت ہے کہ آپ کی شاعری کا مجموعہ Canons of Swahili Poetry یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ جب مضمون نگار اس معیار کے ہوں تو رسالہ کے معیار کا اندازہ بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔

احمدی رسائل کی عیسائی دنیا پر اثر کی ایک شاندار مثال پیش ہے۔ بی گراہم امریکہ میں عیسائیت کا بہت بڑا متاد اور مبلغ گزرا ہے اس کی فصاحت و بلاغت کا بہت شہرہ تھا جب وہ عیسائیت کی تبلیغ کرتا تو لوگ سر دھتے اور متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے۔ اس کا دائرہ اثر امریکہ کے صدر تک پھیلا ہوا تھا۔ اس نے صدر کینیڈی سے ملاقات کی اسے بتایا کہ وہ افریقہ کو عیسائی کر کے دم لے گا۔ وہ ایک طے شدہ منصوبے کے مطابق پادریوں کی ایک جماعت ساتھ لیکر براعظم افریقہ کے دورہ پر آیا دورہ کا مقصد براعظم کو عیسائیت کے لئے فتح کرنا تھا۔ بی گراہم نے دورہ کا آغاز نائیجیریا سے کیا اور ایک کانفرنس کے انعقاد کا پرگرام بنایا۔ مولانا نسیم سیفی صاحب مرحوم نے اپنے رسالہ The Truth میں پانچ سوالوں پر بحث کی کہ:-

- (1)..... کیا عیسیٰ خدا ہیں؟
- (2)..... کیا عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں؟
- (3)..... کیا عیسیٰ نے صلیب پر وفات پائی؟
- (4)..... کیا عیسیٰ آسمان پر چڑھائے گئے؟
- (5)..... کیا عیسیٰ واپس آئیں گے؟

آپ نے ان سوالوں کا جواب احمدیہ علم کلام کی روشنی میں بائبل کے حوالوں کی مدد سے تیار کیا۔ اس رسالہ کو کثرت سے شائع کیا گیا اور اس کی کاپیاں



**ترجمہ:** "احمدیہ مشن نے یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ اس کے بعض ترقی یافتہ نظریات ہیں اس کا اظہار اس مشن کی تعلیمی مساعی اور دیگر سماجی کاموں سے ہوتا ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں اس نے ابتدائی اور سینڈری سکول کھولے ہیں نیز اس کے کچھ کلینک یا ہسپتال بھی ہیں۔

احمدیہ مسلم مشن نے اپنی تعلیمی مساعی کے نتیجہ میں چند ایسے قابل وجود پیدا کئے ہیں جو ملک کے نوجوانوں کی تربیت میں حصہ لے رہے ہیں یا پھر ملک کی دیگر سماجی مساعی میں مصروف کار ہیں۔

غانا کا ایک اور اخبار "ڈیلی گراٹک" اپنے ادارہ میں لکھتا ہے:-

It is true that but for the Ahmadiyya movement which has chalked significant successes, particularly in the educational, social and religious fields the image of Islam would have been dragged very low by the people who adhere to Islam merely for fortune seeking. The fact that the "Alhaji" title is beginning to acquire derogatory connotations in the country is one evidence"

(Daily Graphic Thursday, Sep, 28 1978)

**ترجمہ:** یہ ایک حقیقت ہے کہ تعلیمی، سماجی اور دینی میدان میں جماعت احمدیہ کی کامیاب خدمات اگر منصفہ شہود پر نہ آئیں تو ان لوگوں کی وجہ سے جن کا اسلام کے ساتھ رشتہ محض حصول منفعت تک کا ہے، اسلام کا حقیر تصور قائم ہوتا نیز یہ کہ آجکل لفظ "حاجی" غانا میں قابل تحقیر سمجھا جانے لگا ہے اس کا ایک ثبوت ہے۔

احباب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ براعظم افریقہ کو اپنی نورانیت سے منور کرے اور جلد اسلام و احمدیت کا جھنڈا پورے افریقہ میں سر بلند اور سرخرو ہو۔ (آمین)



## أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

(حدیث نبوی مسلم)

منجانب:- ماؤرن شو کمپنی ۱۵/۶/۳۱ پور پور روڈ کلکتہ - ۷۰۰۰۷۳

MODERN SHOE CO.

31/5/6 LOWER CHITPUR ROAD, CALCUTTA-700073

PH: 275475 RES: 273903

جلسہ سالانہ کے مبارک موقع پر تشریف لانے والے مہمانان کرام کی خدمت

میں قادیان ویلفیئر کلب خوش آمدید کہتے ہوئے نیک تمنا میں پیش کرتا ہے

## جب اخبار بدر کا پرچہ ایڈیٹرز کانفرنس میں پہلے نمبر پر رہا

مکرم مولوی جاوید اقبال صاحب چیمہ سابق نائب ایڈیٹر بدر

دائیں ہاتھ سے اپنی پوری طاقت سے بازو اندر جانے سے روکی لیکن چلتی مشین میں بازو کا نی حد تک اندر چل گئی بالآخر اپریشن کے بعد موصوف کا بائیں بازو کا ٹائپا۔ اللہ تعالیٰ موصوف کا حافظہ و ناصر رہے اور ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے۔ آمین۔

اخبار بدر پر ایک سنہری دور بھی اس وقت آیا جبکہ خاکسار بدر کی خدمت کر رہا تھا اور اخبارات کے ایڈیٹران کی میٹنگ میں بھی جایا کرتا تھا ایک سالانہ نمبر اخبار بدر کا شائع کیا گیا۔ انہی دنوں جاندھر میں اخبارات کی نمائش ہوئی۔ ضلع گورداسپور کے سب ایڈیٹر صاحبان اپنے اپنے اخبارات کی خوبصورت کاپی لے کر جاندھر آئے خاکسار بھی اخبار بدر کا وہ خوبصورت پرچہ جس میں ٹائپل پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے عظام کے فوٹوز تھے نمائش میں لے کر گیا۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ اخبار بدر کا مذکورہ پرچہ ضلع گورداسپور کی سب اخبارات کے مقابل پر پہلے نمبر پر رہا۔ ایک بہت بڑی میٹنگ کے دوران اخبار بدر کو یہ اعزاز نصیب ہوا اور بدر کی اس کاوش کو سراہا گیا۔

آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے M.T.A کا بابرکت نظام قائم ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کے خطبات و بابرکت ارشادات کو آج LIVE دیکھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے۔ ایک زمانہ میں حضور انور کے خطبے کی آڈیو کیسٹ قادیان آیا کرتی تھی۔ اور ہم لوگ بہت محنت اور دھیان سے ٹیپ ریکارڈر کے ذریعہ حضور انور کا خطبہ لکھا کرتے تھے۔ ایک ایک فقرہ سن کر اس کو ساتھ ساتھ لکھنا دو بارہ اسکو سن کر صحیح کرنا۔ ٹیپ ریکارڈر کو بار بار چلانا بند کرنا۔ ایک ایک خطبہ کو کاغذوں کی زینت بنانے میں بہت وقت بہت محنت درکار ہوتی تھی۔ لیکن محض اور محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر ہفتہ موصولہ کیسٹ کے مطابق خطبہ جمعہ تحریر کر کے اخبار بدر میں ساتھ ساتھ دیا جاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ اس کام میں سب معاونین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

بہر حال مالی وسائل کی کمی اور وقت کی سہولیات اتنی موجود نہ ہونا وغیرہ بعض نامساعد حالات اخبار بدر کی روز افزوں ترقی کو روک نہ سکے۔ بلکہ ہمارے دیرینہ خدام ساتھیوں اور بھائیوں کی انتھک محنت اور بے لوث لمبی خدمت کی بدولت اخبار بدر کا یہ مرکزی آرگن آج دو دنوں کی رات چوٹی ترقی کرتا چلا جا رہا ہے۔

اخبار بدر کی خدمت کے متعلق یہ تحریر کرنا ضروری ہے کہ بعض دوست بطور قائم مقام ایڈیٹر، نائب ایڈیٹر بعض تھوڑے سے عرصہ کیلئے اور بعض کافی دیر تک خدمت بجا لاتے رہے۔ اپنے اپنے دور میں ہر خادم نے بہت محنت سے خدمت کی ہے۔ ادارہ بدر ان سب کی دیرینہ خدمات کا بے حد ممنون ہے۔ جنہوں نے اخبار بدر کو موجودہ مقام تک لانے میں کسی نہ کسی حد تک اس کی خدمت کی۔ کسی اخبار کو چلانا معمولی کام نہیں ہوا کرتا۔ اسکے لئے منظوبت عزم، مستقل محنت و عزم اور استقلال اور خدمت کے عظیم جذبہ کی ضرورت ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ اخبار بدر کی کسی نہ کسی رنگ میں خدمت کرنے والے ہر خادم کو محض اپنے فضل سے نیک جزا عطا فرمائے۔

خاکسار اخبار بدر کی دیرینہ خدمت کے دوران قائم مقام ایڈیٹر بھی رہا اور زیادہ عرصہ نائب ایڈیٹر رہا۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے حقیر خدمات کو قبول فرمائے۔ آئندہ بھی مقبول خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ☆☆☆

مرکز سلسلہ عالیہ احمدیہ قادیان سے شائع ہونے والا مرکزی آرگن اخبار بدر اس وقت محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے غیر معمولی ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور موجودہ مادی و ترقیاتی دور میں دیگر اخبارات و رسائل کا مقابلہ کر رہا ہے۔ بفضلہ تعالیٰ اس وقت قادیان میں جماعت کا اپنا پریس فضل عمر آفیسٹ پریس موجود ہے اس وقت قادیان میں کئی دفاتر اور مقامات پر کمپیوٹر کی سہولت موجود ہے لیکن یہاں تک کا سفر طے کرنے کے لئے صحت روزہ بدر کو بعض غیر معمولی حالات سے گزرنا پڑا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور احسان اور شکر ہے کہ اس وقت وہ حالات نہیں ہیں۔

جماعت کے بعض دیرینہ خدام محترم قاضی عبدالحمید صاحب درویش مرحوم، محترم چوہدری عبدالسلام صاحب درویش، محترم مولوی بشیر احمد صاحب کالا افغاناں درویش اور محترم محمد دین صاحب بدر درویش مرحوم ان سب نے ایک لمبے عرصہ تک مختلف لحاظ سے بدر کی بہت خدمت کی ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کی نیک جزا عطا فرمائے آمین۔

شروع زمانہ میں قادیان میں کوئی جماعت کا اپنا پریس وغیرہ نہیں تھا محترم قاضی عبدالحمید صاحب درویش اخبار بدر کی کتابت کیا کرتے تھے اور امرتسر میں زاما آرٹ پریس جہاں کہ ایک لیتھو پریس تھا محترم مولوی بشیر احمد صاحب کالا افغاناں اخبار لے جا کر اس پریس میں چھپوایا کرتے تھے۔ ایک زمانہ تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ محترم محمد دین صاحب بدر درویش مرحوم دفتر بدر میں خدمت کیا کرتے تھے۔ قادیان میں کئی درویش محمد دین نام کے تھے اس لئے پہچان کی خاطر محترم محمد دین صاحب کے نام کے ساتھ بدر کا لفظ بڑھا دیا گیا اور آپ محمد دین بدر کے نام سے موسوم ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد امرتسر میں پریس کی سہولت موجود نہ رہنے کے سبب اخبار بدر جاندھر سے شائع ہونے لگا۔ خاکسار اس زمانہ میں بطور نائب ایڈیٹر بدر خدمت سرانجام دے رہا تھا اور جامعہ احمدیہ قادیان میں بطور استاد خدمت بھی سپرد تھی۔ ملک میں ایمر ضعی کا نفاذ تھا اخبارات سنر ہو کر شائع ہوا کرتے تھے۔ خاکسار ہر سوموار صبح قادیان سے گورداسپور جایا کرتا وہاں اخبار بدر متعلقہ شعبہ سے سنر کروا کر سیدھا جاندھر چلا جاتا جہاں رات کو دیر

پر تاپ پریس جاندھر میں اخبار بدر چھپایا جاتا۔ ان دنوں جاندھر ڈی اے وی کالج میں محترم ڈاکٹر محمد عارف صاحب منگلی اور محترم نصیر احمد صاحب انجینئر حال مقیم دہلی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ ہر ہفتہ ان سے ملاقات ہوتی اور جماعتی معاملات پر تبادلہ خیال ہوا کرتا۔ رات کو اخبار شائع کروانے کے بعد اگلے روز صبح لٹھی لٹھی پانچ بجے اول بس کے ذریعے قادیان کے لئے روانگی ہوا کرتی تھی۔ اخبار کے لئے کاغذ خریدنے کی بعض دفعہ دقت ہوا کرتی چنانچہ بعض دفعہ محترم بدر الدین صاحب مہتاب میجر فضل عمر پریس خاکسار کے ساتھ جاندھر جایا کرتے اور ہم دونوں ایک رسید بنا کر اخبار بدر کے لئے کاغذ خرید لیا کرتے۔

جاندھر پریس والوں سے بعد میں جماعت نے انکا ایک لیتھو پریس خرید لیا اور قادیان میں ایک لیتھو پریس لگا دیا گیا۔ محترم چوہدری عبدالسلام صاحب درویش بطور میجر فضل عمر پریس مقرر کئے گئے۔ موصوف دیگر کارکنوں کے ساتھ خود بھی پریس میں کام کیا کرتے اسی زمانہ میں ایک روز موصوف کا بائیں ہاتھ پریس میں آگیا اور مشین چل رہی تھی آہستہ آہستہ ہاتھ اور بازو اندر جا رہی تھی موصوف نے



# یورپ اور نارتھ امریکہ میں احمدی جرائد اور رسائل

..... تحریر: مکرّم محمد زکریا ورک صاحب کننگٹن کینیڈا.....

سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام، مہدی آخر الزماں، جری اللہ فی حل الانبیاء، کو اللہ جل شانہ نے سلطان القلم کے لقب سے نوازا۔ آپ کی عربی، اردو، فارسی تحریروں سے یہ بات اظہر من الشمس ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ کے اس عظیم الشان بندے نے قلم کا جہاد ساری عمر حرز جاں بنائے رکھا۔ اور اپنے زور قلم سے مذہب اسلام کی خوبیاں عوام کو بیان کیں۔

آئیے آپ کو ایک سو سال قبل قادیان کے قصبہ میں لے چلتے ہیں جہاں 28 دسمبر 1892ء کو جلسہ سالانہ کی مقدس تقریب میں یورپ اور امریکہ میں اسلام کی تعلیم پر ایک ٹھوس رسالہ شائع کرنے پر یہ قرار پایا کہ:-

”ایک اخبار اشاعت اور ہمدردی اسلام کیلئے جاری کیا جائے“ (ضمیمہ آئینہ کمالات اسلام صفحہ 3) غور فرمائیں کیسے عظیم عزائم ہیں اللہ کی پیدا کردہ اس جماعت صالحین کے۔ اس جلسہ میں صرف 327 حضرات نے شرکت کی اور مالی وسائل اس قدر محدود تھے کہ اگلے سال کا جلسہ سالانہ ملتوی کرنا پڑا۔ مگر جس اہنی ارادہ کا اظہار ان سلف صالحین نے کیا تھا آج اس کے طفیل یورپ کے گونا گوں ممالک کے علاوہ نارتھ امریکہ میں جماعت احمدیہ عالمگیر کے رسائل درجنوں کے حساب سے شائع ہو رہے ہیں۔ آئیے اس کی تفصیل ملک دار ملاحظہ کریں:-

## انگلستان

**الاسلام** :: اس رسالہ کا آغاز حضرت مرزا ناصر احمد اور مرزا مظفر احمد نے جون 1935ء میں اہل مغرب کو اسلام کے نور سے آشنا کرانے کے لئے کیا تھا۔

**مسلم ہیرالڈ** :: اس رسالہ کا اجراء بشیر احمد آرچرڈ کی زیر ادارت 1949ء میں گلاسکو (سکاٹ لینڈ) سے ہوا تھا۔ آپ کے اہنی گوا (ویٹ انڈیز) مشنری بن کر جانے کے بعد اس کا احیاء بشیر احمد رفیق سابق امام مسجد لندن کے ذریعہ ہوا۔

میرے سامنے اس وقت مسلم ہیرالڈ کا ستمبر 1974ء کا شمارہ موجود ہے اس کا ایڈیٹوریل بورڈ بی اے رفیق، عبد الوہاب آدم، منصور احمد شاہ پر مشتمل ہے۔ رسالہ میں ایک نہایت پر از معلومات مضمون شہد کے فوائد پر ہے جو کمپین محمد حسین صاحب چیمہ کا رقم کردہ ہے۔ یہ رسالہ 1985ء کے لگ بھگ ریویو آف ریپنچرز کے لندن سے شائع ہونے کے بعد جاری نہ رہا۔

**احمدیہ گزٹ** :: گلاسکو سے اس اردو، انگریزی رسالہ کا اجراء 1987ء میں ہوا۔

**بیت النور** :: جماعت احمدیہ ہنسلونے یہ رسالہ 1988ء میں جاری کیا۔

**التقویٰ** :: عربی زبان میں شائع ہونے والے اس رسالہ کا اجراء 1980ء میں لندن سے ہوا۔

**البصیرت** :: جماعت احمدیہ بریڈ فورڈ (برطانیہ) کا یہ مجلہ 1976ء میں منصفہ شوہد پر آیا۔ ملک عبدالباری صاحب اس کے بانی ارکان میں تھے۔

**طارق** :: یہ خدام الاحمدیہ انگلستان کا ترجمان ہے انگریزی میں۔ مدیر ولید احمد اور حصہ اردو کے نگران ملک محمود احمد ہیں۔

**الفضل انٹرنیشنل** :: اس ہفت روزہ اخبار کا پہلا شمارہ 7 جنوری 1994ء کو لندن سے زیر ادارت چوہدری رشید احمد منظر عام پر آیا۔ بعد ازاں اس کے ایڈیٹر مولانا نصیر احمد مقرر ہوئے۔ جن کی زیر ادارت یہ معیاری اخبار ترقی کے زینوں پر شب و روز رواں دواں ہے۔ اس اخبار کو یہ خاص اہمیت حاصل ہے کہ اس میں امام جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابعیہ علیہ السلام کے روح پرور خطبات جمعہ ہفتہ وار خطابات اور مجلس عرفان شائع ہوتے ہیں۔ اس میں شائع ہونے والے مضامین نہایت عالمانہ، تحقیق شدہ، اور مسلم الثبوت ہوتے ہیں۔

**احمدیہ بلیٹن** :: اس وقت میرے سامنے احمدیہ بلیٹن جولائی 1998ء کا شمارہ پڑا ہوا ہے۔ عطاء العجیب صاحب راشد مشنری انچارج انگلستان کی زیر نگرانی شائع ہونے والے 32 صفحات پر مشتمل اس رسالہ کے انگلش حصہ کے ایڈیٹر لطیف احمد ظفر اور اردو حصہ کے ایڈیٹر محمود احمد ملک ہیں۔ لکھائی چھپائی نہایت عمدہ ہے۔ رسالہ میں متعدد رنگین تصاویر نے جان ڈال دی ہے۔ خاص طور پر اردو حصہ کے سرورق پر تصویر شائع ہوئی ہے جس میں سیدنا حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح الرابعیہ علیہ السلام بنصرہ العزیز برطانیہ کے 32 ویں جلسہ سالانہ پر لوائے احمدیت کی پرچم کشائی فرما رہے ہیں۔

## سوئٹزر لینڈ

**نرتہ** :: اس رسالہ کا اجراء 1949ء میں چوہدری مشتاق احمد باجوہ لندن کے ذریعہ ہوا۔

**Der Islam** :: جرمن زبان میں اس رسالہ کا آغاز چوہدری عبداللطیف (مشنری، ہمبرگ) کے ذریعہ 1956ء میں ہوا۔

**احمدیہ گزٹ** :: اس ماہوار رسالہ کا اجراء شیخ ناصر احمد صاحب (مشنری) نے 1961ء میں کیا۔

## جرمنی

جرمنی جماعت کے مندرجہ ذیل رسالہ جات اب الفضل انٹرنیشنل ہی میں شامل ہوتے ہیں۔

**خدیجہ** :: یہ رسالہ لجنہ اماء اللہ جرمنی کا ترجمان ہے جس کا اجراء 1944ء میں ہوا۔ اس کی ایڈیٹر رضیہ وسیم ہیں۔

**الناصر** :: یہ مجلس انصار اللہ جرمنی کا ترجمان ہے اس کا آغاز 1944ء میں ہوا۔ دو سال قبل اس کے ایڈیٹر ملک رشید احمد تھے۔

**اخبار احمدیہ** :: یہ چارورق کا رسالہ جماعت احمدیہ کا ترجمان ہے اس کا اجراء بھی آٹھ سال قبل ہوا۔ ایک زمانہ میں اس کے ایڈیٹر صادق محمد طاہر تھے۔ جون 1999ء کے اخبار میں یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ جماعت احمدیہ جرمنی کی پہلی مرکزی لائبریری کا باقاعدہ افتتاح بیت القیوم (فریفکٹ) میں عمل میں آگیا۔ سر دست لائبریری میں آٹھ صد کتابیں رکھی گئی ہیں۔ عربی کی ریفرنس کتب جیسے اسماء الرجال مصر سے منگوائی گئی ہیں۔

## ہالینڈ

**الاسلام** :: اس رسالہ کا اجراء 1959ء میں ہیگ سے مشنری انچارج حافظ قدرت اللہ صاحب کی نگرانی میں ہوا۔

## سوئڈن

**اخبار احمدیہ** :: اس رسالہ کا اجراء 1976ء میں کمال یوسف صاحب مربی انچارج کی زیر نگرانی ہوا۔

**ایکٹو اسلام** :: قومی زبان میں اس رسالہ کا اجراء 1959ء میں کمال یوسف کی زیر نگرانی ہوا۔

## امریکہ

**دی مسلم سن رائز** :: یہ رسالہ حضرت مفتی محمد صادق صاحب نے 1925ء میں جاری فرمایا۔ میرے سامنے سن رائز اکتوبر تا جنوری 1931-1932ء کا ایک شمارہ پڑا ہوا ہے۔ اس رسالہ ماہی رسالہ کے سرورق پر Volume IV لکھا ہوا ہے جس کے مطابق اس کا آغاز شکاگو سے 1925ء میں ہوا۔ اس کے ایڈیٹر صوفی مطیع الرحمن بنگالی ہیں۔ رسالہ میں بارہ مضامین شامل اشاعت ہیں اور کل صفحات 48 ہیں۔ رسالہ میں سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مضمون صوفی صاحب کا رقم فرمودہ ہے جو بعد میں لائف آف محمد کے نام سے کتابی صورت

میں منظر عام پر آیا۔

**عائشہ** :: امریکن جماعت کی مجلس لجنہ اماء اللہ کے لئے اس رسالہ کا اجراء 1971ء میں ہوا۔

**طارق** :: مجلس خدام الاحمدیہ امریکہ کے اس ترجمان کا اجراء 1975ء میں ہوا۔

**احمدیہ گزٹ** :: اس رسالہ کا اجراء مسٹر عبدالشکور امریکن نو مسلم کی ادارت میں ہوا۔ آج کل اس کی ادارت شمشاد احمد ناصر صاحب مشنری کر رہے ہیں۔ اردو حصہ کا نام ”النور“ ہے جس میں زیادہ تر مضامین جماعت کے اخبارات اور رسائل سے دیئے جاتے ہیں۔ جبکہ انگلش حصہ میں مضامین نہایت علمی اور ادبی ذوق کے ہوتے ہیں۔ انگلش حصہ میں حضور ایدہ اللہ کے خطبات کا ترجمہ انگلش میں دیا جاتا ہے اور بڑی محنت سے تیار کیا جاتا ہے۔ جلسہ سالانہ امریکہ میں ہونے والی تقاریر بھی اس میں شائع کی جاتی ہیں۔ رسالہ میں رنگین تصاویر بھی شامل ہیں۔

**النحل** :: یہ رسالہ مجلس انصار اللہ امریکہ کا ترجمان ہے۔ اس کے نگران ڈاکٹر کریم اللہ زیروی صدر مجلس ہیں۔ اس کے ایڈیٹر جمید میاں اور سید ساجد احمد ہیں۔ اس کا اجراء 1989ء میں ہوا۔ 1997ء میں اس رسالہ نے عبدالسلام نمبر شائع کیا جو بہت محنت اور لیاقت سے ترتیب دیا گیا تھا۔ رسالہ میں ڈاکٹر عبد السلام کی عہد آفرین زندگی کی بہت ساری تصاویر شامل کی گئیں ہیں۔

**الہلال** :: انگریزی زبان میں 32 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ امریکہ کے احمدی بچوں اور بچیوں کیلئے شائع کیا جاتا ہے اس کے ایڈیٹوریل سٹاف میں طاہر احمد، رابعہ چوہدری (سان ہوزے) اور سلطانہ ولی شامل ہیں۔ میرے سامنے 2001ء کا شمارہ پڑا ہوا ہے جس میں زائن بسم اللہ کیمپ کی رپورٹ تصاویر کے ساتھ شائع کی گئی ہے۔ وقفہ نو کے بچوں پر ایک مضمون ڈاکٹر صادق میاں (پوسٹن) بھی شامل اشاعت ہے۔

## کینیڈا

**احمدیہ نیوز بلیٹن** :: اس چھ درق کے نیوز بلیٹن کا مقصد جماعت احمدیہ کینیڈا کے ممبران کو جماعت کی خبروں اور مرکز سے آنے والی ہدایات سے آگاہ کرنا تھا۔ اس کا آغاز 1972ء میں ٹورنٹو سے ہوا اور اس کے ایڈیٹر مبارک احمد خان صدر ٹورنٹو جماعت تھے۔ 1974ء میں خاکسار محمد زکریا ورک اس کا نائب مدیر مقرر ہوا۔ 1975ء میں اس کا نام **دی مسلم آؤٹ لک** میں تبدیل ہوا مگر جلد ہی اس کا نام **احمدیہ گزٹ** جولائی 1975ء میں

**احمدیہ گزٹ** :: 1989ء سے اردو حصہ کی ادارت ہدایت اللہ ہادی صاحب اور انگریزی حصہ کی ادارت حسن محمد خان عارف کر رہے ہیں۔ پچھلے چند سالوں سے اس میں فریج مضامین بھی شامل کے

باقی صفحہ (46) پر ملاحظہ فرمائیں



# کیرلہ سے شائع ہونے والے ہمارے رسائل

ستیہ دونن \* منارت \* ستیہ مترم \* الحق \* النور \* انصار

مکرم مولانا محمد عمر صاحب مبلغ انچارج و چیف ایڈیٹر ماہ نامہ ستیہ دونن

سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے ذریعہ خدا تعالیٰ کا نبی نوع انسان کیلئے نازل فرمودہ پہلا پیغام یہ تھا:

اقرا بسم ربك الذي خلق  
یعنی تمام کے کائنات کے پیدا کرنے اور پرورش کرنے والے خدا تعالیٰ کے نام پر تو پڑھ۔ گویا کہ خدا تعالیٰ کا پہلا ارشاد ہی مطالعہ کرنے کیلئے تھا۔ خدا تعالیٰ نے دو طریق سے انسان کو علم سکھایا ہے کہ خلق الانسان علمه البيان ایک بیان کے ذریعہ اور دوسرا علم بالقلم یعنی قلم کے ذریعہ یعنی خدا تعالیٰ نے انسان کو کلام کے ذریعہ اور قلم کے ذریعہ علم سکھایا۔ اور ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ خدا تعالیٰ کا پیغام بیان اور قلم کے ذریعہ یعنی تقریر اور تحریر کے ذریعہ اکتاف عالم میں پہنچائیں۔

دنیا میں جو بھی تحریک اٹھتی ہے وہ اپنی اشاعت کیلئے یہی دو ذرائع استعمال کرتی آرہی ہے۔ چنانچہ جماعت احمدیہ بھی اپنے قیام سے لے کر آج تک ان ہی دو ذرائع کو بروئے کار لا کر تحریر اور تقریر کے ذریعہ اپنا پیغام اکتاف عالم میں پہنچاتی رہی ہے خاص کر اس زمانہ میں جب کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ کا یہ طرہ امتیاز خدا تعالیٰ نے بتایا ہے کہ واولا الصحف ننشرت یعنی صحافت کی بہت زیادہ اشاعت کی جائے گی۔ جماعت احمدیہ نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ فالحمد للہ علی ذالک۔

## کیرلہ میں احمدیہ صحافت پر ایک نظر:

کیرلہ کی آبادی %98 سے زائد خواندہ ہے اور تعلیم یافتہ لوگوں کی اکثریت ہے۔ سب لوگ مطالعہ کے بڑے شوقین ہیں۔ جب تک کسی بات پر پوری طرح تسلی نہیں ہوتی اور پوری تحقیق نہیں کرتے کوئی بات اپنانے کیلئے تیار نہیں ہوتے یہی وجہ ہے کہ جو کوئی بھی بیعت کر کے سلسلہ عالیہ احمدیہ میں داخل ہوتا ہے وہ بہت پختہ ایمان والا اور اپنے ایمان میں مخلص ثابت ہوتا ہے۔ اس رجحان کے پیش نظر کیرلہ جماعت احمدیہ آئے دن نشر و اشاعت میں بہت زور دیتی آرہی ہے۔ چنانچہ اردو کے بعد سب سے زیادہ لٹریچر ہندوستان میں ملیالم میں شائع ہوا ہے۔ سب سے زیادہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا ترجمہ دیگر بھارتی زبانوں کی نسبت مالا یالم زبانوں میں ہی شائع ہوا ہے۔

مثلاً اسلامی اصول کی فلاسفی، مسیح ہندوستان میں، فتح اسلام، لیکچر سیا لکوت، لیکچر لاہور،

(لیکچر لدھیانہ کا مکمل ترجمہ ہو چکا ہے) ہماری تعلیم (از کشتی نوح) مواہب الرحمن، ایک غلطی کا ازالہ، تحفۃ الندوہ، قصیدہ مدح رسول اکرم ﷺ و حضرت مسیح موعود کی کتب کے تراجم شائع ہوئے ہیں۔ رسالہ الوصیت زیر طبع ہے۔

نیز حضرت مصلح موعود کی تفسیر صغیر، احمدیت یعنی حقیقی اسلام، سورۃ فاتحہ کی تفسیر، نبیوں کا سردار، دعوت الایمیر (ترجمہ مکمل ہو چکا ہے)، اسلام میں اقتصادی نظام، اسلام میں اختلافات کا آغاز، احمدیت کا پیغام، دیباچہ قرآن کا پہلا حصہ، وغیرہ کے تراجم شائع ہو چکے ہیں۔

حضرت خلیفۃ المسیح الرابع ایڈیہ اللہ تعالیٰ کی تصانیف وصال ابن مریم، مذہب کے نام پر خون، سلمان رشدی کی کتاب کا جواب، مسئلہ خلیج کا حل، وغیرہ کتب کے تراجم شائع ہو چکے ہیں۔ نیز حضور اقدس ایڈیہ اللہ تعالیٰ کے خطبات جمعہ کا ترجمہ طبع کروا کر کیرلہ کی ہر جماعت میں بھیجا جاتا ہے اور جمعہ میں سنایا جاتا ہے۔

انکے علاوہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کی کتاب تبلیغ ہدایت، حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خالصاب کی تصنیف ”اسلام اور حقوق انسانی“ وغیرہ کتب کے تراجم (حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کی کتاب ہمارا خدا کا ترجمہ مکمل ہو چکا ہے) یہ کتب بہت سارے متلاشیان حق کی ہدایت کا موجب بنی ہیں۔

اس کے علاوہ حضرت مولانا بابی عبداللہ صاحب کی تصنیف فرمودہ بہت ساری کتب احمدیہ مسائل پر مشتمل قابل ذکر ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت و سوانح پر مشتمل ضخیم کتاب کا پہلا حصہ شائع ہو چکا ہے دوسرا حصہ طباعت کیلئے تیار ہے۔ اس میدان میں مکرم امین عبدالرحیم صاحب سابق ایڈیٹر ستیہ دونن کی قلمی خدمات قابل ذکر ہیں۔

اس کے علاوہ سلسلہ کے علمائے کرام کی مالا یالم کتب جو شائع شدہ ہیں کی فہرست بہت لمبی ہے۔ اس لئے طوالت کے پیش نظر اس ذکر کو چھوڑنا ہوں۔

علاوہ ان تصانیف کے کیرلہ سے ستیہ دونن مالا یالم ماہنامہ، MINARET، ماہی انگریزی رسالہ، مجلس انصار اللہ کی طرف سے ستیہ مترم، مجلس خدام الاحمدیہ کی طرف سے الحق نامی ماہنامہ، احمدیہ بلیٹن (Ahmadiyya Bulletin)، لجنہ اماء اللہ کی طرف سے ماہی رسالہ النور باقاعدہ شائع ہوتے ہیں۔

## ہمارے رسائل:

جماعت احمدیہ کیرلہ کی طرف سے شائع

ہونے والے رسائل کا مختصر تعارف درج ذیل ہے:

### ماہنامہ ستیہ دونن

1925ء ماہ جنوری میں ماہنامہ رسالہ ستیہ دونن (ملیالم) کا اجراء ہوا۔ اس رسالہ کے بانی مہانی کیرلہ کے پہلے احمدی محترم حضرت ای عبدالقادر کئی صاحب اور اس کے پہلے ایڈیٹر مکرم امین حسین صاحب والد ماجد مکرم مولانا جلال الدین صاحب نیز ناظر بیت المال قادیان تھے۔ اس کے بعد مکرم امین حامد صاحب ابن حضرت عبدالقادر کئی صاحب نے بحیثیت پبلشر و مینیجر ستیہ دونن رسالہ مالا بار احمدیہ انجمن کی تحویل میں دے دیا۔ اس کے بعد مختلف مالی مشکلات کی وجہ سے یہ رسالہ چند سال کیلئے بند کرنا پڑا۔ اس کے بعد 1935ء میں محترم امین حامد صاحب کی زبردست پھر رسالہ جاری ہوا۔ 1954ء میں محترم حضرت مولانا عبداللہ صاحب فاضل نے رسالہ کی نگرانی اپنے ہاتھوں میں لی اور نائب ایڈیٹر کے طور پر مکرم امین عبدالرحیم صاحب خدمات سر انجام دیتے رہے۔ محترم مولانا صاحب 1968ء میں اپنی وفات تک اس رسالہ کی بھرپور نگرانی اور آب پاشی فرماتے رہے۔ اپنے علمی مضامین و اعتراضات کے جوابات وغیرہ کے ذریعہ رسالہ کو چار چاند لگاتے رہے۔ اور اس کی شہرت کیرلہ کے طول و عرض میں ہوتی رہی۔ کیرلہ میں زیادہ تر جماعتوں کا قیام ستیہ دونن کا ہی مرہون منت ہے 1969ء کے بعد محترم مولانا محمد ابولوف صاحب، محترم امین عبدالرحیم صاحب، محترم صدیق امیر علی صاحب، مختصر عرصہ تک مکرم بی ایم کو یا صاحب مکرم مولوی محمد اسماعیل صاحب ایڈیٹر کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ مجموعی طور پر چالیس سال تک مکرم امین عبدالرحیم صاحب اس کے ایڈیٹر رہے۔ اس وقت ماہ اپریل 2001ء سے خاکسار اس کا چیف ایڈیٹر اور مکرم اے محمد سلیم صاحب ایڈیٹر مقرر ہوئے ہیں۔

خدا کے فضل سے ستیہ دونن کو کیرلہ سے شائع ہونے والے مسلمانوں کے رسائل اور اخبارات میں اذیت حاصل ہے۔ اس عرصہ میں مسلمانوں کے بہت سارے رسالے منظر عام پر آتے رہے اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ستیہ دونن نے شدید مخالفتوں کا سامنا کرتے ہوئے اپنا سفر شروع کیا تھا۔ ابتدائی زمانوں میں الامین، الارشاد، ہدایت وغیرہ مسلم تنظیموں کے رسالوں نے اس کی مخالفت میں ایزی چوٹی کا زور لگایا اور مختلف قسم کی دھمکیوں کے ذریعہ اس رسالہ کا قلع قمع کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن کسی بھی مخالفت سے اس پر کسی قسم کی آنچ نہ آئی۔

بفضلہ تعالیٰ وہ آگے ہی آگے پروان چڑھتا رہا۔

اس رسالہ کے ابتدائی زمانہ سے لے کر آج تک اس میں ایسے نہایت قیمتی اور علمی مضامین شائع ہوتے رہے جس پر قلم اٹھانے کی سکت مسلمانوں کے قلموں کو حاصل نہیں تھی۔ مثلاً مسئلہ تناخ، آدم کی جنت، بد مذہب، کیا آدم پہلا انسان تھا؟ جن وانس، جہنم کی سزا دائی نہیں، کیا مرتد کی سزا قتل ہے؟ قرآن مجید سے پنجوقتہ نمازوں کا تعین، اہل قرآن کے اعتراضات کے جوابات، مسئلہ طلاق و خلع، تعدد ازواج، فارقلیط، القائے الہی، حضرت شری کرشن جی، دجال و یاجوج ماجوج کی حقیقت، مذہب کی ضرورت وغیرہ مضامین سے یہ رسالہ مزین ہے۔ زمانہ حال میں جماعت اسلامی کا رسالہ پر بوجھنم، اہل حدیث کا رسالہ شباب وغیرہ عقائد احمدیت کے خلاف جو بھی مضامین شائع کرتے رہے ہیں ان کا تعاقب کرنے اور منہ توڑ جواب دینے کی توفیق ستیہ دونن کو حاصل ہوتی رہی ہے۔

اس رسالہ میں باقاعدہ خلفاء کرام کے خطبات کا ترجمہ شائع ہوتا رہا ہے۔ 1989ء میں جماعت احمدیہ عالمگیری کی صد سالہ جوبلی کے موقع پر ستیہ دونن نے پر از معلومات مضامین اور تاریخی تصاویر پر مشتمل نہایت شاندار خاص نمبر شائع کیا۔ 1995ء مارچ میں حضرت امام مہدی کی صداقت کی علامت کے طور پر ظہور پزیر ہوئے کسوف و خسوف کی یاد میں ایک صد سالہ خاص نمبر شائع کیا گیا۔ اس طرح ستیہ دونن کے 64 سال پورے ہونے پر ایک شاندار گولڈن جوبلی خاص نمبر شائع کیا گیا۔ سب سے بڑھ کر 2001ء میں ملیئم کے سلسلہ میں شائع شدہ خاص نمبر خاص اہمیت کا حامل ہے۔ غرض 1925ء سے لے کر 2002ء تک سوائے تین چار سال کے وقفہ کے ستیہ دونن ایک عرصہ دراز سے اسلام اور احمدیت کی بھرپور خدمت بجالاتا رہا ہے۔

اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں کے رسالوں میں سے کسی ایک کو بھی ستیہ دونن کا مقابلہ کرنے کی توفیق نہیں ملی۔ ستیہ دونن کو تباہ برباد کرنے کی انتھک کوشش کرنے والے کئی رسالے خود تباہ برباد ہو کر اپنی موت آپ مر گئے۔ اور ستیہ دونن اپنے مقصد کی تکمیل کیلئے زندہ رہا۔ یہ بھی احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی صداقت کا ایک بین ثبوت ہے۔

### MINARET (منارت)

جماعت ہائے احمدیہ کیرلہ کی طرف سے کالیکٹ سے منارت کے نام سے ایک انگریزی ماہی رسالہ جنوری 1970ء کو جاری ہوا۔ اس کے ٹھوس اور تحقیقاتی علمی مضامین کی وجہ سے یہ رسالہ ہندوستان کے اندر اور بیرونی ممالک میں بہت مقبول اور مشہور ثابت ہوا۔ اس کا ہر پرچہ خاص نمبر کی حیثیت رکھتا تھا۔ مثلاً حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کے سفر افریقہ، پاکستان میں 1974ء میں رونما مخالف احمدیت فسادات اور ان کا انجام، 1978ء میں لندن میں منعقدہ کانفرنس، تردید عقائد عیسائیت، ظہور معلم مہدی، خاتم النبیین، حضرت چودھری محمد ظفر اللہ انصاری

باقی صفحہ (46) پر ملاحظہ فرمائیں



مرکز سلسلہ عالیہ احمدیہ قادیان کی طرف سے خاکسار کو شروع اپریل 1950ء میں برائے تعلیم و تربیت و تبلیغ دعاؤں کے ساتھ بنارس روانہ کیا گیا۔ بنارس سے ایک مضمون "اجرائے وحی والہام" اخبار مصلح کراچی کیلئے بھیجا گیا۔

استاذی المکرم مولانا محمد حفیظ صاحب مرحوم و مغفور نے جلسہ سالانہ 1951ء کے موقع پر خاکسار اور مولوی بشیر احمد صاحب متعلمان جامعۃ المبشرین کی ڈیوٹی لگائی کہ جلسہ پر تشریف لانے والے احباب سے مل کر انہیں اخبار بدر کا خریدار بنایا جائے۔ اسی دوران محترم سیٹھ معین الدین صاحب چندہ کنڈہ کا رابطہ مولانا محمد حفیظ صاحب سے کروایا گیا۔ مکرم سیٹھ صاحب نے غالباً بدر کے اجراء کے ابتدائی اخراجات برداشت کئے۔

بدر کا اجراء 1902ء میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے مبارک زمانہ میں ہوا۔ پچاس سال کے بعد صدی کے نصف آخر میں آزادی کے بعد 1952ء میں دوبارہ جاری ہوا۔ صدی کے نصف اول میں بھی جماعت احمدیہ کی مالی حالت کمزور تھی۔ اور نصف آخر میں بھی کمزور تھی۔ چنانچہ اخبار بدر کا پہلا پرچہ 1952ء میں Weakly Badr یعنی کمزور بدر شائع ہوا۔ لیکن بعد میں Weekly Badr یعنی منطوب "بدر کامل" شائع ہونا شروع ہوا۔ پھر خدا تعالیٰ کے فضل سے کمزور بدر تو انہا ہوتا چلا گیا۔ آج اپنی صد سالہ گولڈن اور پچاس سالہ سلور جوبلی منارہا ہے۔

اخبار بدر میں خاکسار کا پہلا مضمون برکات ہجرت جلد 1 مورخہ 28 اپریل 1952ء میں شائع ہوا۔ اس کے بعد سلسلہ عالیہ احمدیہ نے یوپی میں برائے تعلیم و تربیت اور تبلیغ کیلئے بھیجا۔ مضمون نویسی کا سلسلہ رک گیا۔ سیدنا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے فرزند ارجمند حضرت مصلح موعودؑ کے لخت جگر حضرت مرزا وسیم احمد صاحب ناظر دعوت و تبلیغ قادیان کا بندہ کے نام ارشاد گرامی شایع ہوا: "پہلے آپ وقتاً فوقتاً ہندو مذہب سے متعلق بدر میں مضامین شائع کرواتے رہتے تھے مگر اب یہ سلسلہ بند ہے اس طرف توجہ دیں اور مضمون لکھا کریں۔ اس سے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا کیونکہ مضمون کی تیاری کیلئے آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا اور مطالعہ باعث وسعت علم ہوتا ہے۔" (734/13-7-55)

دستخط (حضرت) مرزا وسیم احمد (صاحب) ناظر دعوت و تبلیغ قادیان۔ یہ ارشاد گرامی پاکر اپنی خوش قسمتی پر پھولے نہ ساتا تھا۔ چنانچہ علمی کم مانگی کے باوجود مضمون نویسی کا سلسلہ پھر سے جاری ہو گیا جو تا دم تحریر جاری ہے۔ خاکسار کو ایک پرانی بات یاد آ رہی ہے۔ خاکسار نے ایک عجیب سا خواب دیکھا کہ:

ایک بڑے سے تھال (طشت) میں تازہ میٹھا دہی ہے۔ ایک بہت بڑے ولی اللہ حضرت بابا نانک اور خاکسار پر اٹھے لے کر اسی تھال میں کھا رہے ہیں۔

حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے کی طرف سے اس خواب کی یہ تعبیر آئی کہ ہندوؤں میں تبلیغ اسلام کی خدمت کی توفیق ملے گی۔ (مفہوم)

یہ بھی ایک عجیب توارد ہے کہ حضرت صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب کے ارشاد میں بھی ہندو مذہب سے متعلق مضامین لکھنے کی ہدایت ہے، عاجز خدا تعالیٰ کی حکمت پر حیران ہے۔ خاکسار نے علاوہ مضامین کے ہندومت سے متعلق ذیل کے مسودہ جات لکھے ہیں۔ اس مذہب کا کافی مطالعہ کیا ہے۔

1. نرائش محمد صلی اللہ علیہ وسلم 370 صفحات
2. موازنہ تقویۃ الایمان اور گیتا گیان 190 صفحات
3. شان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 200 صفحات
4. امام مہدی کیلئے چاند اور سورج گرہن کا عدیم المثال نشان 110 صفحات

(ان دونوں کے شائع کئے جانے کی منظوری دربار خلافت سے مل چکی ہے)

5. ویدوں میں کلگی اوتار احمد (اخبار بدر میں اس کا خلاصہ شائع ہو چکا ہے)

6. کرشن تانی اور وید (شائع شدہ ٹریکٹ)

7. ویدوں کے اردو تراجم، منوسرتی، بھارتیہ سنسکرتی کی روپ ریکھا، بھوشیہ پران، ستیا تھ پرکاش اور دیگر کتب کا مطالعہ کیا اور ان کے نوٹ لکھے ہیں۔

اخبار بدر میں اپریل 1952ء سے لے کر اب تک 77 مضامین شائع ہو چکے ہیں۔ جو بندہ کے تین رجسٹرات میں محفوظ ہیں۔ وہ فل اسکپ کے ایک ہزار صفحات پر مشتمل ہیں۔ منثور مواد کے علاوہ منظوم مواد بدر قادیان، مشکوٰۃ، راہ ایمان، ہند ساچا جالندھر میں 37 کی تعداد میں شائع ہو چکا ہے۔ اتم ہندو جالندھر، ملاپ جالندھر، پنجاب کسری جالندھر، اور فرقان سری نگر میں مضامین شائع ہوئے ہیں۔ اخبار ہند ساچا جالندھر میں سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے نوٹوں کے ساتھ اور سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابعی کی تصویر کے ساتھ ایک ایک مضمون شائع ہوا ہے۔ ویسے ہند ساچا جالندھر میں مضمون اور نظمیں 27 کی تعداد میں شائع ہوئی ہیں۔

بندہ کا ایک مضمون "شری کرشن دیوی مہاراج اور ان کی تعلیمات" اخبار بدر 27 اگست 1992ء کے شمارہ میں شائع ہوا۔ دربار خلافت سے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے دستخط سے (1371-2-30 ہش لندن) بنام ایڈیٹر

صاحب بدر ارشاد موصول ہوا کہ:-

"بدر کے 27 اگست 1992ء کے شمارہ میں حضرت کرشن علیہ السلام کے بارے میں خورشید صاحب کا مضمون شائع ہوا ہے۔ اس میں انہوں نے جو حوالے درج کئے ہیں وہ سارے کے سارے اصل حوالے چیک کرو اور نیچے مکمل حوالہ کتاب مصنف، جلد نمبر صفحہ، ایڈیشن، ناشر اور سن طباعت وغیرہ کے ساتھ دیا جانا چاہئے۔ یہ کام کروا کر تمام اصلی حوالے مع ترجمہ مجھے یہاں بھیجا دیں۔"

حضور انور کے ارشاد کی فوراً تعمیل ہوئی۔ یہ خدا تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ خاکسار ہر مضمون حتی الوسع خود اصل کتاب پڑھنے کے بعد لکھتا ہے۔

اگلے سال پھر دربار خلافت سے بنام ایڈیٹر صاحب بدر ارشاد پہنچا کہ:-

"26-19 اگست 1993ء کے شمارہ میں مکرم چودھری خورشید احمد صاحب پر بھاکر قادیان کا مضمون بعنوان رحمتہ للعالمین ﷺ رشیوں کی نظر میں شائع ہوا ہے۔ اس میں جو حوالہ جات استعمال ہوئے ہیں ان کی اصل کتب سے نوٹوں کا کیا کرنا چاہئے۔ یہاں بھیجا دیں۔ حضور پر نور کے ارشاد کی تعمیل کی گئی۔ لیکن

بندہ کا ایک مضمون "شری کرشن دیوی مہاراج اور ان کی تعلیمات" اخبار بدر 27 اگست 1992ء کے شمارہ میں شائع ہوا۔ دربار خلافت سے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے دستخط سے (1371-2-30 ہش لندن) بنام ایڈیٹر

صاحب بدر ارشاد موصول ہوا کہ:-

"بدر کے 27 اگست 1992ء کے شمارہ میں حضرت کرشن علیہ السلام کے بارے میں خورشید صاحب کا مضمون شائع ہوا ہے۔ اس میں انہوں نے جو حوالے درج کئے ہیں وہ سارے اصل حوالے چیک کرو اور نیچے مکمل حوالہ کتاب مصنف، جلد نمبر صفحہ، ایڈیشن، ناشر اور سن طباعت وغیرہ کے ساتھ دیا جانا چاہئے۔ یہ کام کروا کر تمام اصلی حوالے مع ترجمہ مجھے یہاں بھیجا دیں۔"

## پیارے آقا کو خدایا جلد دے کامل شفا

تیرے آگے عاجزانہ عرض کرتے ہیں خدا پیارے آقا کو خدایا جلد دے کامل شفا تیرا گن کہنا ہی کافی ہے میرے پیارے خدا جس سے ٹل جاتے ہیں ہر نوع کے ہزاروں ابتلا اپنے آقا کی علالت سے ہیں دل بے چین سب فضل کر ایسا کہ آوے سب کو پھر ٹھنڈی ہوا دیکھ کر وہ دکھ ہمارے چین سے سوتا نہ تھا رات بھر خاطر ہماری کرتا تھا ہر دم دعا آؤ اس محسن کی خاطر ہم بھی جاگیں رات کو اپنے آقا کی شفا کے واسطے مانگیں دعا عمر لمبی دے مرے آقا کو اے پیارے خدا دیر تک یہ ٹھنڈا سایہ قائم رکھ رب الوری کامیابی شادمانی کر عطا ان کو خدا شان سے ربوہ بھی جائیں یہ دکھادے معجزہ

خواب عبد المؤمن اوسلو ناروے

ارشاد گرامی کی ہیبت اور اپنی کم علمی بہت دنوں خوف کا باعث بنی رہی۔

اخبار ہند ساچا جالندھر میں 24 دسمبر 1944ء میں خاکسار کا ایک مضمون سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابعی ایدہ اللہ کے نوٹوں کے ساتھ شائع ہوا۔ حضور انور کی طرف سے پیار بھرا خط ملا کہ..... پیارے مکرم خورشید احمد صاحب پر بھاکر..... آپ کا خط مع اخبار کے مضمون موصول ہوا۔ الحمد للہ احسن الجزاء اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت کو قبول فرمائے اور مضمون کے نیک اثرات ظاہر فرمائے۔

(دستخط مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح الرابعی)

لندن 1-95-28)

خاکسار کا شاب ترجمۃ القرآن ہندی میں گزارا کتب و رسائل اردو، ہندی وغیرہ ہزار ہا اوراق کا گہرائی سے مطالعہ کیا۔ آج 82 سال کی عمر میں بھی خدا تعالیٰ اسلام کی خدمت کی توفیق دے رہا ہے۔ موجودہ حالات میں عوارض جسمانی نے غلبہ پایا ہے۔ تاہم جو بھی وقت ملتا ہے اسے راہ خدا میں صرف کیا جاتا ہے۔ بدر کے ہمدردوں سے التماس ہے کہ وہ خاکسار کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔

PRIME  
AUTO  
PARTS

House of Genuine Spares  
Ambassador  
&  
Maruti  
P, 48 PRINCEP STREET  
CALCULTTA - 700072 • 2370509





سے اور شروع سے ہی مکرّم بشیر الدین صاحب مکرّم مبارک احمد صاحب سملیہ مکرّم مسعود احمد صاحب پریس کے کارکن کی حیثیت سے خدمت بجلا رہے ہیں۔

### نیا موڑ آفسیٹ پریس ::

1991 میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابعیہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز قادیان تشریف لائے تو آپ نے قادیان میں آفسیٹ پریس کی تنصیب کی طرف خصوصی توجہ دلائی اور محترم سید عبدالحی صاحب ناظر اشاعت ربوہ کو اس سلسلہ میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت فرمائی آپ نے جائزہ لیکر حضور انور کی خدمت میں منصوبہ پیش فرمایا چنانچہ احمد آباد سے ہری کرشنا انجینئرنگ ورکس والوں نے آفسیٹ پینڈ فیڈ مشین منگوائی گئی اس طرح کیمبرہ یونٹ پلیٹ میکنگ یونٹ کنگنگ اور سٹیچنگ مشین منگوائی گئی۔ پلیٹ میکنگ کا کام مکرّم نور الدین صاحب چراغ نے شروع کیا۔ اس وقت مکرّم قمر الدین صاحب یہ کام کر رہے ہیں۔

نظارت دعوت و تبلیغ قادیان کے زیر اہتمام مکرّم عبد الباسط خان صاحب صوبائی امیر ایڑہ Ph.D کمپیوٹر انجینئرنگ کے سپرڈ کمپیوٹر سیکشن کا کام کیا گیا۔ چنانچہ مکرّم کرشن احمد صاحب، مکرّم مصباح الدین صاحب، مکرّم اعجاز احمد صاحب نے کمپیوٹرنگ کا کام سیکھا۔ اور کمپیوٹر سیکشن میں عربی انگریزی، ہندی، پنجابی کمپیوٹرنگ کی خدمات بجلا رہے ہیں۔ معیاری سوفٹ وئر کی فراہمی کے بعد 23 جنوری 1997ء سے بدر کی کمپیوٹرنگ بھی اسی سیکشن سے شروع ہوئی مارچ 2002ء سے حضور کی خصوصی شفقت کے نتیجے میں بدر کو اپنا کمپیوٹر سیٹ مل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کو کھت والی لمبی عمر عطا فرمائے اس پر اب بفضلہ تعالیٰ کام ہو رہا ہے جسکی سٹیٹنگ میں مکرّم خورشید احمد صاحب خادم کا خصوصی تعاون رہا ہے۔

6 جون 1996ء سے پورا بدر آفسیٹ پرنٹنگ پریس امرتسر میں چھپنے لگا اور اس کا سائز بھی افضل انٹرنیشنل کے صفحات کے برابر کر دیا گیا۔ 9 ستمبر 96ء سے قادیان میں فضل عمر آفسیٹ پرنٹنگ پریس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصنیف اسلامی اصول کی فلاسفی کے پنجابی ترجمہ کی طباعت سے باقاعدہ کام کرنا شروع کر دیا اس وقت سے بدر فضل عمر آفسیٹ پرنٹنگ پریس قادیان سے چھپنے لگا۔ خطبہ جمعہ اور حضور کے بعض خطابات افضل انٹرنیشنل سے بطور عکس لے لئے جاتے اور باقی حصہ کی کمپیوٹرنگ ہوتی رہی۔ بدر کی اشاعت میں مکرّم مولوی ظہیر احمد صاحب خادم منیجر بدر اور ان کے عملہ نے خاص تعاون دیا ہے جس کے ہم ممنون ہیں۔

مضامین و نظمیں لکھنے والوں کی فہرست بہت لمبی ہے جملہ مبلغین و معلمین و فکدار حضرات جنہوں نے بدر میں مستقل کام لکھے یا وقتاً فوقتاً خود یا ادارہ کی درخواست پر قلمی تعاون فرمایا اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

بدر کی بار مالی بحران کا شکار ہوا اور صفحات میں کمی پیش کرنی پڑی ایسے موقع پر بعض احباب نے بدر میں مستقل یا وقتی اشتہارات دے کر بدر کی مالی اعانت میں حصہ ڈالا گئی مخلص و ذی استطاعت افراد نے تو وسیع اشاعت کے لئے بے دریغ مالی اعانت فرمائی۔ اگر انقدر مالی عطیات دے اور بدر کے پرچے بڑھا کر فیروں کے نام تبلیغی جاری کر کے یا غریب مخلصین کے لئے رعایتی قیمت کے لئے

مالی اعانت کی۔ بعض احباب نے نئے خریدار بنائے بدر کے لئے رقم اکٹھی کرنے کے لئے دورہ جات کے اور ہر ممکن جانی مالی اور قلمی اعانت فرمائی خاص طور پر نمائندگان بدر۔ ان سب کی فہرست بہت طویل ہے۔ جب تک آسمان احمدیت پر بدر رہے گا قلمی و مالی معاونت کرنے والوں کے نام جگمگاتے رہیں گے ایسے ہی کئی لوگوں کی مخفی خدمات ہیں جو اللہ کے حضور یقیناً ظاہر و باہر اور محفوظ ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جزاء دے۔ اللہ تعالیٰ سب مخلصین کے نفوس اموال اور صحت میں برکت عطا کرے اور دینی دنیاوی روحانی جسمانی اور اخروی نعمتوں سے نوازے اور ہم سب کو اپنی رضا کی راہوں پر چلائے اور ہمیں اور ہماری حقیر اور عاجزانہ خدمات کو محض اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو تحریر کی صلاحیت عطا فرمائی ہے اور نئے فکدار ہیں ان سے گزارش ہے کہ ضروری و علمی مسائل پر ضرور لکھیں خواہ تھوڑا ہی، اور قومی و ملکی مفاد میں ضرور قلم اٹھائیں۔

### بدر کے متعلق گر انقدر تاثرات

بدر کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے دو بازوؤں میں سے ایک قرار دیا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالثی نے بدر کے متعلق فرمایا:-

☆ ”شکر ہے کہ اخبار بدر چھپنے لگ گیا ہے اس طرح قادیان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اس طرح اخبار ملتا رہے گا تو قادیان کی محبت انہیوں کے دلوں میں تازہ ہوتی رہے گی“

☆ سیدنا حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے ایک پیغام میں فرمایا:-

”اس زمانہ میں اخبار بھی بڑا اہم کام کرتے ہیں اگر آپ ایسے اخباروں کی اشاعت کریں جو اسلام کی روشنی پھیلانے کی خدمت کر رہے ہیں تو یقیناً ایک پختہ دوکان ہو جائیں گے اور آپ کے خیالات بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور آپ کا ایک اپنا اخبار بھی لوگوں میں مقبول ہو جائے گا اور آپ کی اندرونی اصلاح کا کام بھی ترقی کرے گا۔“ (بدر 11-55-28)

☆ بدر کی چھبیس سالہ خاص اشاعت پر حضرت خلیفۃ المسیح الثالثی نے پیغام میں فرمایا:-

”مجھے یہ معلوم کر کے بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہفت روزہ اخبار ”بدر“ قادیان اپنی اشاعت کے چھبیس سال پورے کر چکا ہے اور اب ستائیسواں سال شروع ہونے والا ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے حق و صداقت کی اشاعت کا ذریعہ بنائے اور مجبور و مقہور انسانیت کے لئے وہ زیادہ سے زیادہ طمانیت قلب اور حیات لو کے سامان فراہم کرنے کا موجب ثابت ہو اخبار بدر کو اپنے دور اول میں سلسلہ کی قابل قدر خدمات سرانجام دینے کی سعادت حاصل ہوئی اس خدمت کے باعث تاریخ احمدیت میں اس کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔“

اپنے دور ثانی میں بھی یہ اخبار نہایت مفید کام کرتا رہا ہے اور اب بھی مرکز کے حالات اور مرکزی ہدایات و تحریکات کو احباب جماعت تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے اس کی اشاعت کو بڑھانا اور سلسلہ کے لئے اور نوع انسان کے لئے اسے زیادہ سے زیادہ مفید بنانا جماعت کی ذمہ داری ہے ذی استطاعت احباب کو اس طرف خاص توجہ کرنی چاہئے۔“ (بدر 22 دسمبر 77)

☆ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابعیہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے اپنے 82-10-24 کے خط میں فرمایا:-

”اللہ تعالیٰ کے فضل سے بدر کا معیار بہت اچھا ہے اور نظر آتا ہے کہ کسی نے اسے دلچسپ بنانے کے لئے محنت کی ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزاء“ (بدر 1-83-6)

حضور پر نور نے 89-4-11 کے خط میں ایڈیٹر کو فرمایا:-

”ماشاء اللہ بدر بہت اچھا چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی صلاحیت کو اور چمکائے اور بدر کی اشاعت وسیع ہو اور لوگ اس سے فیضیاب ہوں۔ تمام معاونین کو میرا محبت بھر اسلام دیں اور نئی صدی کی مبارکباد (بدر 5-89-11)

☆ حضور نے 90-2-20 کو فرمایا:-

اللہ تعالیٰ بدر کے وقار کو ہزاروں چند بڑھائے اور اپنے نام کی مانند ہمیشہ روشن سے روشن تر ہو کر طلوع ہوتا رہے۔ (بدر 3-90-29)

☆ حضور نے فرمایا:-

”بدر کا جلسہ سالانہ نمبر ماشاء اللہ بہت اچھا اور عمدہ مضامین سے مرصع ہے۔ اخبار ہر لحاظ سے مفید ہے اور ماشاء اللہ اب اس کا معیار روز بروز بڑھ رہا ہے تاہم مزید کی گنجائش ابھی باقی ہے“ (بدر 4-90-19)

☆ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود نمبر 95ء پر اپنے 96-3-3 کے مکتوب میں فرمایا:-

”آپ نے ہفت روزہ بدر کا جو مسیح موعود نمبر شائع کیا ہے وہ تو ماشاء اللہ بہت ہی عمدہ مضامین پر مشتمل ہے آپ نے خدا کے فضل سے اس کی تیاری میں کافی محنت کی ہے اللہ قبول فرمائے اور بہتوں کو اس سے استفادہ کی توفیق دے۔ نئی نسل کے بچوں کے لئے اس سے استفادہ کا پروگرام بنانا چاہئے اس کے لئے نظارت دعوت و تبلیغ سے رابطہ کریں اس نہایت عمدہ کاوش پر اللہ آپ کو اور آپ کے سب ساتھیوں کو دائمی حسنت سے نوازے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ سب کارکنان کو محبت بھرا سلام اور اس زندگی بخش مساعی پر مبارکباد اللہ آپ کے ساتھ ہو“ (بدر 21 مارچ 96ء)

جلد ہی یہ نمبر ختم ہو گیا حضور کے ارشاد اور احباب کے مزید مطالبہ پر 1000 کی تعداد میں دوبارہ نظارت نشر و اشاعت کی طرف سے شائع کیا گیا۔ اور پھر تیسری مرتبہ بھی شائع کیا گیا۔

☆ مکرّم مولانا ابوالعطاء صاحب جالندھری ربوہ نے اپنے مکتوب 69-9-21 میں فرمایا:-

”پرسوں حضور انور ایدہ اللہ بنصرہ العزیز سے پیغام صلح کے اخبار بدر کے مواخذات سے تنگ آکر چیخ اٹھنے کا ذکر آیا تھا حضور نے اس سلسلہ میں فرمایا ”میں بدر سارا پڑھتا ہوں اور میں اس سے بہت خوش ہوں“

☆ 6 ماہ بعد بدر ملنے پر حضرت قاضی محمد ظہور الدین صاحب اکمل ربوہ نے فرمایا:-

فروری کا آخری دن سن چھبیسواں جبکہ تھا چھ مہینے بعد آیا ہے نظر بدر بدی آنکھیں روشن ہو گئیں اللہ حفیظ اپنا ہوا شاد ہے اکمل کہ فیض احمد کا جاری ہو گیا

☆ حضرت چوہدری سر محمد ظفر اللہ خان صاحب نے بدر کی سلور جوبلی کی اشاعت کے لئے مکتوب تحریر فرمایا:-

”بدر کا ہفتہ وار پرچہ باقاعدگی سے میرا آجاتا ہے اور

خاکسار اسے بڑے شوق سے مطالعہ کرتا ہے۔ بدر نے شروع سے لے کر تمام عرصہ میں ہر لحاظ سے بلند معیار قائم رکھا ہوا ہے اور سلسلہ عالیہ احمدیہ کی بہت قابل قدر خدمت کی ہے“

☆ چوہدری صاحب نے 74-7-3 کے گرامی نامہ میں فرمایا:-

”بدر اس نازک مرحلے پر بڑی قابل قدر خدمت کر رہا ہے خاکسار اول سے آخر تک بڑے شوق اور توجہ سے پڑھتا ہے اور دل سے دعا کرتی ہے یوں بھی مضامین کا وسیع بہت بلند ہے“

☆ محترم امام صاحب مسجد فضل لندن جناب بشیر احمد نقی لکھتے ہیں:-

”اخبار بدر مل رہا ہے خدا تعالیٰ کے فضل سے اس کا معیار بہت اونچا ہے ایک ایک لفظ پڑھتا ہوں اور لطف اٹھاتا ہوں“

☆ محترمہ رشیدہ شیخ صاحبہ نے شکر محکم برطانیہ سے لکھا:-

”بدر مجھے باقاعدگی سے ملتا رہا آپ کی خصوصی توجہ کا شکر یہ کہ قارئین کو عین وقت پر روحانی غذا ملتی رہی۔ جب تک تمام خبریں نہ پڑھ لیتی چین نہیں آتا تھا۔ انہی مضامین کی بدولت اس ملک میں اپنا ماحول میسر رہا وطن سے دوری کا احساس مدہم ہوتا رہا“

☆ ماسٹر محمد ابراہیم صاحب مبلغ امریکہ جو کہ تعلیم الاسلام ہائی سکول ربوہ کے سال ہاسال ہیڈ ماسٹر رہے لکھتے ہیں:-

”ہمارے مرکزی اخبار بھی کیا نعمت ہیں ان سے ہر معروف و مخلص احمدی کے کوائف اور حالات کا علم ہوتا رہتا ہے ہم کسی ملک میں ہوں افضل اور بدر کے ذریعے ہر ملک کے باسیوں کے متعلق خبریں مل جاتی ہیں ہماری عین الاقوامی تحریک کے آرگن اس لحاظ سے نعمت غیر مرتبہ ہیں۔ ماشاء اللہ ہمارا بدر علمی لحاظ سے نہایت ہی عمدہ اور ٹھوس معلومات بہم پہنچا رہا ہے اس میں چھپنے والی مبلغین کی رپورٹیں نہایت موثر اور مقبول ہوتی ہیں کوائف کے علاوہ ان میں اختلافی مسائل کو جس طرح پیش کیا جاتا ہے اس سے یہ بذات خود ایک علمی خزانہ برہنہ جاتا ہے۔ بدر کی خریداری سے ہر احمدی تبلیغی اور تعلیمی اور علمی جہاد میں شامل ہو سکتا ہے جس کا بدر علمبردار ہے“

☆ مکرّم منصور احمد صاحب بی ٹی لندن لکھتے ہیں:-

”الحمد للہ تم الحمد للہ کہ بدر نہایت باقاعدگی سے موصول ہو رہا ہے اور اس کے مضامین پڑھ کر دل جذبات سے بھر جاتا ہے اردو نہایت عمدہ، مضامین مثالی، موضوع برحق، الغرض ہر لحاظ سے بدر اپنی نورانی اور پرسکون چاندنی سے دنیا کو منور کر رہا ہے اگر کوئی شکایت ہے تو یہ ہے کہ بس چند صفحات پر مشتمل ہوتا ہے۔ بہر حال دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ بدر کو ماہ کامل بنا دے اور اس کی شعاؤں سے ایک جہان روشن ہو۔“ (بدر 5-12-91)

☆ بدر 95ء کی خصوصی اشاعت پر عبد الغفار صاحب ڈار اور لپنڈی پاکستان نے لکھا:-

”آپ نے اس سال بدر کا جو سالنامہ جماعت کو دیا ہے یہ وہ علمی تحفہ ہے کہ دعوت الی اللہ کے ہر داعی کے پاس موجود ہونا چاہئے۔ خدا کرے کہ یہ رسالہ بہتوں کی ہدایت کا موجب ہو۔ میں اس سالنامے کے اجراء پر آپ کو دلی







## جناب ثاقب زیروی اور ان کا ہفت روزہ 'لاہور'

آپ کا اصل نام چودھری محمد صدیق تھا۔ والد حضرت حکیم مولوی اللہ بخش خان صاحب زیرہ ضلع فیروزپور کے زمیندار گھرانہ سے تعلق رکھتے تھے۔ انہیں ۱۹۰۵ء میں قبول احمدیت کی سعادت حاصل ہوئی۔ محترم ثاقب صاحب قریباً ۱۹۱۸ء میں پیدا ہوئے۔ ۱۹۳۳ء میں میٹرک کیا اور پھر ادیب فاضل، منشی فاضل اور بی۔ اے بھی کیا۔ میٹرک کے بعد نائپ اور شراٹ پنڈ سیکھ کر سیشن کورٹ میں ملازمت کی جو ۱۹۳۷ء میں ترک کر دی اور لاہور آکر احسان دانش کے رسالہ "گنجینہ اردو" میں نائپ مدیر ہو گئے۔ دو سال بعد رسالہ بند ہو گیا تو کوآپریٹو میں ملازم ہو گئے۔ ۱۹۴۵ء میں قادیان گئے تو حضرت مصلح موعودؑ کی وقف کی تحریک پر لبیک کہا۔ ۱۹۴۶ء میں وقف منظور ہو گیا اور حضورؑ نے آپ کو صحافت کی عملی تربیت کے لئے روزنامہ "انقلاب" کے ایڈیٹر جناب عبدالجید سالک کے پاس بھجوا دیا جہاں آپ دو سال رہے اور قیام پاکستان کے بعد حضورؑ کی خدمت میں تربیت مکمل ہونے کی رپورٹ کی۔ حضورؑ نے آپ کو اپنا پریس سیکرٹری مقرر کیا۔ آپ روزنامہ "الفضل" ربوہ اور بعض دیگر اداروں سے بھی منسلک رہے۔ ۱۹۵۲ء میں حضورؑ کی اجازت سے رسالہ "لاہور" جاری کیا۔ لاہور میں آپ کو نمایاں جماعتی خدمات کی توفیق ملتی رہی ہے۔ وفات کے وقت جماعت احمدیہ لاہور کے سیکرٹری امور خارجہ تھے۔

جلسہ ہائے سالانہ پر آپ کو سالہا سال حضرت مصلح موعودؑ کا کلام پڑھنے کا اعزاز حاصل ہے۔ اپنی نظمیں بھی مسور کن ترنم میں سنایا کرتے تھے۔ جماعتی پروگراموں میں نظم خوانی کا آغاز آپ نے ۱۹۳۹ء میں خدام الاحمدیہ کے اجتماع سے کیا تھا۔ رسالہ "لاہور" کے مدیر کے طور پر آپ نے خوب صحافتی جوہر دکھائے اور کئی قلمی ناموں سے بھی لکھا۔ ریڈیو پاکستان سے ایک عرصہ تک آپ کے سیاسی تبصرے نشر ہوتے رہے۔ آپ کا منظوم کلام نصف صدی سے زائد جماعتی اخبارات و رسائل کی زینت بنا رہا۔ ۱۹۷۳ء میں آپ پر سرکاری میڈیا بند کر دیا گیا لیکن ملک کے ادبی حلقے آپ کی شاعری کے ہمیشہ معترف رہے۔ آپ کے متعدد شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔

آپ کو ملکی قوانین کے تحت ہر دور میں کئی مقدمات کا سامنا کرنا پڑا۔ خصوصاً ۱۹۷۳ء اور ۱۹۸۳ء کے آرڈیننس کے بعد بے انتہا مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ آپ کی شخصیت محنت، تنظیم، وقف اور جہد مسلسل سے عبارت

تھی۔ جماعت اور خلافت کے ساتھ وابستگی اور سچی وفاداری رکھتے تھے۔ ایک نڈر، غیرت مند اور با اصول آدمی تھے۔ کبھی ذاتی مفاد کو ترجیح نہیں دی۔ ۱۳ جنوری ۲۰۰۲ء کی شب آپ لاہور میں عمر ۸۴ سال انتقال کر گئے۔ بہشتی مقبرہ ربوہ میں تدفین عمل میں آئی۔

روزنامہ "الفضل" ربوہ ۲۲ مئی ۲۰۰۲ء میں محترم ثاقب زیروی صاحب کا ذکر خیر کرتے ہوئے مكرم حمید اللہ ظفر صاحب بیان کرتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب کشف بزرگ تھے اور والدہ بھی شب زندہ دار خاتون تھیں۔ اس ماحول میں آپ نے پرورش پائی اور جوانی میں ہی اپنے رب سے راز و نیاز کیا کرتے تھے۔ تقسیم ہند کے زمانہ میں ایک بار غنودگی میں آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوئے کہ تیرا اگلا دور پہلے سے بہتر ہوگا۔ آپ نے اپنے والد صاحب کو بتایا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر خدا تعالیٰ نے ہمیں شہادت نصیب کی تو ہماری دنیاوی زندگی سے

### احمدی صحافت دوسروں کی نظر میں

آج سے پون صدی قبل آریہ سماج کے مشہور اخبار "تیج" دہلی نے 25 جولائی 1927 کی اشاعت میں جماعت احمدیہ کے اخبارات کے زیر عنوان لکھا:۔  
"ویسے تو اخبارات ہر ایک انجمن اور سبھا کی طرف سے شائع ہوتے ہیں لیکن احمدیوں کے اخبار میں بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں۔ اخبارات کے مضامین اور خبریں نہایت اچھی اور فائدہ مند ہوتی ہیں اور ان کو اس سلیقہ سے مرتب کیا جاتا ہے کہ وہ ناظرین کیلئے نہایت مفید اور دلچسپ ہو جاتے ہیں"۔

دی اور سحری کے وقت خدا تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ گرفتاری نہیں ہوگی۔ صبح جب م۔ ش صاحب اپنے کپڑے وغیرہ لے کر آپ کے ہاں پہنچے تو آپ بغیر کسی سامان کے ساتھ چل پڑے۔ انہوں نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے آپ کو کوئی خواب آئی ہے۔ آپ نے کہا کہ خواب نہیں آئی، ڈائریکٹ ڈانٹ لنگ ہوئی ہے اور میں اپنے رب پر بد اعتمادی نہیں کر سکتا۔ تھانہ جانے سے قبل یہ اپنے پریس پینچے کے چائے پی کر چلتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں وہاں دکلاہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر پہنچے کہ ہم تھانہ سے ہو کر آئے ہیں۔ SHO نے بتایا ہے کہ انہیں فون آ گیا ہے کہ گرفتار نہیں کرنا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالثؑ کی وفات پر خلافت رابعہ کے انتخاب سے ایک رات پہلے محترم ثاقب صاحب دارالضیافت ربوہ میں نفل پڑھ رہے تھے کہ ایک بلند آواز آئی: "ابن مریم آ رہا ہے"۔

اگلی زندگی بہتر ہوگی اور اگر زندہ رہے تو بھی پہلی زندگی سے بہتر زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ جب قومی اسمبلی نے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا تو چیف سیکرٹری پنجاب نے ایک دعوت افطار میں مكرم ثاقب صاحب کو بھی مدعو کیا۔ آپ نے سیکرٹری صاحب سے پوچھا کہ آپ کی اسمبلی نے تو ہمیں غیر مسلم قرار دیدیا ہے اور آپ نے مجھے دعوت افطار میں مدعو کیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے سوچا کم از کم ایک تو روزہ دار بلاوں تاکہ اسے دعوت افطار کہا جاسکے۔

بھٹو دور میں "لاہور" رسالہ میں "روزنامہ" لکھنے پر جب ثاقب صاحب اور م۔ ش صاحب کے خلاف ایک مقدمہ دائر ہوا تو ایک دن دونوں کو پکڑ کر تھانہ لے جایا گیا۔ جب رات ہو گئی تو تھانہ دار نے کہا کہ تھانہ کی عمارت زیر تعمیر ہونے کی وجہ سے آپ دونوں کو رات نہیں رکھا جاسکتا لیکن آپ صبح

- ☆ اگر آپ حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ تعالیٰ کے خطبات اور بزرگان سلسلہ کے مضامین اور عالم احمدیت کی خبروں سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں
- ☆ اگر آپ اپنے دوستوں عزیزوں اور رشتہ داروں کو احمدیت کی لو لگانا چاہتے ہیں اور بچوں اور خواتین میں دینداری چاہتے ہیں
- ☆ اگر آپ سلسلہ احمدیہ کی ضروری خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں
- ☆ اگر آپ جماعت احمدیہ کے دائمی مرکز کی خبروں سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں
- ☆ اگر آپ سلسلہ کے دائمی مرکز کے ذریعہ غیر مسلموں میں تبلیغ کرنا چاہتے ہیں
- ☆ اگر آپ عالمگیر جماعت احمدیہ کے بیرونی مشنوں کے حالات جاننا چاہتے ہیں
- ☆ اگر آپ معمولی خرچ پر کسی ملک میں کسی کو تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو

## "بدر" جاری کرائیں اور پڑھیں

میںجو بدر

آواز اتنی بلند تھی کہ آپ نے کھڑکی کھول کر دیکھا کہ شاید باہر کوئی آواز دے رہا ہے۔

روزنامہ "الفضل" ربوہ ۱۸ جولائی ۲۰۰۲ء میں شامل اشاعت جناب راغب مراد آبادی صاحب کی ایک نظم سے انتخاب ہدیہ قارئین ہے: شمع حب احمدؑ مرسل ہے دل میں صوفی گلن بے نیاز دولت دنیا ہیں ثاقب زیروی جملہ اصناف سخن میں شعر گوئی کی مگر نعت میں بھی مثل آپ اپنا ہیں ثاقب زیروی حرف حق کہنے سے باز آجائیں ممکن ہی نہیں نرغہ اعداء میں گو تہا ہیں ثاقب زیروی نعت گوئی ہی کا ہے راغب یہ اک اعجاز ہے وارث فکر فلک پیا ہیں ثاقب زیروی

مجلس خدام الاحمدیہ کینیڈا کے سہ ماہی "النداء" مارچ تا جون ۲۰۰۲ء میں محترم ثاقب زیروی صاحب کے بارہ میں مكرم سعید احمد مجید صاحب کے مضمون میں محترم ثاقب زیروی صاحب کے بارہ میں معروف شاعر احمد فراز صاحب کے حوالہ سے لکھا ہے: "ثاقب زیروی جیسے لوگ محض شخصیتیں نہیں تہذیبیں ہوا کرتی ہیں۔ ان کو سنبھالے رکھنا اور ان کی حفاظت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ایسی شخصیات ہیں کہ جن کے بارہ میں یہ شعر ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ چند شمعیں ہیں ان کے گرد حلقہ کر کے بیٹھ جاؤ تاکہ کچھ تو روشنی ان سے حاصل ہوتی رہے۔"

نامور کالم نگار، شاعر، ادیب، صحافی، دانشور جناب منوبھائی کہتے ہیں: "جب دلوں کی آرزو سبکڑی رہی ہوں اور معاشرہ کی رگوں میں اندھیرا اتر رہا ہو، ایسے دور میں ثاقب زیروی جیسے لوگ روشنی کی کرن ہوتے ہیں۔" (بشریہ الفضل انٹرنیشنل ۵۲)

### دعائوں کے طالب

محمود احمد بانی

منصور احمد بانی اسد محمود بانی

کلکتہ

SHOWROOM: 237-2185, 236-9893 WAREHOUSE: 343-4006, 343-4137 RESI: 236-2096, 236-4696, 237-8749 FAX NO: 91-33-236-9893

BANI®

موٹر گاڑیوں کے پرزہ جات

Our Founder :

Late Mian Muhammad Yusuf Bani (1908-1968)

AUTOMOTIVE RUBBER CO.

BANI AUTOMOTIVES ★ BANI DISTRIBUTORS

5, Sooterkin Street, Calcutta-700072



صاحب، عربی ام اللہ، مہالہ اور اس کا انجام (ضیاء الحق کی ہلاکت) احمدیہ صد سالہ تقریب، ڈاکٹر عبد السلام، کفن مسیح، قرآن مجید کی معجزہ نمائی، ملینیم سپیش وغیرہ خاص نمبران میں سے چند ہیں۔

خدا تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ یہ رسالہ تعلیم یافتہ طبقہ میں بہت مقبول ہے اس کے ایڈیٹر کے فرائض کرم ایم علی کو یا صاحب ادا کرتے ہیں۔

مذکورہ جماعتی رسالوں کے علاوہ کیرلہ کی تینوں ذیلی تنظیموں کی طرف سے بھی مالا مال زبانوں میں رسائل باقاعدہ شائع ہوتے رہے ہیں۔

### انصار

مجلس انصار اللہ کیرلہ کی طرف سے انصار کے نام سے 1994ء تا 2000ء ایک سہ ماہی رسالہ کرم بی ایم کو یا صاحب ناظم اعلیٰ مجلس انصار اللہ کیرلہ کی زیر ادارت شائع ہوا۔

### ستیا مترم

اس کے بعد انصار کی جگہ ستیا مترم کے نام سے نہایت شاندار setup & getup کے ساتھ جولائی 2001ء سے ایک ماہانہ رسالہ موصوف ہی کی ادارت میں مجلس انصار اللہ کیرلہ کی طرف سے شائع ہو رہا ہے۔ تفسیر کبیر میں سے قرآن مجید کی تفسیر کی اشاعت اس کی خصوصیت ہے۔ نیز حالات حاضرہ پر تبصرہ کرتے ہوئے اس کے مضامین بہت ہی مقبول ہیں۔

### الحق

مجلس خدام الاحمدیہ کاواشیری کی طرف سے 1982ء سے الحق نام سے ایک قلمی رسالہ شروع ہوا۔ جو 1992ء تک جاری رہا۔ اس کے بعد جولائی

1993ء سے مجلس خدام الاحمدیہ کیرلہ کی طرف سے یہ رسالہ جاری ہوا۔ 1994ء سے یہ اخباری شکل میں (بدر کے ساز پر) شائع ہونا شروع ہوا۔ اس رسالہ میں News Bulletin کے طور پر کیرلہ اور ہندوستان کے دیگر علاقوں کی احمدی خبریں باقاعدہ شائع ہوتی رہیں۔ نیز حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ملفوظات، حضرت خلیفۃ المسیح الرابعی کے خطبات کے اقتباسات وغیرہ بھی شریک اشاعت ہوتے رہے۔ خاص کر مجلس خدام الاحمدیہ کی سرگرمیوں کی رپورٹیں بھی ہر پرچہ میں آتی رہیں۔ اس پبلیشن کے ایڈیٹر کرم ایچ سلیمان کاواشیری ہیں۔

### النور

لجنہ اماء اللہ کیرلہ کی طرف سے جولائی ستمبر 94ء کو النور کے نام سے ایک سہ ماہی رسالہ کے اجراء کی توفیق ملی۔ احمدی مستورات کی قابلیت اور ان کے خداداد ہنر کو اجاگر کرنے اور منظر عام پر لانے کیلئے یہ پہلا اقدام ہے۔ یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ احمدی خواتین کی طرف سے صرف ان ہی کے مضامین، ترجمے و نظمیں وغیرہ پر مشتمل جاری شدہ یہ سہ ماہی رسالہ ہندوستان سے شائع ہونے والا احمدی مستورات کا اول اور واحد رسالہ ہے۔ خدا کے فضل و کرم سے 1994ء سے لے کر اب تک صرف مستورات کے مضامین وغیرہ لئے ہوئے یہ رسالہ بلا ناغہ جاری و ساری ہے۔ اس سے بہت ساری احمدی بہنوں کو ان کی قابلیت اجاگر کرنے کی توفیق ملتی رہی ہے۔ محترمہ فوزیہ جمال (تروینڈرم) اس کی پہلی مدیرہ ہیں۔ اور محترمہ بی زینب بی صاحبہ (پیننگا ڈی) نائب ایڈیٹر ہیں۔

اس طرح خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت احمدیہ کیرلہ کو صحافت کے میدان میں نمایاں کردار ادا کرنے کی توفیق ملی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اہم فریضہ کو کما حقہ ادا کرنے اور قلمی میدان میں زیادہ سے زیادہ مقبول خدمات بجالانے کی توفیق عطا فرمائے۔ و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین۔

### بقیہ صفحہ: ( 40 )

جاتے ہیں جس کے مدیر عبد الحمید آف مارش ہیں۔ رسالہ میں اعلیٰ پایہ کے مضامین شائع کئے جاتے ہیں اور بڑی عرق ریزی سے تیار کیا جاتا ہے۔

پچھلے چند ماہ سے اس کی تیاری میں نیل رانا مدد کر رہے ہیں جو کمپیوٹر ڈیزائن اور ویب پیجز کے ماہر ہیں۔ رسالہ میں رنگین تصاویر شامل کی جاتی ہیں۔ میرے سامنے اس وقت احمدیہ گزٹ کا سلور جوبلی نمبر پڑا ہوا ہے۔ جو اگست تا دسمبر 2001ء پر مشتمل ہے۔ اس کے انگلش حصہ کے 143 صفحات


ہیں اور اردو حصہ کے 104 صفحات۔ یعنی کل 247 صفحات پر مشتمل ڈیز کاغذ پر یہ رسالہ شائع کیا گیا ہے۔ کتابت، چھپائی، مضامین کا معیار سبھی تعریف کے قابل ہیں۔ مشنری انچارج نسیم مہدی صاحب کے تحت کام کرنے والے تمام رضا کار مخلص اور جاں نثار ہیں۔

### النساء

لجنہ اماء اللہ کینڈا کی مہمراہ کیلئے اس رسالہ کا اجراء 1980ء میں ہوا۔ اس کی پہلی مدیرہ امۃ الصبور تھیں۔

### النداء

یہ سہ ماہی رسالہ مجلس خدام الاحمدیہ کینڈا کا ترجمان ہے۔ اس کا اجراء 1988ء میں ہوا۔ چند سال قبل اس کے انگلش حصہ کے ایڈیٹر اطہر نوید ملک اور اردو حصہ کے ایڈیٹر ناصر احمد ونیس تھے۔ جون 1997ء میں اس رسالہ کا عبد السلام نمبر شائع ہوا۔



## بدر کی مالی اور قلمی اعانت کر کے عند اللہ ماجور ہوں

### شریف جیو لٹریچر

پروپرائیٹری حنفیہ احمد کامران - حاجی شریف احمد

اقصی روڈ ریلوے پاکستان  
فون: 0092-4524-212515  
رہائش: 0092-4524-212300

روایتی  
زیورات  
جدید  
فیشن  
کے  
ساتھ


## Muslim Television Ahmadiyya International

### The First ISLAMIC Digital Satellite Channel

#### Broadcasting Round The Clock

Audio Frequency	
English	: 7.02 MHz
Arabic	: 7.20 MHz
Bengali	: 7.38 MHz
French	: 7.56 MHz
Turkish	: 8.10 MHz
Indonesian	: 7.92 MHz
Russian	: 7.92MHz

Satellite	: Asia Sat-2 100.5 Deg. East.
LNB	: C Band
Transponder	: 1-A
Down Link Frequency	: 36.60 GHz/3660MHz
Local Frequency	: 05150
Polarity	: Vertical
Symbol rate	: 27500
PID	: Auto
FEC	: 3/4
Dish Size	: 2 Meters/6-Foot (Solid)



### M.T.A International

P.O Box. 12926, London SW 18 4ZN  
Tel. : 44-181870 8517 Fax : 44-181-874 8344  
Website : <http://www.alislam.org/mta>

### M.T.A QADIAN

NAZARAT NASHRO - ISHAAT  
Qadian - 143516  
Ph.: 01872-20749 Fax : 01872-20105


## مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ انٹرنیشنل ڈیجیٹل سروس

آپ کو یہ جان کر خوش ہوگی کہ اب آپ کا پسندیدہ ٹی وی چینل مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ انٹرنیشنل ڈیجیٹل ہو چکا ہے۔ الحمد للہ۔ ہم اگر آپ خود یا اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم سے روشناس کرانا چاہتے ہیں۔ ہم اگر آپ موجودہ فاشی سے بھرپور ٹی وی چینل سے فوج کر اپنی اور بچوں کی اخلاقی و روحانی پرورش کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیشہ مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ انٹرنیشنل ڈیجیٹل سروس ہی دیکھئے۔ اس میں نماز سکھانے، قرآن مجید سکھانے کے علاوہ حضرت امام جماعت احمدیہ عالمگیر کے درس القرآن، ترجمہ القرآن و ہومیو پیٹھی کلاس اور مجالس عرفان نشر ہوتی ہیں۔ علاوہ ازیں زبانیں سکھانے اور کمپیوٹر سائنس سے متعلق دیگر معلومات سے بھرپور پروگراموں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ جماعت احمدیہ کا عربی رسالہ التوحی لندن، الفضل انٹرنیشنل لندن جماعتی کتب اور دیگر معلومات Computer Internet پر دیکھ سکتے ہیں جس کا نمبر نیچے دیا گیا ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کے خطبات، ہومیو پیٹھی کلاسز اور دیگر ضروری پروگرام کی ویڈیو کیسٹ حاصل کرنے کیلئے نیچے لکھے پتہ جات پر رابطہ قائم کریں۔  
نوٹ: ایم ٹی اے کی جملہ نشریات کا پی آر اے C قانون کے تحت رجسٹرڈ ہیں۔ اس کے کسی بھی حصہ کی بلا اجازت اشاعت یا نشر خلاف قانون ہے۔





محترمہ اماتہ اللہ خورشید صاحبہ  
ایڈیٹر ماہنامہ مصباح ربوہ



محترم بشیر احمد صاحب آرچرڈ ہیلنگ انگلستان  
ایڈیٹر "مسلم ہیرلڈ" گلاسکو، انگلینڈ



جناب حلمی الشافعی صاحب مرحوم  
سابق ایڈیٹر رسالہ التقویٰ لندن



محترم حافظ قدرت اللہ صاحب  
ایڈیٹر رسالہ الاسلام ہیگ، ہالینڈ



محترم مولانا دوست محمد صاحب شاہد  
معروف صحافی و کالم نگار

## مدیران و معاونین بدر



محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد  
قائم مقام ایڈیٹر بدر (1991ء تا 1992ء)



محترم مولانا عبدالحق صاحب فضل  
ایڈیٹر بدر (1988ء تا 1991ء)



محترم مولانا خورشید احمد صاحب انور  
ایڈیٹر بدر (1979ء تا 1988ء)



محترم مولانا محمد حفیظ صاحب بقا پوری  
ایڈیٹر بدر (1956ء تا 1979ء)



محترم برکات احمد صاحب راجیکی  
ایڈیٹر بدر (1952ء تا 1954ء)



محترم منیر احمد صاحب حافظ آبادی  
پرنٹر و پبلشر بدر قادیان



محترم مولانا محمد انعام صاحب غوری  
نگران بدر بورڈ قادیان




محترم مولوی خورشید احمد صاحب پریمار  
بدر کے معروف مضمون نگار



محترم مولانا محمد ابراہیم صاحب قادیانی  
بدر کے معروف مضمون نگار



منیر احمد خادم  
ایڈیٹر بدر (1992ء تا حال)



محترم قاضی عبدالحمید صاحب درویش  
تقسیم ملک کے بعد بدر کے پہلے کاتب




محترم مولوی جاوید اقبال صاحب اختر  
بدر کی طباعت میں خاص تعاون



منصور احمد  
نائب ایڈیٹر بدر



قریشی محمد فضل اللہ  
نائب ایڈیٹر بدر



محترم مولانا ظہیر احمد صاحب خادم  
مینجر بدر قادیان



محترم مولانا زین الدین صاحب حاد  
ایڈیٹر ماہ نامہ مشکوٰۃ قادیان



محترم مولانا محمد نسیم خان صاحب  
ایڈیٹر رسالہ ماہ نامہ راہ ایمان قادیان (ہندی)



محترم مولانا محمد جمید کوثر صاحب  
ایڈیٹر سہ ماہی رسالہ انصار اللہ قادیان



محترم بدر الدین صاحب مہتاب  
مینجر پریس آدیان



محترم چودھری عبدالسلام صاحب درویش  
تقسیم ملک کے بعد پہلے انچارج پریس



Editor:  
Muneer Ahmad Khadim

Tel Fax (0091) 01872-20757  
Tel Fax (0091) 01872-21702  
Tel (0091) 01872-20814

# The Weekly BADR Qadian

Qadian 143516, Distt. Gurdaspur Punjab (INDIA)

Vol:51 ♦ Wednesday ♦ 18-25 December 2002 ♦ Issue No.51-52

Subscription

Annual Rs/-200

Foreign

By Air : 20 £ or 40 U.S \$

: 60 Mark Germany


By Sea : 10 £ Or 20 U.S \$



مکرم محمد کریم اللہ نوجوان صاحب مدراس  
مدیر "آزاد نوجوان"



مکرم محمد ماسٹر مشرق علی صاحب مٹا  
ایڈیٹر رسالہ البشری کلکتہ



محترم ایم علی کوپیا صاحب  
مدیر منارٹ انگریزی سہ ماہی رسالہ کالیکٹ (کیرلہ)



محترم اے ایم محمد سلیم صاحب  
مدیر ستیہ دو تن ملیالم ماہنامہ کالیکٹ کیرلہ



مکرم مولانا محمد عمر صاحب مبلغ انچارج کیرلہ  
چیف ایڈیٹر ستیہ دو تن کیرلہ



سالانہ اجتماع 2001ء کے موقع پر محترم صاحبزادہ مرزا اہم صاحب کا تقریبی دورہ میں ان کے ساتھ کئی بچے اور بچیاں بھی تھیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کے والدین اور دیگر عزیزوں نے بھی شرکت کی۔



محترم صاحبزادہ مرزا اہم صاحب کا تقریبی دورہ میں ان کے ساتھ کئی بچے اور بچیاں بھی تھیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کے والدین اور دیگر عزیزوں نے بھی شرکت کی۔



جلس انصار اللہ بھارت کے سالانہ اجتماع 2002ء کے موقع پر محترم صاحبزادہ مرزا اہم صاحب کے والدین صاحب  
محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہ صدر مجلس اور بائیں جانب محترم صاحبزادہ مرزا اہم صاحب، مکرم وحید الدین  
صاحب شمس نائب صدر صاحبان تکریم فرما رہے ہیں۔ محترم مولانا اقبال صاحب انچارج مرکزی لائبریری لگم پور ہے ہیں



مدرسہ تعلیم الاسلام ہاری پاری گام کشمیر کے بچے جناب عبدالحمید صاحب  
ناک امیر جماعت احمدیہ صوبہ کشمیر کو انکی اسکول آمد پر سلامی دیتے ہوئے



سالانہ اجتماع واقفین 2002ء کے دوران محترم صاحبزادہ مرزا اہم صاحب کا تقریبی دورہ کے موقع پر۔



عزت مآب ہاؤس پر مانتہ صاحب گورنر بریٹانیا کو کتاب قادی صاحبہ اور صاحبہ نائب نگران ہزارہانگل، مکرم اہم  
صاحبہ خادمہ مکرم سیر خان صاحبہ سلا بریٹانیا قرآن مجید ہندی و اسلامی لٹریچر کا تحفہ پیش کر کے ہوئے



سالانہ اجتماع خدام اللہ بھارت 2002ء کے موقع پر محترم صاحبزادہ مرزا اہم صاحب کا تقریبی دورہ میں ان کے ساتھ کئی بچے اور بچیاں بھی تھیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کے والدین اور دیگر عزیزوں نے بھی شرکت کی۔



عزت مآب محترم دلاس راؤ دیکھ وزیر اعلیٰ مہاراشٹر کو مکرم عقیل احمد صاحب سہارنپوری سرکل  
انچارج جماعت احمدیہ شولا پور مہاراشٹر ہینڈل کرافٹ اور اسلامی لٹریچر کا تحفہ پیش کر رہے ہیں




محترم صاحبزادہ مرزا اہم صاحب کا تقریبی دورہ میں ان کے ساتھ کئی بچے اور بچیاں بھی تھیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کے والدین اور دیگر عزیزوں نے بھی شرکت کی۔



بے گاؤں بھونان میں 21 اپریل 2002ء کو جماعت احمدیہ کی سالانہ کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس موقع پر  
مکرم سیر احمد صاحب حافظ آبادی وکیل اعلیٰ تحریک جدید دعا کروا کے کانفرنس کا افتتاح فرما رہے ہیں۔



بریتانیا کے نومباہن انصار نے اس سال جلس انصار اللہ بھارت کے سالانہ اجتماع میں بھلی شرکت کی۔ شرکاء کا ایک گروپ فوٹو



کونام (کیرلہ) میں احمدیہ بک سٹال منعقدہ 02-01-31